

تحریک آزادی فکر

اور

شاہ ولی اللہؒ کی تجدیدی مساعی

www.KitaboSunnat.com

تالیف

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ

بجھتیق و تخریج

حافظ شاہ محمود

فاضل مدینہ یونیورسٹی



جامعہ مہجد مکرم اعلیٰ نیشنل ماڈل ٹاؤن
گوجرانوالہ

34

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدن البری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تحریک آزادی فکر

اور

شاہ ولی اللہؒ کی تجدیدی مساعی

تالیف

شیخ الحدیث مولانا محمد اشماعیل سلمیٰ رحمہ اللہ

محقق و تخریج

حافظ شاہ محمّد

فاضل مدینتہ یونیورسٹی

دارالحدیث
جامع مسجد مکرم ابن رشد ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

جلد ثانی حق نامہ حقوق میں

تحریک آزادی فکر

اور

شاہ ولی اللہ کی تجدیدی ہمتی

از قلم

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلمی رحمة اللہ

بیت تحقیق و ترویج

حافظ شاہ محمد فاضل مدینتہ یونیورسٹی

مئی 2016ء

طبع

1100

تعداد

انورینا پبشریز

0321-6487621

کپوزنگ

قیمت

جامعہ مہجدہ مکرم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

055-6846692 0321-7202700



فہرست مضامین

- 17 تقریظ از شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ.....
- 21 تقدیم از ڈاکٹر حافظ مولانا مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ.....
- 64 مقدمة التحقيق.....

1- تحریک الہمدیث کاملہ و جزر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کے اثرات

- 77 پیش لفظ:.....
- تحریک الہمدیث کاملہ و جزر اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کے اثرات.....
- 81 مختلف ذہن:.....
- 82 جمود و سمن تحریکات:.....
- 83 تاریخ مذاہب پر ایک نظر:.....
- 84 تحریکات اصلاح:.....
- 85 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ:.....
- 86 الہمدیث:.....
- 90 ظاہر پرستی کا مرض:.....
- 91 قیاس اور تفقہ کی راہ:.....
- 93 چند مثالیں:.....
- 93 کچھ مثال:.....

- 97..... دوسری مثال: ○
- 98..... تیسری مثال: ○
- 99..... قرآن کی عظمت: ○
- 102..... حدیث کی صحت: ○
- 104..... چوتھی مثال: ○
- 105..... پانچویں مثال: ○
- 108..... چھٹی مثال: ○
- 110..... محدثین کی روش: ○
- 111..... فقہ الحدیث کے اصول: ○
- 113..... اس وقت تحریک اہل حدیث: ○
- 115..... فتنہ اعتزال: ○
- 116..... حضرات مشکلمین: ○
- 117..... تقلید کی تین راہیں: ○
- 118..... اہل حدیث کی روش: ○
- 120..... یونانی فلسفے کی پسپائی: ○
- 121..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عجیب روش: ○
- 123..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص: ○
- 131..... ہندوستان میں اسلام: ○
- 135..... تذکرۃ الحفاظ: ○
- 137..... ائمہ محققین کی فہرست مع قید سنین: ○
- 138..... اندھیرے میں روشنی کی کرن: ○
- 140..... ولی اللہی تحریک کا مزاج: ○
- 141..... ان حضرات کے مقاصد کا تجزیہ: ○

- 142..... حضراتِ وہابی کے نظریات:
- 145..... ان تصریحات کا نتیجہ:
- 146..... شاہ صاحب کا مقصد:
- 150..... اصول فقہ:
- 152..... فروع کے متعلق شاہ صاحب کی روش:
- 153..... حدیثِ قلنتین:
- 153..... امام کے پیچھے فاتحہ:
- 154..... رفع الیدین اور وتر:
- 154..... زیارتِ قبور کے لیے شدِ رحال:
- 155..... وضو کے نواقض:
- 155..... وتر:
- 155..... قنوت:
- 156..... جمع بین الصلاتین:
- 157..... تکبیراتِ عیدین:
- 157..... ”دو درہ“ پالی:
- 158..... چار حصے:
- 160..... شاہ صاحب کا مقصد:
- 161..... اس مقصد کے لیے دوسری راہ:
- 164..... شاہ صاحب کا اپنا مسلک:
- 166..... ایک بہت بڑا مغالطہ اور اہل حدیث:
- 167..... اہل حدیث کتبِ فکر:
- 174..... اہلحدیث اور متکلمین:
- 178..... فقہ اور اہلحدیث:

- 179..... تدوین حدیث کا دور: ○
- 182..... شاہ صاحب سے علیحدگی: ○

2- اہلحدیث کا تاریخی موقف اور اس کی خدمات

- 189..... تحریک اہلحدیث کا تاریخی موقف اور اس کی خدمات ○
- 189..... تحریک اہلحدیث: ○
- 191..... اہلحدیث اور باقی تحریکات: ○
- 192..... مشکلمین و مبتدعین: ○
- 192..... معمر ترین تحریک: ○
- 193..... فتح ہند اور اہلحدیث: ○
- 194..... بدعی استیلاء: ○
- 195..... نتائج و عواقب: ○
- 196..... مجاہدین کا گروہ: ○
- 197..... مناظرانہ سرگرمیاں: ○

3- برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں

- 201..... برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں ○
- 202..... ایک قرشی خاندان: ○
- 203..... حکیم الامت شاہ ولی اللہ: ○
- 205..... اہلسنی کی فوجیں: ○

4- ترک تہلیل اور اہل حدیث

- 209..... ترک تہلیل اور اہل حدیث ○

- 210..... لفظ غیر مقلد کی ایجاد:
- 212..... مقلد اور غیر مقلد کی اصطلاح:
- 212..... حکومت اور مذاہب کی ترویج:
- 215..... صداقت کا معیار:
- 218..... اس طرز عمل کا سبب:
- 220..... الہدیت اور غیر مقلدین تراویح نہیں!

5- مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر

- 227..... تقلید کہاں؟
- 227..... تقلید کی تعریف:
- 229..... تقلید کا لفظ کب استعمال ہوا؟
- 230..... تحقیق کا فطری ذوق:
- 230..... الہدیت یا مخالفین تقلید:
- 232..... حنفیہ میں اور علماء کا حال:
- 233..... تقلید کہاں؟
- 234..... معنی میں پیک:
- 234..... آسان اور مشکل:
- 237..... تقلید مطلق اور شخص:
- 241..... تقلید مطلق کی مثالیں:
- 241..... فقیہ اور غیر فقیہ صحابی:
- 244..... عہد صحابہ میں تقلید شخص:
- 244..... پہلی دلیل:
- 246..... ادباً گزارش:

- 248..... دوسری دلیل: ○
- 249..... تیسری دلیل: ○
- 253..... مطلق تقلید کی بندش: ○
- 257..... پاکستان میں فواحش: ○
- 258..... ایک محکمہ خیر مثال: ○
- 262..... شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تقلید: ○
- 266..... تقلید پر شبہات: ○
- 266..... پہلی آیت: ○
- 269..... دوسری دلیل: ○
- 270..... خطبہ جمعہ: ○
- 270..... قیام رمضان: ○
- 273..... اقوال ائمہ تقلید کے رد میں: ○
- 275..... تقلید میں اعتدال یا جمود؟ ○
- 275..... کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے؟ ○
- 276..... پہلا مسئلہ: ○
- 277..... پہلی حدیث: ○
- 277..... دوسری حدیث: ○
- 278..... رفع الیدین عند الركوع: ○
- 279..... پہلی حدیث: ○
- 281..... دوسری حدیث: ○
- 283..... خلاصہ: ○
- 284..... جلسہ استراحت: ○
- 286..... آخری تعدہ میں تورک: ○

- 287..... قراءت فاتحہ خلف الامام: ○
- 288..... آخری دور کعتیں: ○
- 289..... زبان سے نیت: ○
- 289..... قربانی نماز سے پہلے: ○
- 290..... مفقود الخمر کی بیوی: ○
- 292..... مسلکی تعصب کی ایک مثال: ○
- 293..... تعصب کی ایک اور بدبودار مثال: ○

6- الحمدیث کی اقتدا

- 299..... الحمدیث کی اقتدا: ○
- 300..... وہابی: ○
- 302..... دلائل: ○
- 313..... شراب کی طہارت! ○
- 319..... پگڑی پر مسح: ○
- 321..... وجوب غسل: ○
- 322..... پاؤں پر مسح: ○
- 322..... آخری گزارش! ○

7- ایک مقدس تحریک جو مظالم کا تختہ مشق بنی رہی

- 327..... ایک مقدس تحریک جو مظالم کا تختہ مشق بنی رہی ○
- 330..... تقابیر اور جمود کے اثرات: ○
- 335..... شوافع کا قیام: ○

- 336..... گفتگو کے لیے دوسرا محاذ: ○
- 338..... ایک اور محاذ: ○
- 339..... فنِ طہارت یا وہم؟ ○
- 340..... اہل حدیث تاریخ کے مختلف ادوار میں: ○
- 348..... مؤرخین و متکلمین کی رائے: ○
- 359..... تہلیلہ اور جمود کا دور: ○
- 364..... سوال: ○
- 368..... القواعد النورانیة: ○
- 380..... تفقہ اور ظاہریت: ○
- 386..... تحریکِ حریت کے مقاصد: ○
- 387..... یمن کی راہ: ○

8- مسئلہ حیات النبی ﷺ اولہ شرعیہ کی روشنی میں

- 393..... مسئلہ حیات النبی ﷺ ○
- 394..... اصلاحی تحریکات کا مد و جزر: ○
- 395..... ہندوستان کی تحریکِ جدید: ○
- 395..... تحریک کا مزاج: ○
- 387..... دیوبندی اور اہل حدیث: ○
- 401..... شاہ صاحب رٹاشہ کا مقام: ○
- 401..... مسئلہ حیات النبی ﷺ: ○
- 402..... تصفیہ کی صورت: ○
- 402..... شاہ شہید رٹاشہ: ○

- 403..... تیسرا ہنگامہ: ○
- 404..... مخالف توحید تحریک کی ناکامی: ○
- 406..... محل نزاع: ○
- 406..... الہحدیث اور فقہاء: ○
- 407..... حیات النبی ﷺ کے متعلق بریلوی عقیدہ: ○
- 408..... دیوبندیوں کی بریلویوں سے ہم نوائی: ○
- 409..... غور و فکر کے لیے چند گزارشات: ○
- 413..... انبیاء کی حیات دشوی الہی بدعت کا مذہب ہے: ○
- 413..... کیا موت انبیاء کے لیے موجب توہین ہے؟ ○
- 415..... عنوان سے حقیقت نہیں بدلتی: ○
- 415..... کراہیۃ الموت: ○
- 416..... آنحضرت ﷺ کی دعوتِ مبارکہ: ○
- 416..... خان صاحب بریلوی کی طویل ایک ”آن“: ○
- 417..... حیات شہداء کی تحقیق اور اس کی نوعیت: ○
- 417..... دلائل: ○
- 419..... رزق سے استدلال بے معنی ہے: ○
- 419..... شاہ عبدالعزیز کی تحقیق: ○
- 421..... علامہ آلوسی حنفی کی تصریحات: ○
- 423..... حافظ ابن جریر کی تصریح: ○
- 424..... پیش کردہ احادیث پر ایک نظر: ○
- 425..... پہلی حدیث: ○
- 425..... تحقیق: ○
- 426..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز: ○

- 429..... حدیث نمبر ۵: ○
- 433..... عقیدہ حیات اور اس کے نتائج: ○
- 433..... چھٹی حدیث: ○
- 434..... ساتویں حدیث: ○
- 436..... حکایات و قصص: ○
- 437..... مندرجات رسالہ ”حیات النبی“ پر ایک سرسری نظر: ○
- 438..... حضرت کا ارشاد: ○
- 440..... بریلوی علم کلام: ○
- 440..... اخوان دیوبند! ○
- 445..... چند شبہات کا حل: ○
- 446..... ”آب حیات“: ○
- 447..... حیات النبی اور اہل حدیث: ○
- 448..... میری گزراشات: ○
- 448..... منشی محمد شفیع صاحب کا نظریہ: ○
- 452..... منشی صاحب کے دلائل کا تجزیہ: ○
- 457..... مسئلہ حیات النبی ﷺ پر ایک سوال اور مدیر ”جلی“ دیوبند کا تحقیقی جواب... ○
- 457..... سوال: ○
- 458..... جواب: ○
- 458..... رقیق بہترین علمی مجلہ ہے: ○
- 458..... ہم مولانا محمد اسماعیل سے متفق ہیں! ○
- 460..... مولانا قاسم رضاؒ معصوم نہیں تھے! ○
- 461..... کل کا دیوبند اور آج کا دیوبند: ○

- 462..... قبوری ذہن کو تھماریار: ○
- 463..... اہلحدیث پر توہین رسول کا الزام: ○
- 464..... مولانا محمد اسماعیل کا درست تجزیہ: ○

9- زیارتِ قبور

- 469..... زیارتِ قبور ○
- 469..... قبر کے متعلق باہلی اور اسلامی تصورات: ○
- 470..... اصحابِ کہف: ○
- 470..... سابق انبیاء علیہ السلام: ○
- 471..... قبل اسلام کی رسوم: ○
- 472..... آنحضرت ﷺ کے ارشادات: ○
- 473..... تو اتر: ○
- 475..... قبروں کے پاس مسجد: ○
- 475..... قبروں پر غرس اور میلے: ○
- 476..... بیت پرستوں کی زیارت: ○
- 477..... اصل مرض: ○
- 479..... پختہ قبر: ○
- 481..... مسنون زیارت: ○
- 482..... مسنون دعا: ○
- 482..... قبر پرستی کب شروع ہوئی؟ ○
- 485..... چراغ جلانا: ○
- 485..... قبر پر پھول چڑھانا: ○

- 486.....روضہ نبویہ۔ علیٰ صاحبہا ألف صلاة و تحية: ﴿﴾
- 489.....زیارت کے آداب: ﴿﴾
- 490.....غلط بیانیوں: ﴿﴾
- 492.....اصحاب بدر کا غرس: ﴿﴾
- 493.....شہدائے احد: ﴿﴾
- 494.....خواب اور کہانیاں: ﴿﴾
- 494.....دانیال کی نعش: ﴿﴾
- 495.....ایک آیت سے استدلال کی حقیقت: ﴿﴾
- 497.....قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی: ﴿﴾

10- مسلک اہلحدیث کے بارے میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات

- 503.....سوالات: ﴿﴾
- 506.....جوابات: ﴿﴾

11- اہل وہاب کا مذہب اور نماز میں آنحضرت ﷺ کا تصور

- 517.....اہل وہاب کا مذہب اور نماز میں آنحضرت ﷺ کا تصور: ﴿﴾
- 519.....الجواب: ﴿﴾
- 520.....آنحضرت ﷺ کا تصور: ﴿﴾
- 521.....غلطی کی وجہ: ﴿﴾
- 526.....ایک فقہی نظریہ: ﴿﴾
- 527.....دوسرا مسئلہ: ﴿﴾



تقریظ^۱

شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ

قوموں اور ملکوں کی سیاسی تاریخ کی طرح تحریکوں اور جماعتوں کی دینی اور ثقافتی تاریخ بھی ہمیشہ بحث و تحقیق کی محتاج ہوتی ہے۔

محققین کو واقعات کی زبان کھلوا کر نتائج اخذ کرنے، غلطیوں کی اصلاح کرنے اور محض دعوؤں کی تکذیب و تردید کے لیے پیہم کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر مورخین بھی وقت نظر، رسوخ بصیرت، قوت استنتاج اور علمی دیانت کا لحاظ رکھنے میں ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات کئی تاریخ دان غلط کو درست کے ساتھ ملا دیتے ہیں، واقعات سے اس چیز کی دلیل لیتے ہیں جس پر وہ دلالت ہی نہیں کرتے، جو من کو بھائے، خواہ وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اس سے تغافل برتتے ہیں اور جو دل کو لگے، خواہ انتہائی بودہ ہو، اس کی تعریف کے شادیاں بجاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے خدو خال بگڑ جاتے ہیں اور تحریف اس میں اپنی راہ نکال لیتی ہے۔

یہاں علمی اخلاص سے مالا مال اور حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے شخصی رجحانات

① حضرت العلام مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ”تحریک آزادی فکر“ کا عربی ترجمہ ”حرکت الانطلاق الفکری“ کے نام سے محترم ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے جامعہ سلفیہ بنارس، انڈیا نے شائع کیا تو اس پر شیخ الحدیث مولانا مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ لکھا، جسے ہم ترجمہ کرنے کے بعد اس خطابت کے شروع میں شامل اشاعت کر رہے ہیں۔

سے ماورا دیا نندار مورخین کا کردار شروع ہوتا ہے کہ وہ افراط و تفریط سے بچ کر درست بنیادوں پر تاریخ کی تدوین، غلطیوں کی اصلاح، حق کو کارگاہِ شیشہ گری میں محفوظ رکھنے اور ہر اہم اور قابل ذکر چیز کو ذکر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔

حضرت مولانا علامہ اسماعیل بن ابراہیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ (امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث، مغربی پاکستان) کا انہی منفرد محققین میں شمار ہوتا ہے۔ آنجناب نے اپنی یہ کتاب تحریکِ اہلحدیث کے موضوع پر لکھی ہے، جس میں ان مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے، جن سے یہ تحریک ہندوستان میں گزرتی رہی اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا اس کے متعلق کیا موقف رہا؟ تقلید اور جمود کے خلاف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور انہوں نے کس طرح لوگوں کو تقلید و جمود کی بیڑیوں سے آزاد ہونے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بحث و تحقیق کا پرچم اٹھایا اور اس کے بعد اعتقادی اور عملی بدعتوں کی مزاحمت کرتے رہے؟ یہ اور کئی دیگر اہم نقاط ہیں جن کی تحقیق و تفصیل مولانا اسماعیل صاحب کی یہ کتاب پیش کرتی ہے۔

اس کتاب کی تالیف کا ایک خاص سبب تھا، جس طرف مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں بعض مقلدین نے اہلحدیث اور مقلدین کے درمیان چند اختلافی مسائل کو ہوا دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تعصب اور تقلید سے آزاد ہو کر صحیح احادیث پر عمل پیرا ہونے کے اہلحدیث کے موقف اور نقطہ نظر کا دفاع کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن انہوں نے اپنی اس بیش قیمت اور اچھوتی تحقیق میں مد مقابل کا نہ صرف مناظرانہ اور متکلمانہ انداز میں رد کیا ہے، بلکہ اختلافی مسائل، مسلمانوں کی دینی حالت، گروہ بندی، فرقے سازی اور ان ارتقائی منازل پر بڑی دقیق اور علمی اسلوب میں بحث کی ہے، جن سے کتاب و سنت کی تحریک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے

لے کر آج تک گزرنا پڑا، پھر انھوں نے اس اختلاف کی اصل اور بنیاد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جو اہل حدیث اور ائمہ کرام میں سے کسی کی تقلید کے وجوب کے قائل فرقوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ ساری تفصیل تو ضیحانہ اور تحقیقانہ انداز میں اور کسی بھی مذہب پر نا انصافی کی بنا پر طعن و تشنیع سے ماورا ہو کر ایک مخلص محقق کی نظر سے پیش کی گئی ہے۔ جب ہم ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک کے ان علمائے کرام پر نظر ڈالتے ہیں جو حدیث اور علوم حدیث کو مسلکی تعصب کے تناظر میں پڑھتے ہیں تو وہ ان علمائے حدیث پر کچھڑا اچھالتے نظر آتے ہیں جنہوں نے جمع حدیث، شرح حدیث، دفاع حدیث، تمییز حدیث، استنباط حدیث اور علم رجال کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی اس تناظر میں تو کتاب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

یہ وہ اعظم رجال تھے جن کا احادیث کی جمع و تدوین، شرح متون اور احادیث سے احکام مستنبط کرنے کے سلسلے میں امت پر عظیم احسان ہے، لیکن یہ عظیم الشان خدمت ان مفاد پرست فرقے سازوں کو ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا انھوں نے محدثین کی نیوٹوں پر شک کرتے ہوئے اپنے اختیار کردہ مذاہب کے دفاع میں ان کے کلام کا رد کیا۔ یہی وہ موقف اور طرز فکر ہے جس نے برصغیر پاک و ہند میں انکار حدیث اور شریعت میں احادیث کی عدم حجیت کے رجحان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

اس جیسی ناسعود کوشش کا رد کرنے کے لیے اور سنت نبویہ اور برصغیر کے اہل حدیث کا دفاع کرنے کی خاطر ہمارے مخلص دوست نے یہ کتاب تالیف کی ہے۔ کتاب نے علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل کی ہے اور ہر نیک ارادے اور اچھی نیت کے مالک فرد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔

یہ کتاب اپنے پختہ علمی اسلوب اور سنجیدہ اور اچھوتے مباحث کے پیش نظر ہر اس شخص کے مطالعے کے لائق ہے جو مذاہب کی تاریخ اور کتاب و سنت پر عمل کی

تحریک کے ارتقا سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔

بنا بریں جامعہ سلفیہ بنارس میں ادارہ تحقیقاتِ اسلامیہ نے ڈاکٹر مقتدی حسن، (مدرس جامعہ و ایڈیٹر مجلہ جامعہ) کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ اس کتاب کو عربی میں منتقل کریں، تاکہ عرب قارئین بھی اس کا مطالعہ کر سکیں۔ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی یہ ذمے داری نبھائی ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مولف اور مترجم کو ہماری طرف سے اور علم کی خدمت کرنے کی بنا پر بہترین جزا عنایت فرمائے۔ مترجم کے لیے علم اور بھلائی کی راہ آسان کرے اور ہر ایک کو اپنی مرضیات کی توفیق مرحمت فرمائے۔
وصلی اللہ علی خیر خلقہ، محمد وآلہ و أصحابہ أجمعین.

(مولانا) عبید اللہ مبارکپوری

لائل پور، مبارکپور، اعظم گڑھ

۱۹ شوال ۱۳۹۶ھ = ۱۱۶ اکتوبر ۱۹۷۶ء

تقدیم

محترم ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولہ الكريم،
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ناظرین باتھنکین! یہ ”تھریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مسائی“ نامی کتاب کی تقدیم ہے۔ کتاب کا ذکر آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ تقدیم سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ اس کا ایک حصہ تو اس داستان پر مشتمل ہے، جو کتاب سے میری واقفیت اور استفادے سے شروع ہوئی اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے، اس حصے میں کتاب کے عربی ترجمے کے محرکات اور اس نسخے کا ذکر بھی ہے، جس سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔

تقدیم کا دوسرا حصہ کتاب کے مختلف اقتباسات ہیں، جن کو میں نے اپنے تاثر یا تمہید کے ساتھ پیش کیا ہے، اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ قارئین کو استفادہ کرنے میں آسانی ہو، نیز مصنف کا علمی مقام اور دینی مسائل کی چھان بین میں ان کی بصیرت اور نکتہ رسی واضح ہو جائے۔

① محترم ڈاکٹر ازہری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے معروف سلفی ادارے جامعہ سلفیہ بنارس کے رئیس تھے۔ انھوں نے حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تھریک آزادی فکر“ اور ”حجیت حدیث“ کا عربی زبان میں ترجمہ کیا، تاکہ عالم عرب بھی مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات سے مستفید ہو سکے۔ ذرا نظر کتاب ہندوستان کے معروف سلفی ادارے مکتبۃ الہام مکو ناتھ بھجنن کی طرف سے شائع ہوئی تو ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ واقع مقدمہ لکھا، جسے افادیت کی بنا پر یہاں درج کیا جا رہا ہے۔

یادش بخیر! ۱۹۶۷ء میں جامعہ ازہر، مصر سے تعلیم ختم کر کے ہندوستان واپس آیا تو ۱۹۶۸ء سے جامعہ سلفیہ بنارس میں تقرر ہوا اور اس کے دو وہام سے ایسی انیسیت ہوئی کہ تادم تحریر (۲۰۰۸ء) اسی جگہ شب و روز گزر رہے ہیں۔

جامعہ سلفیہ بنارس آنے کے بعد جن بزرگوں کی راہنمائی خاکسار کو حاصل رہی، ان میں شیخ الحدیث علامہ ابو الحسن عبید اللہ رحمانی میار کپوری، مولانا عبدالوحید عبدالحق سلفی اور مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ معلوم نہیں قلم ان کا قرض کب ادا کر سکے، لیکن فی الحال، بمناسبت یہ ذکر کرنا ہے کہ جب میں جامعہ سلفیہ آیا تو ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوحید سلفی نے مجھے ”تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی“ نامی کتاب (اشاعت اول) عنایت کی۔ یہ کتاب میں نے اب تک نہ دیکھی تھی، نہ اس کے مصنف شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ سے زیادہ واقفیت تھی، البتہ والد بزرگوار (الحاج محمد یاسین بن محمد سعید) رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ متواتر لائے تو ان کی تقریر سے عوام کی دینی حمیت اور جوش میں بے حد اضافہ محسوس کیا گیا تھا، ان کی سادہ اور علمی نکات پر مشتمل گفتگو ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ یہ سرسری انداز کا تذکرہ تھا، جو علما کے تعلق سے گھر اور محلے میں ہوا کرتا تھا۔ حسن اتفاق کہ مکتبۃ الفہیم سنو سے جولائی ۲۰۰۶ء میں شیخ الحدیث موصوف کے فتاویٰ کا مجموعہ مولانا محمد الاعظمی کی تقدیم کے ساتھ شائع ہوا۔ استاد محترم رحمہ اللہ نے علامہ سلفی رحمہ اللہ کی متواتر آوری کا سنہ ۱۹۴۳ء تحریر فرمایا ہے اور لکھا ہے:

”راقم الحروف نے اسی جلسے میں (فیض سنو کے جلسے کی طرف اشارہ ہے) اس جامع العلوم و الفنون عالم کو سادہ لباس میں بلند آہنگ خطاب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انداز خطاب، لب و لہجہ اور قد و قامت کی دھندلی تصویر اب بھی ذہن میں کسی قدر محفوظ ہے، چونکہ ان دنوں میں جماعت ثانیہ کا

طالب علم تھا، اس لیے ان کی عالمانہ تقریر کے نہم و شعور سے قاصر تھا۔“

(فتاویٰ علامہ محمد اسماعیل گوجرانوالہ، تقدیم، ص: ۱۱)

جامعہ سلفیہ میں مجھے تحریک آزادی فکر کے مطالعے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ علامہ سلفی کی شخصیت کا کیا وزن، ان کے علم کی کیا گہرائی، استدلال میں کتنی قوت اور اسلوب میں کیسی سنجیدگی تھی!

موجودہ دور میں ”آداب البحث والمناظرۃ“ اور ”آداب الخلاف“ وغیرہ عنوان سے متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور اس موضوع کی بعض قدیم کتابوں کو بھی اہل علم نے تصحیح یا تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس نوعیت کی کتابوں میں تبادلہ خیال کے جو شروط و آداب بیان کیے گئے ہیں، ان سے قدیم عہد کے علما عموماً آراستہ تھے، البتہ بعض علما اس دائرے سے باہر نظر آتے ہیں، لیکن جدید دور میں شروط و آداب کی مخالفت بکثرت ہے اور اس سے اسلام کے علاوہ کسی اور کا نقصان نہیں۔ ہم ﴿عَمَّا أَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٍ﴾ والی آیت ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا اسلوب ﴿شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ﴾ کی ترجمانی کرتا ہے!

کتاب ”تحریک آزادی فکر“ کو اس کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس لیے تصنیف کیا ہے کہ عقائد و فروع کے متعلق مسائل پر گفتگو کرنے والے ہمارے علمائے کرام شرعی مسائل پر گفتگو کا طریقہ سیکھیں اور اسلوب و لہجے میں سختی کے بجائے دلائل میں قوت پیدا کریں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے مخاطب آداب بحث و استدلال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔

میں نے اس تقدیم کے دوسرے حصے میں مصنف کی متعدد عبارتیں نقل کی ہیں، ان کو غور سے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ان کا منہج بحث اور اسلوب تحریر کیسا ہے اور اس میں واقعیت پسندی کا عنصر کس طرح غالب ہے۔

جتنے مسائل پر مصنف نے گفتگو کی ہے، ان کا تعلق برصغیر میں امت مسلمہ کی مذہبی تاریخ سے ہے یا فقہی مذاہب کے مابین مختلف فیہ مسائل سے، لیکن موضوعیت اور سنجیدگی کا ایسا غلبہ ہے کہ تعبیر و بیان پر خلافت کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ کتاب کی یہی خصوصیت ہر منصف مزاج قاری کو متاثر کرتی ہے اور اسی نے مجھ کو بھی متاثر کیا اور میں نے اس کا عربی ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

میرے لیے کتاب کے اختلائی مسائل میں دل چسپی نہ تھی، بلکہ مصنف کی تحریر کا انداز، مخاطب کے دل میں بات اتارنے کے لیے ان کی درد مندی اور دینی تاریخ اور اس کے انقلابات سے ان کی گہری واقفیت نے میرے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ عمل بالکتاب والہ کی دعوت کا تعارف عالم عرب میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ عرب ممالک کے لوگ اس دعوت کے اصول و مقاصد کو جانیں اور دنیا میں جہاں جہاں اس دعوت کے خدام موجود ہیں، ان سے اور ان کے اسلوب عمل سے واقف ہو سکیں۔

برصغیر بلکہ پورے عالم اسلام میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے علمی کارنامے علما اور محققین کی توجہ کا مرکز تھے۔ کچھ لوگ ضرور شاہ صاحب کی دعوت کے ساتھ ہم آہنگی محسوس نہیں کرتے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت شاہ صاحب کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنا چاہتی ہے اور انھیں جدید دور کا مصلح و مجدد نیز علوم اسلامیہ کے احیا کا علمبردار مانتی ہے۔ تحریک آزادی فکر کے مصنف نے شاہ صاحب کی فکر اور ان کی دعوت کا خلاصہ بہت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے اور شاہ صاحب کی تحریروں کے اقتباس سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے، اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی دعوت سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

مصنف نے پیش لفظ میں وضاحت کی ہے کہ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، جو الاعتصام میں شائع ہوئے تھے۔ اس سے یہ تاثر نہ قائم ہو کہ یہ آپس میں

غیر مربوط ہوں گے۔ اصولی مباحث ہوں یا فروعی، دونوں جماعتِ اہل حدیث سے متعلق ہیں اور مصنف نے کسی نقطے کی توضیح یا غلط فہمی کی تردید کے لیے ان پر قلم اٹھایا ہے۔ ایک نظر فہرست پر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے:

پہلا عنوان: تحریکِ اہل حدیث کے مد و جزر سے متعلق ہے، جو صفحہ (۱۸۵) پر ختم ہوا ہے۔
دوسرا عنوان: تحریک کے تاریخی موقف اور خدمات پر روشنی ڈالتا ہے، جو صفحہ (۱۹۷) پر ختم ہوا ہے۔

تیسرا عنوان: برصغیر میں اہل توحید کی سرگرمیوں سے بحث کرتا ہے اور یہ صرف چند صفحات (۱۹۹-۲۰۶) کو محیط ہے۔

چوتھا اور پانچواں عنوان: مسئلہ تقلید سے متعلق ہے اور یہ بحث صفحہ (۲۹۵) پر ختم ہوئی ہے۔

چھٹا عنوان: اہل حدیث کی اقتدا پر روشنی ڈالتا ہے۔

ساتواں عنوان: پھر تحریک ہی سے متعلق ہے اور صفحہ (۳۸۷) پر ختم ہوا ہے۔

نوواں عنوان: زیارتِ قبور سے بحث کرتا ہے اور سابقہ بحث ہی سے متعلق ہے۔

دسواں عنوان: مسلکِ اہل حدیث کے بارے میں سوالات و جوابات پر اور

گیارہواں عنوان ایک استفسار کے جواب پر مشتمل ہے۔

ان عناوین میں سے بعض تو کسی نہ کسی تحریر کا جواب ہیں اور بعض کسی متعین تحریر کا

جواب نہیں، پھر بھی کسی الزام کی تردید یا غلط فہمی کا ازالہ ان کا موضوع ہے۔ ان

مباحث کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو احساس ہوگا کہ مصنف کی حیثیت صرف ایک

مناظر کی نہیں، جو خصم پر غلبہ چاہتا ہے، بلکہ ان کے پیش نظر مقاصدِ اسلام کے تحفظ اور

اتحادِ امت کا اہم سوال ہے۔ انھوں نے صدرِ اول سے لے کر آج تک امت کے

حالات کا مطالعہ کیا ہے اور یہ بات پوری طرح ان کی نظر میں ہے کہ امت کس طرح

خلافت میں اُلجھ کر کتاب و سنت کی اصل دعوت سے بیگانہ ہو گئی اور دین کی سر بلندی کے لیے جو اقدام کرنا تھا، اس کا رخ کسی اور طرف مڑ گیا۔

کتاب اور مولف سے متعلق گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے میں عربی ترجمے سے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ یہ تحریر اردو اشاعت سے متعلق ہے۔ کتاب کا عربی ترجمہ ”حرکۃ الانطلاق الفکری و جهود الشاہ ولی اللہ فی التجدید“ کے عنوان سے جامعہ کے عربی مجلے میں بالاقساط شائع ہوا کرتا تھا۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو میں نے اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ جامعہ کے ذمے داران کی طرف سے اس کی اجازت مل گئی۔ پھر میں نے جامعہ کے اولین صدر شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ الرحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس ترجمے کی تقدیم کے لیے گزارش کی تو موصوف نے میری درخواست منظور فرمائی اور یہ تقدیم زینت کتاب بن گئی۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

”حرکۃ الانطلاق“ کی اشاعت اول ختم ہو گئی تو اس کی دوسری اشاعت کا مطالبہ سامنے آیا۔ اس اشاعت کی تکمیل و تحمیل میں عزیز کرم ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار الفریوئی (استاذ حدیث امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض) کا کردار اہم رہا۔ موصوف کے پاس لاہور کا شائع شدہ ”تحریک آزادی فکر“ کی دوسری اشاعت کا نسخہ تھا، جس میں بعض مباحث کا اضافہ تھا۔ میں نے ان کا بھی ترجمہ کیا اور عزیز موصوف کے ساتھ پوری کتاب کا مراجعہ کیا اور اس طرح دوسری اشاعت بھی جامعہ سلفیہ کے پریس میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی۔ اس دوسری اشاعت کے ساتھ بعض شامی علما کی تحریریں بھی ہیں، لیکن بنظر اختصار اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔

تقدیم کے اس حصے کو مزید طویل دینے کی ضرورت نہیں، آئندہ سطور میں قارئین کرام کے سامنے تقدیم کا دوسرا حصہ ہے، جسے ملاحظہ فرما کر انھیں اندازہ ہو گا کہ کتاب

کے مشتملات کی نوعیت کیا ہے، مصنف نے اپنی بات کو کس طرح پیش کیا ہے اور ان کے دل میں امت کے لیے کس طرح کے جذبات موجزن ہیں!

مصنف کا پیش لفظ:

کسی کتاب کا پیش لفظ یا مقدمہ مصنف کے منہج و مقصد کی وضاحت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے کتاب کے تعارف یا تنقید کے لیے اسے سامنے رکھنا ضروری ہے۔

”تحریک آزادی فکر“ کے مصنف شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب پر ایک مختصر ”پیش لفظ“ لکھا ہے، جس میں تصنیف کے محرک اور پس منظر کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے بعض حصوں کو اس تحریر میں لانا اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ بعض اہل قلم نے مولانا کی کتاب کو اس کے تحقیقی رنگ سے ہٹا کر جدل و مناظرہ کا منہی رُخ پیش کرنے والی کتاب کی فہرست میں رکھا ہے اور اس کے عربی ترجمے پر ناراضی ظاہر کی ہے، حالانکہ کتاب کے تحقیقی اور مثبت انداز ہی سے اس کے عربی ترجمے کی تحریک پیدا ہوئی تھی اور الحمد للہ اس ترجمے کی دو اشاعتیں منظر عام پر آچکی ہیں۔

❶ مصنف غلام اپنے رجحان طبع کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں مناظر نہیں ہوں، نہ آج کے رسمی مناظرات سے طبیعت آشنا ہے،

اس لیے حوالوں میں کاٹ چھانٹ، تراجم میں حسبِ مطلب قطع و برید کی

عادت نہیں۔“ (ص: ۷۷)

❷ باطل عقائد و نظریات کی تاریخ قدیم ہے، امت مسلمہ کو اسی زمانے سے انکارِ حدیث

کے فتنے کا سامنا ہے۔ قدیم دور سے آج تک علمائے اسلام نے اس فتنے کی

سرکوبی کا فریضہ انجام دیا ہے اور آج بھی ان کی کوشش جاری ہے۔ برصغیر کے

مسلمانوں کی تاریخ میں خدمتِ حدیث کا باب روشن ہے، لیکن افسوس کہ یہ علاقہ انکارِ حدیث کی متنوع کوششوں کے لیے بھی مشہور ہے، اسی وجہ سے علومِ کتاب و سنت سے متعلق کسی بھی موضوع پر روشنی ڈالنے والا ہر صاحبِ قلم مذکورہ نکتے سے بچنے کے لیے تنبیہ کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔

مکرمینِ حدیث اپنی توجہ کا مرکز قرآن کریم کو بتاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے لیے قلمی کاوش کرتے ہیں اور اس کاوش کو واجب التسلیم قرار دیتے ہیں، گویا اسے ماننا قرآن کو ماننا ہے۔ تفسیرِ قرآن میں حدیث کی ضرورت کے انکار کے بعد مکرمینِ حدیث کا مذکورہ رویہ بے حد افسوس ناک اور تعجب انگیز ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مکرمین کے اس موقف پر چبھتے ہوئے انداز میں لکھا ہے: ”ان کے ہاں اس تشریح کو، یعنی مکرمین کی تشریح کو، قبول کرنا گویا قرآن کو ماننا اور قبول کرنا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے رفقاء کرام قرآن کے مقاصد کو بیان کریں تو اسے یہ حضرات نہ قبول کرتے ہیں نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، بلکہ قطعاً ناپسند کرتے ہیں۔“ (ص: ۷۸)

اسی پیش لفظ میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمتِ اسلام کے دعوے میں چند رسموں اور نعروں کی پابندی کرنے اور اسے اسلام و ایمان کی بنیاد سمجھنے کا بھی ذکر ہے۔ اس پر مصنف کا یہ معنی خیز جملہ قابلِ توجہ ہے:

”اسلام ایسے فعال مذہب کا انحصار چند رسموں اور نعروں پر ہو، ضمیر اس سے ایبا کرتا ہے۔“ (ص: ۷۸)

مصنف نے تقلید و جمود کے آغاز اور پھر اس کے ناخوشگوار اثرات کی جانب بھی اشارہ کیا ہے:

”ان فقہی فروع میں نہ حق کسی ایک میں محصور ہوتا ہے نہ دوسرے اہل تحقیق

سے نفرت اور بغض ہوتا ہے، اور خود ائمہ نے اپنے متعلق کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ حق صرف ہمارے دامن سے وابستہ ہے اور نہ یہ تاثر دیا کہ ہماری باتوں کو بلا دلیل، محض خوش فہمی اور عقیدت کی بنا پر قبول کیا جائے۔“ (ص: ۷۸)

⊙ علامہ سلفی ایک تجربہ کار اور با بصیرت عالم دین تھے۔ اپنی کسی خدمت یا سرگرمی سے متعلق خوش گمانی نہ تھی۔ زیر تعارف کتاب موصوف کے چند مضامین کا مجموعہ ہے، جس کے بارے میں صفائی سے لکھتے ہیں:

”جو بعض حلقوں میں بہت پسند کیے گئے۔ بعض حلقوں میں کافی ناراضی اور ناپسندی کا اظہار فرمایا گیا۔ کسی چیز کے موثر ہونے کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مختلف حلقے پیدا کر لے اور نقد و نظر کا تختہ مشق بنے۔“ (ص: ۷۹)

مقصد تالیف:

آئندہ اوراق میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف اذہان کے غلو میں صالح تحریکات نے کیا نمایاں کردار ادا کیا، تحریکاتِ سلفیہ نے مختلف ادوار میں کیا اصلاحات فرمائیں۔ فقہائے اسلام نے کیا خدمات انجام دیں، صوفیہ نے کیا کیا اور ان تینوں اذہان پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششوں نے کیا اثر ڈالا؟ (ص: ۸۶)

کتاب کے منج اور مقصد تالیف سے متعلق یہ مصنف کا اپنا بیان ہے، لہذا قاری کی توجہ ان ہی نقاط پر مرکوز رہے تو بہتر ہے، اسطرح ادا بعض دیگر جزئیات زیر بحث آسکتی ہے، لیکن کتاب کے اصل موضوع کے علاوہ اس میں کچھ اور ڈھونڈنا باعثِ مشقت ہوگا۔

اہل حدیث کا مقصد:

مصنف نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی کے تعارف میں اہل حدیث کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کو

سمجھنے کی راہ میں جو دشواری پیش آئی ہے یا جس کا گمان کیا گیا ہے، وہ دور ہو جائے گی اور امت کے مختلف طبقات و فرق ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”شروع شروع میں لفظ ”اہل حدیث“ کا مقصد یہ تھا کہ اجتہادی امور میں تقلید اور جمود کو دین میں پینے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے اور فقہی فروع میں جمود اور فرقہ پروری کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ اصل نظر کتاب اللہ اور آنحضرت ﷺ کی سنت پر مرکوز رہے۔ کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلے یا وقتی حادثے کے متعلق صراحت موجود نہ ہو تو اس کا فیصلہ محض کسی شخص سے رائے کے مطابق نہ ہو، یا کسی علاقے کے علما اپنے مخصوص افکار امت پر نہ ٹھوس دیں، بلکہ اصل مصلح نظر صحابہ اور اسلاف کرام کی وسعت نظر ہو، جمود اور شخصیت پروری سے امت میں ضیق نہ پیدا کیا جائے۔

”جب نصوص نہ ہوں، کتاب و سنت میں احکام صراحتاً نہ ملیں تو رائے یا اجتہاد کے سوا چارہ نہیں۔ صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا، ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی بوقت ضرورت اجتہاد فرمایا۔ وقت کے ضروری مسائل کو اجتہاد ہی سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اہل حدیث اور فقہائے مذاہب سب ہی نے اجتہاد کیا اور قیاس شرعی یا میزانی کے ذریعے وقت کے مسائل میں مخلصی کی راہ پیدا فرمائی۔“ (ص: ۸۶)

جماعت کا اہم اور اولین مقصد:

مصنف نے مغلیہ عہد کے اکثر حصوں کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح عام زندگی احکام شریعت سے دور اور شرک و بدعت کے اعمال سے مانوس تھی۔ اکبر کے دور میں تو حال زیادہ خراب تھا۔ دین سے دوری کے ساتھ ساتھ اعتقادی نکتے

سکین صورت اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ بریلوی اور اُن کے خاندان

سے اصلاح کا کام لیا۔ مصنف نے اسی صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اس وقت جماعت کے سامنے سب سے اہم اور پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان میں ایک دینی حکومت قائم کرے، جس کے ارہاب اقتدار صحابہ کرام کی سیرت رکھتے ہوں، جن کے اسلام پر غیر مسلم اقلیتیں مطمئن ہوں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ظالم کا بدلہ مظلوم سے لیا جائے، ایسی سفاکانہ حرکتیں غیر مسلم تہذیب گوارا کر سکتی ہے، اسلام اسے قطعاً برداشت نہیں کرتا۔

”دوسرا مقصد عملی بدعات کے خلاف جہاد تھا، اس وقت کے سنی بھی عجیب و غریب تھے۔ اہل سنت کے گھروں سے تعزیہ کے جلوس نکلتے تھے۔ عشرہ محرم میں سنی بھی سوگوار رہتے، حالانکہ ہمارے ہاں ایسے سوگ تین دن سے زیادہ نہیں۔ سالہا سال تک سوگ اسلام کا طریقہ نہیں۔ محرم کی تیار، اس ماہ میں نکاح کی ممانعت، اسلامی حکم نہیں۔

”اعتقادی خرابیاں، قبر پرستی، مزار پرستی کا عام رواج تھا۔ اخلاق کا یہ حال تھا بازاری خورتیں گانے بجانے کے لیے اچھے اچھے شریف گھرانوں میں آتی تھیں اور پورے معاشرے میں اسے کبھی بُرا نہیں منایا جاتا تھا۔“ (ص: ۱۹۳)

تحریک اہل حدیث کا مقصد:

مصنف نے تحریک اہل حدیث پر گفتگو کے دوران میں بعض ان تحریکوں کا ذکر کیا ہے جن سے اس تحریک اہل حدیث کا سابقہ رہا۔ یہ گفتگو مختصر ہے، لیکن جماعتوں کے مزاج و مقصد کو بتانے میں اہمیت رکھتی ہے۔ مصنف کے بعض بعض جملے تو طویل بیانات پر بھاری نظر آتے ہیں۔ تحریک اہل حدیث کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ بھی اپنے وقت کی ایک تحریک ہے، جس کا مقصد:

① اسلام میں اعتقادی اور عملی سادگی کو قائم رکھنا اور افراط و تفریط میں اعتدال کی راہ کا تعین اور اس کی پابندی کرنا۔

② محبت اور بغض میں عموماً انسان اعتدال کی حدوں کو پھاند جاتا ہے۔ ائمہ حدیث ایسے موقع پر ہمیشہ نقطہ اعتدال کی تلاش فرماتے اور لوگوں کو اس سے آگاہ فرماتے۔

③ قرآن و سنت اور ان کے متعلقہ علوم کی تدوین و اشاعت۔

④ زندگی کے تمام شعبوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔

(ص: ۱۸۹)

اس مقام پر مصنف نے روافض اور خوارج کا نام لے کر اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت کے اعتدال کو سراہا ہے۔

مصنف نے آگے چل کر ان محرکات کی جانب اشارہ کیا ہے، جن کی وجہ سے علوی اور خارجی فرقے وجود میں آئے اور یہ محرکات ختم ہوئے تو مذکورہ فرقے بھی ناپید یا کمزور ہو گئے۔

اہل حدیث کا موقف:

جماعت اہل حدیث کے متعلق یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ یہ لوگ ائمہ کا احترام نہیں کرتے اور فقہ کو نہیں مانتے! بظاہر یہ غیر ذمے داروں کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی معتبر حضرات بلکہ فارغ التحصیل علماء یہ دہراتے سنے جاتے ہیں۔ اس بات کی حقیقت الزام کے سوا کچھ نہیں، اسی لیے حنفی علماء میں معتدل اور منصف مزاج اس طرح کی تہمت تراشی سے دور رہتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں:

”اس تحریک (اہل حدیث تحریک) کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ائمہ کی مساعی

بے کار ہیں یا ان ائمہ کے علوم سے استفادہ شرعاً ناجائز ہے اور ان کے علوم اور اجتہادات پر تنقید زندگی کا کوئی اہم اور ضروری مشغلہ ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے اجتہادات اور جملہ مسائل کی حیثیت ایک علمی تحقیق یا مقدس محنت کی ہے، ان کا مقام علوم نبوت کا مقام نہیں۔ جس طرح ان سے استفادہ اور ان کے سامنے انقیاد بشرطِ صحت درست ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر تنقید بھی درست ہے اور ان سے صرف نظر بھی کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق کی راہیں جس طرح ان کے لیے کھلی ہیں، ان کے اتباع اور تلامذہ کو بھی اجازت ہے کہ علم و نظر کی راہنمائی میں کتاب و سنت کی نصوص پر غور کریں اور مصالِح وقت کے لحاظ سے ان پر عمل کریں۔ گو یہ تحقیق ان کی تحقیق سے مختلف بھی ہو جائے۔ تحقیق و نظر کے لیے علوم اور غلوں بیت کے بعد ضروری نہیں کہ مصطلح اجتہاد اور اس کے مفروضہ علوم بھی زیر نظر ہوں۔ یہ اصطلاح زمانہ نبوت میں اس مفہوم سے موجود نہ تھی اور یہ علوم اجتہاد بھی زمانہ نبوت سے صدیوں بعد موجود ہوئے۔ ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ نے بھی یہ تمام علوم نہ پڑھے۔ بلکہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اس مصنوعی جہال سے ہر ایک کو بیکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ علم کو علم ہی کی راہ سے منوایا جائے، اسے فتویٰ یا حکومت یا اکثریت کے دباؤ سے نہ منوایا جائے۔“

(ص: ۱۰۳)

جماعت اہل حدیث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نئی جماعت ہے اور ترک تقلید سے آوارگی راہ پاتی ہے! مصنف کی سماج پر نظر تھی، ان کے کان میں اس طرح کی باتیں پڑتی تھیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”ابتدائی چار سو سال تک تقلید شخصی اور جمود کم تھا، بلکہ پہلی صدی میں آج کی مروجہ تقلید کا رواج ہی نہیں تھا۔ اواخر صدی میں امام ابو حنیفہ اور امام

مالک بن ابی مالک پیدا ہوئے تھے، پھر بتدریج ائمہ کے مسالک کا رواج ہوتا گیا، اُس وقت کے اہل حدیث علما کے سامنے اہم مسئلہ یہ تھا:

① لوگ قرآن عزیز اور سنتِ مطہرہ کی پابندی کریں۔

② اور ان کو سمجھنے میں اگر مشکل پیش آئے تو صحابہ اور تابعین کی روش پر اُسے سمجھا جائے۔ فہم میں جمود اور تقلید پیدا ہونہ آزادی اور آوارگی راہ پائے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ اور اُن کے فتوؤں میں وقت کے مصالح کی بنا پر وسعت قائم رہے۔ علما کے فتوؤں کو قرآن اور سنت کا قائم مقام نہ سمجھا جائے۔“

بعض آثار نقل کر کے لکھتے ہیں:

”ان آثار سے اس وقت کے ذہنی حالات کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علما کے ذہن پر کیا خطرات محیط ہیں۔ اتباعِ سلف پر اعتماد کے ساتھ جاہد پابندی اور آوارگی، دونوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ بدعت سے بھی پرہیز پیش نظر ہے اور اپنی حاکمانہ حیثیت سے بھی کوئی حکم منوانا پسند نہیں فرماتے۔ پوری توجہ اس طرف ہے کہ بدعت اور آوارگی نہ آنے پائے اور صداقت کی اشاعت جبر سے نہ ہو، بلکہ ضمیر کی آواز اور محض اللہ کے لیے ہو۔“ (ص: ۱۱۳-۱۱۴)

اصول کے تیس اہل حدیث کا موقف:

حدیثِ نبوی کے بالمقابل کسی اصل و قاعدے کی اہمیت نہیں۔ مصنف نے اس بات کو شاہ صاحب کے حوالے سے متعدد مقامات پر لکھا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اہل حدیث بھی ان علوم کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ سنت کے بالمقابل کسی اصول کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ جہاں قرآن اور سنت کسی امر کی صراحت کر

دے، وہاں کوئی اصل قبول نہیں کی جاسکتی۔

”اگر اصول فقہ کو طالب علمی کی صراحت سے پڑھا جائے تو واقعی اس کی گرفت سخت ہوتی ہے۔ اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اصول اس قدر وزنی نہیں رہتے۔ شاہ صاحب ایسے اصول کیسے قبول فرما سکتے ہیں؟ اسی لیے انھوں نے بڑی جرأت سے فرمایا کہ مجھے فقہائے محدثین کی راہ پسند ہے اور یہی بصیحت انھوں نے اپنے حلامدہ اور اپنے متعلقین کو تلقین فرمائی۔“ (ص: ۱۱۰)

قدامت و نسبت کی بحث:

کس جماعت کا وجود کب سے ہے اور کس جماعت کی نسبت کدھر ہے؟ یہ بحث مذہبی حلقوں میں اٹھتی رہتی ہے۔ اہل قلم اگر تاریخی شواہد کی روشنی میں اُسے سلجھائیں تو چنداں مشکل نہیں، لیکن اس بحث میں جب کچھ غیر سنجیدہ حضرات داخل ہو جاتے ہیں اور تحقیق کے بجائے ادعا اور تعصب کی عمل داری شروع ہو جاتی ہے اور مخاطب کو کسی بھی طرح زیر کرنا مقصود ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ سنجیدگی کے دائرے سے نکل کر تعلق و تخریج کی حد میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بحث اور تبادلہ خیال سے کسی طرح کی امید باقی نہیں رہتی اور رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس بحث کو مصنف نے شواہد کے ذریعے حل کیا ہے، لیکن پورا کلام نقل کرنا مشکل ہے، ہم صرف بعض چیزیں نقل کرتے ہیں:

”تذکرۃ الحفاظ“ پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی کے زمانے (۷۲۸ھ) تک ایسے لوگ موجود تھے، جو شخصی تقلید اور جمود سے پرہیز کرتے تھے۔ کتاب اور سنت کو براہ راست سلف امت، صحابہ اور تابعین کی طرح سمجھنے اور سوچنے کی کوشش فرماتے تھے۔“ (ص: ۱۳۵)

مصنف نے ”تذکرۃ الحفاظ“ سے ایک فہرست ائمہ محققین کی نقل کی ہے اور

اس کا مقصد ان الفاظ میں واضح کیا ہے:

”اس سے دو چیزوں کی وضاحت مقصود ہے: اول یہ کہ یہ نظر یہ نیا نہیں، بڑے قول اور اکابر اہل علم نے تقلید سے پرہیز اور ائمہ سلف کی راہ کو پسند فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، بلکہ ہر دور میں اہل علم تحقیق و تفحص کے طلبگار رہے، اس مسلک کے لیے ”دہابیت“ کا عنوان بڑا جھوٹ ہے۔ دہابیوں کا مرکزی مقام نجد اور حجاز ہے، لیکن وہ لوگ اکثر حنبلی ہیں، خال خال ان میں سلفی ہیں۔“ الخ

امام ذہبی، امام شوکانی اور لوہاب صدیق حسن بھٹہ کے حوالے سے محققین کی جو فہرست مصنف نے نقل کی ہے، اس میں پہلا نام ہی بن مغلہ (۲۰۶ھ) کا اور آخری نام سید محمد بن اسماعیل امیر یمانی کا ہے، ان کا سنہ وفات ۱۱۸۲ھ ہے، اس کے بعد مصنف کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

”ان ائمہ کے اسمائے گرامی اور سنین وفات پر توجہ فرمائیے اور غور کیجیے کہ یہ حضرات ترک تقلید کے باوجود امام ہیں۔ ہم اور آپ نقل احادیث میں ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ حدیث کے دفاتر میں ان کی نقل پر اعتماد کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، فروع کے ماخذ میں ان ہی کے علم پر یقین کرتے ہیں۔ پھر آج اگر کوئی شخص ائمہ اربعہ رضوان اللہ علیہم میں سے کسی امام کی کھلی طور پر تقلید نہ کرے تو اکابر اہل علم کی نظر میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ بریلی اور دیوبند والے اس پر ناراض ہوتے ہیں، طرح طرح کے القاب سے اس کو یاد فرمایا جاتا ہے۔ یہ مسلک بھی اپنی قدمت کے لحاظ سے ائمہ اربعہ بھٹہ کے مسالک سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ ان حضرات نے اپنے مسالک میں ائمہ حدیث ہی سے استفادہ کیا ہے۔“

(ص: ۱۳۷)

اہل حدیث کی خصوصیت:

مولف نے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے آٹھویں صدی تک کے اُمت کے حالات کی جانب اشارہ کیا ہے، پھر لکھتے ہیں:

”ان تمام مقامات میں بحمد اللہ اہل حدیث کی روش ایک جیسی رہی۔ وہ فروع، عقائد اور تصوف میں صحابہ کی اتباع کرتے رہے اور خانقاہی نظام کی بدعات سے اسی طرح نفرت کی، جس طرح فروع میں جامد تقلید اور عقائد میں بے دینی کی بدعات سے انھیں نفرت تھی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

”اہل حدیث نے کتاب و سنت کے فہم میں کسی فرد کی امامت کے بجائے ائمہ سلف اور صحابہ کو اپنا امام تصور کیا اور فروع، عقائد، احسان اور تصوف میں ان بزرگوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ شخصی آراء و افکار کو ائمہ سلف اور صحابہ کا بدل سمجھا۔ دراصل فتنوں کے دور عروج میں آزادی اور پابندی، جمود اور آوارگی کے بین بین یہی صحیح حل تھا، جسے ائمہ حدیث نے تلاش فرمایا اور عملاً صدیوں سے اس پر کاربند ہو کر ذہن کی آوارگی اور جمود کا مقابلہ کیا۔“ (ص: ۱۱۸)

چند اہم سوالات اور ان کے جوابات:

مصنف سے ایک صاحب نے جماعت اہل حدیث کے مسلک سے متعلق ۱۳ سوالات کیے تھے۔ مصنف نے ان کے مختصر جوابات دیے، جو ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور میں شائع ہوئے۔ جواب سے پہلے مصنف کی تمہید قابل توجہ ہے، اسی طرح جوابات بھی ذہن کی گرہیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان کو اس تحریر میں نقل کرنا باعث طوالت ہے۔ میں صرف مصنف کی تمہید پر اکتفا کرتا ہوں:

”محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

کتوب گرامی سے مسرت ہوئی کہ آپ قانون کے ساتھ شغف کے باوجود مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ سوالات سے ظاہر ہے کہ ان فقہی اختلافات میں بھی آپ کے مطالعہ کا انداز مناظرانہ ہے۔ آپ نے سوالات کی ترتیب میں قانون اور مناظرہ دونوں کو ملحوظ رکھا ہے، نیز سوالات اس ذہن کی نمازی کرتے ہیں کہ اہلحدیث کو آپ ایک ایسا فرقہ سمجھتے ہیں جو ائمہ اجتہاد کی ضد ہے اور شاید ہر مسئلے میں ان سے الگ ہے۔ آج کل دیوبند اور بریلی سے جس طرح جمود کی دعوت دی جا رہی ہے اور متاخرین شوافع بھی قریباً اسی انداز سے دعوت دیتے ہیں، اس سے تو اہلحدیث کو کلی اختلاف ہے۔ ہم اس جمود کو واقعی قطعاً پسند نہیں کرتے، بلکہ اس جمود کو اسلام کی دعوت عام کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک انصاف پسند طالب علم ان حضرات کی اس تعصب آمیز دعوت سے یہی نتیجہ اخذ کرے گا جو جناب نے اخذ کیا ہے۔

”لیکن فی الحقیقت اہلحدیث کی دعوت عام اور جامع ہے اس میں مذاہب اربعہ اور دیگر ائمہ اجتہاد کی فقہی مساعی بھی شامل ہیں، اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ان مقدس مساعی کا تحقیقی جائزہ لیا جائے اور انہیں کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ان اختلافات کی تطبیق اور ترجیح کے وقت ائمہ سلف رضی اللہ عنہم کی روش کو سامنے رکھا جائے۔ مروجہ فقہوں سے اہلحدیث کو جزوی طور پر یقیناً اختلاف ہے، لیکن ائمہ اجتہاد کے علوم و آثار سے تحقیقی استفادہ تحریک کا اساسی مقصد ہے، یعنی فقہی جزیات یا اختیار علم و بصیرت کی بنا پر عمل میں آئے، اس کے باوجود ان مختلف نظریات کو گوارا کرنا اور ائمہ کے علوم کا احترام اور ان سے استفادہ اس تحریک کی روح ہے۔ اس بنیادی اور اجمالی گزارش کے بعد استفسارات کے جواب ملاحظہ فرمائیں۔“ (ص: ۵۰۶)

ان سطور کے بعد مصنف نے مسلسل جواب لکھا ہے، اسے آپ کتاب میں پڑھیں گے، میں صرف پہلے سوال کا جواب نقل کر دیتا ہوں:

”① مسلک اہلحدیث ایک ایسی دعوت ہے جس کی بنیاد اصول اور فردوع یعنی عقائد اور اعمال میں ظاہر کتاب و سنت اور ائمہ سلف یعنی صحابہ کرام کی روش پر ہے، جس میں آنحضرت ﷺ کے بعد کسی شخصیت کے نام پر دعوت کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔“

تحریک اہل حدیث کی خدمات کا دائرہ:

مصنف نے اعتقادی اور فکری لحاظ سے اُمت کے حالات پر نظر ڈالی ہے اور اس سلسلے میں جو نشیب و فراز آیا اور جو تعمیر و تخریب ہوئی، اس کا جائزہ لیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جدت و قدامت اور سرگرمی و تعطل سے متعلق سوالات گھوم رہے تھے۔ ”معمرتین تحریک“ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

”اس سارے عرصے میں تحریک اہل حدیث بدستور کام کرتی رہی، اس میں جامعیت تھی کہ اس کے خدمت گزاروں کو دنیا کے ہر گوشے میں کام ملتا رہا اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ پہلی صدی ہجری میں حفظ اور کتابت حدیث، دوسری میں تدوین حدیث اور تصنیف و تالیف کی تاسیس کے کام، اس کے علاوہ اعتقادی اور عملی بدعات سے دست بردستی لڑائی، ان بدعات نے جن چور و زور کو تخریب اسلام کے لیے کھولا تھا، ان کی مگرانی، اس کے ساتھ مسلمانوں کے جماعتی شیرازہ کی حفاظت، تاکہ بیرونی حملوں سے اسلام کی سیاسی قوت تباہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ دور اندیشیاں ہیں جن کے نتائج فکر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بحرِ خاں کو بار بار جیل جانے پر مجبور کیا، پھر بوقتِ ضرورت اسی حکومت کی حمایت میں، جس نے شیخ کو جیل

بھجبا، ایک سپاہی کی طرح میدانِ کارزار میں داؤ شجاعت دیتے نظر آئے اور ہلا کو اور چنگیز کی فوجوں سے برسوں سینہ سپر رہے۔ یہ اعتدالِ مزاج اور حفظِ مراتب کے وہ عظیم الشان کارنامے اور فوق العادت کام ہیں جو شاید ائمہ سنت اور اربابِ حدیث ہی کا حصہ تھا، اور یہ تحریکِ سب سے معمر اور قدیم ترین تحریک ہے جو ان فتنوں سے عہدہ برآ ہو کر زندہ رہی، کیونکہ یہ تحریک نہ وقتی تھی نہ ظروف و احوال کی پیداوار، بلکہ اس کا مقصد پورے اسلام کی خدمت تھا۔“ (ص: ۱۹۲-۱۹۳)

جماعتی خدمات:

جماعتِ اہل حدیث کی سیاسی سرگرمی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ملی خدمات انجام دینے کے سلسلے میں بھی بعض اذہانِ شبہات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس سلسلے میں نامناسب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مصنف نے جماعتی خدمات کے تعارف پر گفتگو کرتے ہوئے اس پہلو کو واضح کیا ہے:

”حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری، صوفی ولی محمد صاحب فیروز پوری، مولوی اکبر شاہ سخانوی، مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا فضل الہی صاحب بیٹھم بدستور نظام اسلامی کی اقامت کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ یہ کوششیں خفیہ طور پر جاری رہیں اور عام حریت پرور تحریکات میں جماعت کی اکثریت کام کرتی رہی۔ خلافت، کانگریس، احرار، مسلم لیگ وغیرہ جماعتوں میں اہل حدیث نے صرف اسی نقطہ نگاہ سے کام کیا کہ اس ملک میں کلمتہ اللہ کو بلند کیا جائے۔ اس مجاہدانہ تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یورپ کے مدبر پوری کوشش سے سرگرم تھے اور یہاں اقامتِ دین اور کلمتہ اللہ کی سر بلندی کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ

اور ان کے خاندان کی مساعی کار فرمائیں۔ اصلاحِ حال کا سارا بوجھ اسی مختصر جماعت پر تھا جن کے پاس دولتِ ایمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور اس کے علاوہ ملک کے حکمتِ خورده ذہن ”وہابی“ کے لفظ سے اس قدر بدکتے تھے: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَبْرَةٍ﴾ [المعثر: ۱۵]۔

مصنف نے جماعت کی مناظرانہ سرگرمیوں اور ان کے فوائد پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ قادیانیت اور دوسرے باطل فرقوں کا زور توڑنے میں مناظروں کا جو مثبت کردار تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے:

”نصف صدی کی یہ کوشش یقیناً ان فتنوں کے دفاع میں کافی مفید ثابت ہوئی، ورنہ انگریز بہادر کی عطا کردہ نبوت آج ایک مصیبت بن چکی ہوتی۔“ (ص: ۱۹۶-۱۹۷)

شاہ صاحب کا مقصد:

شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے بڑی محنت اور قلبی وسعت سے کام لیا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ شاہ صاحب جیسی تجدیدی شخصیت کو کسی مخصوص فرقے یا گروہ سے وابستہ کر دیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے جس حکیمانہ انداز اور مجددانہ جرأت سے کام لیا ہے، اس سے پوری امت کو استفادہ کرنے کا موقع ملے اور کتابِ دست کے فہم کے باب میں ان کی راہنمائی سے ہر ایک استفادہ کرے۔

اس سلسلے میں مصنف نے ولی اللہی تحریک کے اہم عناصر کے نام گنائے ہیں، پھر ان کے مقاصد کا تجزیہ ذکر کیا ہے اور اصحابِ وہابی کے نظریات پر روشنی ڈالی ہے اور ”حجة اللہ البالغۃ“ سے کئی اقتباس ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ”ان تصریحات کا نتیجہ“ کا عنوان قائم کیا ہے، جس میں نتائج کی تفصیل یوں ہے:

۱۔ ”اہل حدیث اور اہل الرائے دونوں مکتب فکر ہیں اور دونوں اہل علم میں رائج ہیں۔
 ۲۔ شاہ صاحب کے خیال میں اہل حدیث اور اہل الرائے اس آخری دور میں اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں۔

۳۔ متاخرین اہل الرائے میں استدلال اور استنباط کے بجائے تقلید اور جمود آ گیا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی نظر میں نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

۴۔ اہل حدیث نے بھی حدیث کی طرف بے توجہی کی ہے، وہ تقریباً اسے ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں۔ استنباط اور اجتہاد کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے اور نہ تفقہ کی کوشش کرتے ہیں۔“ (ص: ۱۳۵)

”شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ دونوں گروہ حقیقت پسندی سے کام لیں اور اہل الرائے اکابر کے بجائے کتاب و سنت کو اساس قرار دیں اور اہل حدیث ظاہریت سے بچ کر تعلقہ سے کام لیں۔“ (تفہیمات: ۱/ ۲۰۹)۔ (ص: ۱۳۶)

مصنف ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمود غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ شاہ صاحب موجودہ حالات میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ قیاس اور رائے پرستی بھی انہیں پسند نہیں اور ظواہر پرستی بھی ان کی نگاہ میں معیوب ہے تو پھر وہ کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟“

اس معاملے میں مصنف نے ”التفہیمات الالہیۃ“ (۱/ ۲۱۱) سے شاہ صاحب کی عبارت نقل کی ہے، جس میں مذکورہ سوالات کا جواب ہے، اس کے بعد اپنا تاثر یوں ظاہر کرتے ہیں:

”شاہ صاحب کا ارشاد کسی حاشیہ آرائی کا محتاج نہیں۔ وہ تقلید کے سرف اس حد تک قائل ہیں کہ اہل علم کتاب و سنت سے روایت کرتے ہیں، غلطی

مشائل کی وجہ سے ان کی معلومات زیادہ ہیں، عوام ان کی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے پہنچ جائے تو علما کے ساتھ تقلیدی وابستگی کا تعلق یکسر ختم ہو جائے گا۔ حدیث صحیح کے ہوتے ہوئے کسی عالم کے لیے تعصب یا اس کی حمایت کے لیے تاویل کے دروازوں کا کھول دینا شاہ صاحب کی نگاہ میں بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس انداز کو وہ کسی طرح بھی پسند نہیں فرماتے۔“ (ص: ۱۶۰-۱۶۱)

مصنف نے مختلف مباحث کے دوران میں شاہ صاحب کے نقطہ نظر کو واضح کیا ہے اور اس میں اعتدال و امانت کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”شاہ صاحب ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام علما کی اطاعت و اتباع کریں، لیکن اس میں پیغمبر کی طرح کسی شخص کا تعین نہ ہو اور نہ اس میں جمود کی روح سرایت کرنے پائے۔“ (ص: ۱۶۳)

مصنف نے ”کھیمات“ (۲۰۲/۲) کے حوالے سے شاہ صاحب کی عبارت کا ترجمہ نقل کیا ہے، جس سے شاہ صاحب کے نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے:

”ہم فروغی مسائل میں اُن مسائل پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، جن پر علما متفق ہوں، خصوصاً دو بڑے گروہ: حنفی اور شافعی۔ طہارت اور نماز کے مسائل میں یہ طریقہ اور بھی پسندیدہ ہے۔ اگر اس میں اتفاق نہ ہو سکے تو جو ظواہر حدیث کے موافق ہو، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔“

مذکورہ بالا اقتباس کے بعد مصنف نے اپنا تاثر ظاہر کرتے ہوئے شاہ صاحب کے مقصود کو پھر واضح کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”ان کا غشایہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ فقہائے محدثین کی راہ کو بھی ان کے ساتھ ملا کر ملک میں ایک ایسے فقہی مکتب فکر کی بنیاد رکھی جائے جس میں

نہ حافظ ابن حزم کی ظاہریت ہو جس سے نصوص میں بھدا پن پیدا ہو اور آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی فصاحت و بلاغت اور حسن ادا نظر انداز ہو جائے، اور نہ قیاس اور رائے کو اس قدر اہمیت حاصل ہو کہ قوت فیصلہ علما کی موٹا گائیوں اور جیل آفرینیوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور نصوص شرعیہ اس حیران کن منظر میں صرف تماشاخی ہو کر رہ جائیں، جیسے متاخرین فقہانے فرضی صورتوں سے دین کا نیا عمل تعمیر فرما دیا۔ قاضی خان، شامی، الاشباہ والنظائر ان کے سامنے ان علوم اور ان کی ہمہ گیر تعلیمات انگشت بدنداں ہو کر رہ گئیں۔“ (ص: ۱۶۶)

شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟

”شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ مروجہ فقہ کو حدیث اور آثار سلف کی تائید حاصل ہو اور ظاہریت خالصہ کو تعلق اور قیاس جلی سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا مقصد صرف اسی قدر ہے، جسے مستقل طور پر گھبراہٹ کا پیغام سمجھ لیا گیا ہے۔“ (ص: ۱۸۰)

اس کے بعد مصنف نے بریلوی فرقے سے متعلق تبصرہ کیا ہے اور اہل حدیث کے ساتھ ان کے رویے پر افسوس و تعجب ظاہر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”یہ حضرات توحید و سنت کی ٹھوس آواز سے ڈریں تو بجا ہے۔“ اس کے آگے دیوبندی فرقے پر تعجب کا اظہار ہے کہ یہ بھی ”وہابی“ کے لفظ سے اس قدر گھبرائے کہ میدان چھوڑ گئے۔

مصنف نے قافلہ مجاہدین سے ارباب دیوبند کی علاحدگی کے موضوع کو چار صفحات میں موثر اسلوب اور دردمندانہ لہجے میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”یہ تو سیاسی صورت حال تھی، لیکن دینی پہلو سے یہ حضرات شاہ صاحب کے پروگرام سے کافی الگ ہو گئے۔ جس جمود کو شاہ صاحب ختم کرنا چاہتے

تھے، دیوبند نے پورے زور سے اس کے احیاء کی دعوت دی۔ پوری قوت سے اس کی سرپرستی کی۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریک کے مقاصد کو سیاسی، علمی، معاشی اور فقہی طور پر اپنی بساط کے مطابق جماعت اہل حدیث نے پورا کیا اور ان شاء اللہ کرتے رہیں گے۔“
(ص: ۱۸۲)

شاہ ولی اللہ کا اصلاحی موقف:

عہد عالمگیری کی صورت حال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مصنف نے شاہ ولی اللہ کے حکیمانہ رویے کی تحسین کی ہے:

”شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان کے رفقا اور ان کے متوسلین نے اس اندھیرے میں ایک روشنی کے مینار کی طرف توجہ دلائی اور وہ فقہائے محدثین کا طریق تھا۔ شاہ صاحب ہندوستان کی حقیقت اور ابن حزم کی ظاہریت کو فقہائے محدثین کے دامن میں پناہ دینا چاہتے تھے۔“ (ص: ۸۶)

شاہ صاحب اعتدال کے داعی:

مصنف نے برصغیر میں اہل توحید کی سرگرمیوں کے زیر عنوان مغل دور سے پہلے کے اور اس حکومت کے عہد کی خرابیوں کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے۔ پھر مجدد الف ثانی کی تجدیدی و اصلاحی کوششوں کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کوششوں کا بیان ہے اور اصلاح کے میدان میں انھوں نے جو مختلف اسلوب اختیار کیے اور جس طرح اصلاح کا فرض انجام دیا، اس کی ستائش ہے، پھر شاہ صاحب کے مقصود کا ذکر ہے:

”شاہ صاحب افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی کوشش فرمائیں جس سے کسی ہنگامے کے بغیر اپنے مقصد میں فائز ہو سکیں۔ لوگ امن کے ساتھ

دین حق کو قبول کریں۔ دین حق پورے سکون کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں پر قابض ہو جائے۔ شیطان کا لشکر پوری خاموشی سے اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے۔

”یعنی تصوف اعتدال پر آئے، فقہی جمود ذرا ڈھیلا ہو اور ”ہما انا علیہ وأصحابی“ کے لیے صلح و آشتی سے راستہ صاف ہو جائے۔ دین کا اصل سرچشمہ بہر کیف اللہ کی کتاب اور آنحضرت ﷺ کی سنت ہی کو رہنا چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کے مکاتب فکر راہنمائی کے فرائض انجام دیں گے، خود راہ نہیں بنیں گے۔“ (ص: ۲۰۳-۲۰۵)

شاہ صاحب کا توسع:

مصنف نے مختلف فقہی جزئیات میں شاہ صاحب کا نقطہ نظر ذکر کیا ہے، جو ان کے حکیمانہ ذہن کی عکاسی کرتا ہے، ان مثالوں کے بعد لکھتے ہیں:

”حجة اللہ“، ”مصنفی“ اور ”مسوی“ میں اور بھی کئی فردی مسائل ہیں، جن میں شاہ صاحب نے نہایت ہی وسعتِ ظرف سے اپنا رجحان فقہائے حدیث اور شوافع کی طرف فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ خشک حقیقت اور جامد عصبيت کو شاہ صاحب قطعاً پسند نہیں فرماتے اور نہ قدماے احناف میں اس قسم کا جمود پایا جاتا تھا۔ یہ جمود چوتھی صدی سے شروع ہو کر آٹھویں نویں صدی تک عروج پر پہنچا۔ بدعت سے روکنے کی اصل راہ اتباعِ سلف ہے۔ ائمہ کی تقلید نے بھی بدعت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدت مندی کا جمود آ گیا۔ اتباعِ سلف اور صحابہ کی مختلف رائیں اور ان کے فتوؤں میں مصالح کی بنا پر تنوع ہے، اس لیے وہاں جمود نہیں آ سکتا۔“ (ص: ۱۵۸)

مختلف ادوار:

شاہ صاحب کے افکار و خیالات کا گہرائی اور جامعیت کے ساتھ جائزہ لینے والے اہل علم ان سے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرتے، نہ کسی ایک پہلو کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مرحلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ حکم معتدل اور درست ہوتا ہے۔

مصنف نے بڑی صراحت و جرأت کے ساتھ اس نقطے کو اُبھارا ہے۔ لکھتے ہیں:

”واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ شاہ صاحب کا سیکال قسم ان تمام ادوار میں اپنا کام کرتا رہا۔ ہر وقت کے تاثرات شاہ صاحب کے قلم سے ظاہر ہوتے رہے۔ شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف کے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ بریلوی حضرات کو شاہ صاحب اور ان کے خاندان پر اعتماد نہیں، ورنہ ”شفاء العلیل“ وغیرہ سے بدعی خیالات کی خاصی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

”اہل حدیث اور حضرات دیوبند تو شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں، جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ شاہ صاحب کا رجحان احناف کی طرف بعض جگہ نمایاں ہے، ان کے ہاں شاہ صاحب کے احترام اور ان سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ شاہ صاحب جمود کے سخت مخالف ہیں۔ آج جو بیداری اور حریتِ فکر ملک میں موجود ہے، اس کی ابتدا حضرت مجدد الف ثانی سے ہوئی، لیکن اسے کھل کر نمایاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اسی بیداری کی تحریک نے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے مخلص رفقا میں ترکِ تقلید کی صورت اختیار کر لی، جسے مولانا سید نذیر

حسین صاحب اور ان کے تلامذہ نے پروان چڑھایا، جس سے اس وقت لاکھوں آدمی متاثر ہیں، جو ملک میں حریتِ فکر اور طریقہٴ سلف کی تلقین فرما رہے ہیں۔“ (ص: ۲۶۲-۲۶۳)

اصولِ فقہ اور فقہی جزئیات کا مقام:

مصنف نے اس نقطے پر اظہارِ خیال کے لیے ایک عبارت شاہ ولی اللہ کی ”قرۃ العینین“ (ص: ۱۸۶) سے، ایک عبارت شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ (۱/۶۲) سے اور ایک عبارت شاہ صاحب کی ”حجة اللہ البالغة“ (۱/۱۶۰) سے نقل کی ہے۔ پھر اپنا تاثر یوں ظاہر کیا ہے:

”اس کے بعد اصولِ فقہ کے متعدد قواعد اور ان کا حدیث کے انکار میں جو اثر پڑتا ہے، ذکر فرمایا ہے، پھر پورے جلال کے ساتھ ان قواعد پر معارضات عائد فرمائے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ احناف خود بھی ان قواعد کے پابند نہیں۔ یہ بحث کئی صفحات پر پھیل ہوئی ہے۔ حق پسند طالب علم کو ان مقامات کا مطالعہ پورے غور سے کرنا چاہیے۔

”اس وقت گزارش کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب جس طرح فقہی جزئیات کو دین اور شریعت نہیں سمجھتے، اسی طرح وہ اصولِ فقہ کو بھی لازوال اور دائمی نہیں سمجھتے۔ یہ محض علمی کوششیں ہیں جو علمائے اپنے مسالک کو بچانے کے لیے کی ہیں، نہ فروع کے انکار سے کفر لازم آتا ہے نہ اصولِ فقہ کے انکار سے دیانت میں خلل لازم آتا ہے۔“ (ص: ۱۵۲)

شاہ صاحب کا مقام:

شاہ صاحب نے اپنے دور تک کی علمی کوششوں کا جائزہ لیا، ان کو احترام کی نظر سے دیکھا اور ان سے استفادے کو ضروری قرار دیا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے جمود

کو برا سمجھا۔ مصنف اس کی توجیہ میں لکھتے ہیں:

”جس طبیعت کا ضمیر تجدید اور اجتہاد سے اٹھایا گیا ہو، جہاں حکم اور مصالح ذوق میں سمودیے گئے ہوں، جس شخص نے اسرارِ شریعت اور دین کی حکمتوں میں رازی اور غزالی سے سبقت حاصل فرمائی ہو، ابن حزم اور عز بن عبد السلام جیسے فحولِ ائمہ پر تنقیدی تبصرے کیے ہوں، وہ توضیح اور کشف الاسرار پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟ اصولی فقہ اور فقہ کے متعارض اور متضاد اصول اور جزئیات اسے کیسے مطمئن کر سکتے تھے؟“ (ص: ۹۰)

مصنف کی وسعتِ نظر:

مصنف نے اسلامی فرقوں کے اصول و مقاصد کا جائزہ لیتے ہوئے جانبداری کو ترک کر دیا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ظاہری فرقہ یا اہل الرائے پر گفتگو کے موقع پر انصاف سے کام لیا ہے اور حق پسندی کی روح سے تجزیہ کیا ہے۔ ظاہریت اور فقہی جمود پر ان کا تاثر کتاب کے متعدد مقامات پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہری کا قیاس سے بالکل صرف نظر کا نظریہ ائمہ حدیث میں مقبول نہ ہو سکا، اور فقہائے عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ اس لیے ائمہ حدیث اور فقہائے عراق میں قیاس سے استفادہ یا نظائر میں احکام کی وحدت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بوقتِ ضرورت قیاس کو سب درست سمجھتے ہیں، بلکہ ضروری!“ (ص: ۸۷)

اس اقتباس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقیقت کے اعتراف میں مصنف کو کوئی تامل نہیں، نہ کسی فرقے یا گروہ کے سلسلے میں دل میں کوئی تنگی یا تعصب ہے، ان کی گفتگو اصول کی بنا پر ہے اور اسی کی روشنی میں فیصلہ ہے۔ اگر کوئی پاسداری ہے تو صرف کتاب و سنت کے اصول اور منہجِ سلف کی ہے۔ دوسری کسی چیز کی ان کی نظر میں اہمیت

نہیں۔ انھوں نے تھیومات سے شاہ ولی اللہ کی وصیت نقل کرنے سے پہلے لکھا ہے:
 ”شاہ صاحب نے ان دو مختلف اور غیر معتدل نظریات اور ان کے نتائج
 کے حسن و قبح سے متاثر ہو کر اپنے تلامذہ اور متوسلین کو یہ وصیت فرمائی۔“

مولف نے شاہ صاحب کی وصیت کو فارسی اصل اور اردو ترجمہ کے ساتھ ثبت کیا
 ہے اور حقیقت میں یہ وصیت اس قابل ہے کہ اس پر امت مسلمہ کے ہر فرقہ اور فرقے کے
 ہر فرد کو غور کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب سے انتساب کی بات ہر ایک کرتا ہے، لیکن ان کے
 پیغام کے مطابق عمل کا مسئلہ توجہ طلب ہے۔ وصیت کی اردو عبارت پر آپ بھی غور کیجیے:

”فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کے ساتھ

تمسک کرے اور ان دونوں کو اپنا مشغلہ قرار دے۔ ہر دو سے کچھ حصہ

روزانہ پڑھے اور اگر پڑھ نہ سکے تو چند اوراق کا ترجمہ سنے۔ عقائد میں

سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے۔ ائمہ سلف کی طرح سوشگانیوں سے

بچے اور خام کار معقولیوں کی شک آفرینیوں سے بچے۔ فرعی مسائل میں

ان محدثین کا اتباع کرے جو حدیث اور فقہ دونوں سے پوری طرح واقف

ہوں۔ فقہی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہو اسے

قبول کرے، ورنہ بالکل نظر انداز کر دے۔ امت کو اپنے اجتہادات کو

کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استغنا حاصل نہیں ہوا۔ ضدی قسم کے

فقہ حضرات، جنہوں نے بعض اہل علم کی تقلید کو دین کا سہارا بنا رکھا ہے اور

کتاب و سنت سے اعراض ان کا شیوہ ہے، ان کی بات تک نہ سننا اور ان کی

طرف نگاہ مت اٹھانا اور ان سے دور رہنے ہی میں خدا کا قرب تلاش کرنا۔“

شاہ صاحب کی یہ عبارت اور اس کا مدعا بالکل واضح ہے۔ مصنف کا اس وصیت

پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیے:

”شاہ صاحب کے دانشمند اور جرأت آمیز اعلان سے تعجب ہوتا ہے، شاہ

صاحب نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی، وہ فقہی جمود کا دور تھا، اس وقت کا بہت بڑا تمدن اور روشن خیال بادشاہ اسلام کی جو سب بڑی خدمت کر سکا، وہ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف تھی، جسے فتاویٰ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ ”گویا اس دیرینہ جمود میں ایک محدود مقام تک حرکت کی کوشش کی گئی۔ قرآن اور سنت یا دوسرے ائمہ کے مذاہب کے لحاظ سے شرعی مصالح کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے دروس اور طریقِ افتاء سے طالب علم اور اس وقت کے عوام مطمئن تھے، لیکن خود شاہ صاحب مطمئن نہ تھے۔ جس چشمے سے عام دنیا سیرابی حاصل کر رہی ہے، وہ چشمہ خود اپنی سوتوں میں تلنگنی اور خشک سالی محسوس کر رہا تھا۔

”نبوت جب ختم ہو چکی ہے تو صرف ترجمانی اور تعبیر کو کیوں نبوت کی طرح واجب اور دوامی حیثیت دی جائے؟ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم دین کے خادم ہیں اور اسلام کے ترجمان۔ دین ان کا دستِ نگر اور خادم نہیں کہ ان کے ارشادات اور احکام کے لیے ہر وقت چشمِ براہ رہے۔“

قیاس کے سلسلے میں مصنف کا واضح موقف:

جن مسائل کے سلسلے میں جماعتِ اہل حدیث پر طرح طرح کے الزام عائد کیے جاتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ قیاس کا بھی ہے۔

مصنف سورۃ الشوریٰ کی آیت (۱۷) پر گفتگو کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”اس لیے نہ قیاس کی ضرورت سے انکار کیا جاسکتا ہے نہ اپنے مقام پر اس کی حجیت اور افادیت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ائمہ حدیث خواہر حدیث کے ساتھ پوری عقیدت، الفاظ اور اُن کے لغوی معانی کے ساتھ پورے

اعتنا کے باوجود قیاس کو شرعی حجت سمجھتے ہیں اور ان قیاسی ادلہ سے پوری طرح استفادے کے قائل ہیں۔ ان اصول کے احتوا اور ممکن عموم اور ہمہ گیری کے معترف ہیں، لیکن نصوص شرعیہ کو ان اصول پر قربان نہیں کرتے۔“

کتب فقہ میں ایسے مسائل مذکور ہیں جن کا کتاب و سنت کی نصوص ساتھ نہیں دیتیں، لیکن فقہاء ان کو تسلیم کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ مصنف نے اس طرح کی متعدد مثالیں پیش کر کے انصاف کی دعوت دی ہے اور جدال پسند علما کے رویے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”کچھ شک نہیں جب علماء بحث و مناظرہ کے موڑ میں آجائیں تو بھیڑیا حلال کر سکتے ہیں، مرغی حرام فرما سکتے ہیں، مگر عقل سلیم اور میزان اعتدال تو موشگافیوں اور نکتہ نوازیوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے محدثین نے قیاس کی حجیت کے باوجود اس دو عملی سے بچنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا ہے۔“ (ص: ۹۵)

علماء کے اصول:

علماء نے تفسیر و حدیث و فقہ کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں، ان کی اہمیت ہے، اس سلسلے میں علماء کی نیت پر شبہہ کا سوال نہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ نے حدیث کے اندر جو کچھ فرمایا ہے، یقیناً اس کا مقام انسان کے وضع کردہ اصولوں سے بلند ہے۔

مصنف اسی نقطے پر اپنا تاثر ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پیغمبر ﷺ خدا کے حکم کے مطابق احکام کی وضاحت فرمائیں، لیکن وہ بیان ہمارے خود ساختہ اصول کے ہم پلہ نہ ہو سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عجیب تھا۔ اس لیے ”حجة اللہ“، ”الخبیر الکثیر“، ”تفہیمات“، ”مصفی“، ”موسیٰ“، ”عقد الجید“، ”الانصاف“

وغیرہ میں اسے بار بار دہرایا اور مختلف طرق سے اس فقہی جمود کو توڑنے کی کوشش فرمائی اور احتجاج فرمایا کہ سنت کے ساتھ یہ بے انصافی اور ترجیحی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا ہی نامناسب ہے کہ غیر معصوم انسانوں کے بنائے ہوئے اصول تو دین کی اساس قرار پائیں اور سنت، جو فی الحقیقت وحی اور دین کی بنیاد ہے، وہ ان مصنوعی اصول کے سامنے یتیم اور لا وارث قرار پائے اور سنت سے ایسا سلوک وہ لوگ کریں جو آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں!“ (ص: ۱۰۲)

آگے لکھتے ہیں:

”در اصل حضرات فقہائے عراق، خصوصاً اتباع قاضی عیسیٰ بن ابان، سنت سے ویسے ہی کچھ ناراض ہیں۔ وہ رائے کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، سنت کے ابواب بند ہوتے ہیں تو ہولیں۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ جیسا بیدار مغز، معاملہ فہم، دور اندیش، تجدیدی ذہن رکھنے والا آدمی پورے ماحول کی اس نامناسب کیفیت پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟“ (ص: ۱۰۲)

اصول فقہ کے ایک مسئلے پر مصنف کا تبصرہ:

تعدیل ارکان کو ضروری نہیں مانا جاتا کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے۔ اصول کا یہ معروف مسئلہ ہے۔ مصنف اپنا نقطہ نظر یوں واضح کرتے ہیں:

”قرآن کی عظمت واقعی ضروری ہے، لیکن اس آڑ میں مقام نبوت کا تعطل ہو جائے، پیغمبر کو یہ بھی حق نہ رہے کہ وہ قرآن عزیز کے مفہوم کی تعیین فرمائیں، کسی عمل کی شرعی بیعت کا اظہار یا کوئی ایسا حکم جس سے قرآن عزیز نے سکوت فرمایا ہو، آنحضرت ﷺ بھی اسے بیان نہ فرما سکیں، خود صاحب وحی بھی اپنی وحی کا مطلب بیان نہ فرما سکیں، مجتہد اور فقیہ، عالم اور

صوتی تو اپنے خیال سے اپنی استعداد کے مطابق قرآن کا مطلب بیان فرما لیں، مگر آنحضرت ﷺ کو روک دیا جائے کہ آپ قرآن کے متعلق کچھ نہیں فرما سکتے، یہ عجیب بات ہے۔“ (ص: ۱۰۰)

خبر واحد سے قرآن کی تخصیص:

سورت نساء کی آیت (۲۳) میں ایک جملہ: ﴿وَأَمَّا تِلْكَ الْأُمَّةَ أَرْضَعْنَكُمْ﴾ کا ہے۔ محدثین نے حدیث ”فمیں رضعات“ سے عموم آیت کی تخصیص فرمائی ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اس سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔

اس رویے پر مصنف اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”رہا خبر واحد کا مظنون ہونا تو یہ بھی کامیاب عذر نہیں۔ خود فقہائے حنفیہ نے قرآن عزیز کی تخصیص کئی مقام پر فرمائی ہے۔ فرضیت جمعہ کے لیے علی العموم سورت جمعہ کی آیت سے استدلال فرمایا گیا ہے۔ غلام، مسافر، عورت وغیرہ کا استثناء خبر واحد ہی سے عمل میں آیا ہے۔

”دیہات کو جمعہ سے مستثنیٰ کرنے کے لیے مرفوع روایت بھی میسر نہیں آ سکی، وہاں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر ہی سے قرآن عزیز کی تخصیص کا کام لے لیا گیا۔

”شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ ایسے اصول جن کی ساخت کے ساتھ ان کی کلکت کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہو، دین کی بنیاد اور اجتہاد و تعلقہ کی اساس نہیں قرار پا سکتے اور حضرت ائمہ اصول اور فقہائے حنفیہ آیت کے اس احترام کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔“ (ص: ۱۰۸-۱۰۹)

خیر سگالی اور مفاہمت:

نظریہ اور تجاویز کا میدان وسیع ہے، لیکن عملی منظر نامہ بہتر نہ ہو تو تجویزوں سے

کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں کی فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ایک امر واقعہ ہے، جس کا اقرار نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال اور بہت سے مخلصین و مصلحین کی تمنا کے مطابق اگر تمام مسلمان قرونِ خیر کی طرح متحد ہوتے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا، لیکن شاید ابھی مخلصین کی تمنا کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔

جمال الدین افغانی کے سوانح نگاروں نے ان کی طرف یہ جملہ منسوب کیا ہے، جو انھوں نے مسلمانوں کے بارے میں شاید جھٹلا کر کہا تھا:

”اتفقوا علی أن لا يتفقوا“ یعنی مسلمان عدم اتفاق پر متفق ہیں!

یہ داستان بڑی تلخ ہے اور اس سے پیچھا بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ اتحاد کی ضرورت، فوائد اور وسائل پر اہل قلم کی تحریریں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے! اللہ رب العزت ان کے اندر کب تاثیر پیدا کرتا ہے اور امت اپنے بنیادی مسائل میں ایک پلیٹ فارم پر کب جمع ہوتی ہے!

اتحاد کی راہ میں، جیسا کہ اشارہ گزرا، دشواریاں متعدد ہیں، لیکن ان کا دور کرنا مسلمانوں کی استطاعت سے باہر نہیں۔ ان دشواریوں میں ایک دشواری یہ ہے کہ ایک جماعت یا فرقہ دوسرے فرقے سے متعلق کوئی غلط بات کہے۔ اسلامی فرقوں میں یہ مرض قدیم نہ بھی ہو تو سخت بہت ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اہل حدیث کے متعلق یہ بات مشہور کی گئی ہے:

”اہل حدیث کوئی کتبِ فکر نہیں، بلکہ حفاظِ حدیث اور اس فن کے ماہرین کو اہل حدیث کا نام دیا گیا ہے۔“

یہ ایک واضح حقیقت کا انکار اور اہل حدیث کے خلاف بے حد جارحانہ اقدام ہے، اس طرح کی باتوں سے عوام میں مقبولیت تو مل سکتی ہے، لیکن علمی دنیا میں اس کا بے حد برا اثر ہوگا۔ اس الزام یا تلخیس پر مصنف بہت دکھی ہیں اور اس کی تردید میں

قریب دس صفحات لکھے ہیں، ان میں خود شاہ صاحب، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، ابن عبدالبر، شہرستانی اور ابن خلدون وغیرہ ائمہ و اہل علم کا حوالہ دیا ہے۔ اس ضمن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کا حوالہ بھی ہے۔

اس بحث پر سیر حاصل گفتگو کے بعد مصنف نے ایک اور الزام کی تردید کی ہے، یعنی محدثین فقہ نہیں جانتے! مصنف نے تدوین حدیث سے پہلے اور بعد کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں:

”اس کے بعد تدوین حدیث کا دور شروع ہوتا ہے، اس وقت کی مصنفات میں احادیث پر تبویب کی گئی ہے۔ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی، موطا، ابن ماجہ وغیرہ کے مصنفین نے تبویب کی ہے۔ احادیث سے مسائل استنباط فرمائے ہیں، جس سے انسان میں قوت استنباط پیدا ہوتی ہے۔ مذاہب اربعہ کی کتب فقہ تو مسائل کی نقل ہے، ان کتابوں سے استنباط کا ملکہ مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ ان ضخیم کتابوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ فقیہ نہیں اور ان کا کام الفاظ حدیث کا حفظ تھا؟“ (ص: ۱۷۹)

محدثین کی فقہ سے ناواقفیت کی بات کہتے ہوئے آدمی شاید غور نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا! امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس الزام کا نشانہ بنے۔ نسأل اللہ العافیۃ۔

مصنف نے اس پر بھی اپنا تاثر ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب نے بڑے بڑے ارباب فقہ و بصیرت کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ باقی محدثین: ابو داؤد، نسائی، ترمذی، موطا، ابن ماجہ کی تبویب نے ان کے تعلق اور فقہی بصیرت کو واضح کر دیا ہے۔ جہاں تک احادیث سے مسائل کے استخراج اور فہم کا تعلق ہے، ائمہ حدیث کی تبویب میں صحیح اور معیاری فقہ پائی جاتی ہے۔“ (ص: ۱۸۰)

انصاف کی بات:

مسلك کے اختلاف کے سبب ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی بات اس تحریر میں گزر چکی ہے۔ اسلامی اخلاق و آداب کا اگر یہی اثر ہو کہ علمی مسائل میں اختلاف کے باعث ایک دوسرے پر زبان طعن دراز ہو تو پھر ایسی تعلیم سے کون متاثر ہوگا اور عصرِ نبوی اور قرونِ خیر کے بے شمار واقعات کی ہم کیا توجیہ کریں گے؟

مسلك کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ہمیں طعن و تشنیع کی قطعاً اجازت نہیں، لیکن بے حد افسوس کی بات ہے کہ جماعتیں اس کا لحاظ نہیں کرتیں۔ مصنف اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مولانا نے افسوس کا اظہار فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے فقہا کو بُرا بھلا کہنے سے نہیں چوکتے۔“
مصنف کا اس پر یہ تاثر ہے:

”اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ حرکت انتہائی مذموم ہے، اسی طرح بعض حضرات تقلید کی تائید فرماتے ہوئے ائمہ حدیث پر کچھڑا اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علمائے کرام امت کی مشرکہ امانت ہیں، ان کے متعلق بدگوئی، بدزبانی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونی چاہیے۔“
مصنف نے مذکورہ عبارت کے بعد لکھا ہے:

”بعض علمائے حدیث کے مقام کی رفعتوں کو خاک میں ملانے کا شغل فرما رہے ہیں! یہ علامہ زاہد کوثری کا بویا ہوا بیج ہے، جسے پالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کافی عرصے سے [کچھ لوگ] مشقِ ستم میں مشغول ہیں، جس کا نتیجہ منکرینِ حدیث کی تائید کے سوا کچھ نہیں!“ (ص: ۲۷۵-۲۷۶)

زبان کی تلخی:

اہل علم متفق ہیں کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ چیز موجود رہی ہے، اس کو رحمت کہنے کی بات تو درست نہیں، لیکن دینی و علمی میدان میں اس کے وقوع کا انکار صحیح نہیں، البتہ اختلاف کی نوعیت ہوتی ہے اور اس کے محرکات و اثرات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اختلاف چھوٹا ہو یا بڑا، اسے دور کرنے کے لیے البتہ کچھ اصول و آداب ہیں اور انہیں ہمارے علما اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عملی سطح پر ان سے چوک ہو جاتی ہے۔ پھر معرکہ کارزار گرم ہو جاتا ہے، جس میں گفتگو سے بڑھ کر قتال تک نوبت پہنچتی ہے!

مصنف اختلاف کے اثرات کو منضبط رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اور مجتہدین کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی تحقیق کے مطابق فتویٰ دیں۔ اتباع کو حق ہے کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق عمل کریں، مگر تلخ اور ترش زبان تو بے حد نامناسب ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق بھی ایسی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے، چہ جائیکہ ائمہ اجتہاد کے متعلق یہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے، پھر بھی بے ادب غیر مقلد ٹھہریں! کیا یہ تقلیدی جمود اور اس میں غلو کا نتیجہ نہیں!“ (ص: ۱۳۳)

تلخ بیانی کا محرک:

فقہی مباحث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے خلاف جو تیز و تند لہجہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے متعلق مصنف نے ملا جیون کا یہ قول نقل کیا ہے:

”وقد نقلنا کل هذا علیٰ نحو ما قال أسلافنا، وإن كنا لم نجترئ علیہ“

مصنف نے اسے ”عذر گناہ“ کے قبیل کی بات قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ سب دورِ جمود و عصبيت کی نوازشیں ہیں، ورنہ نہ شافعی ایسے کمزور ہیں نہ ان کے اتباع اتنے کم سواد کہ صریح کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دیں۔ یہ معلوم ہے کہ متاخرین فقہائے حنفیہ اور ائمہ اصول سے ائمہ شوافع کی کتاب و سنت پر نظر زیادہ وسیع اور عمیق ہے۔ علمائے حدیث کی تعداد شوافع میں کافی زیادہ ہے۔“ (ص: ۱۲۶)

ابن خلدون کا تجزیہ:

ابن خلدون کے حوالے سے مصنف نے یہود کے تین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ آج اسلام میں بھی تینوں قسم کے آدمی موجود ہیں۔ یعنی غائر نظر والے، ظاہر بین اور زاہد۔ پھر ان کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا ذکر کر کے اپنا موقف یوں واضح کرتے ہیں:

”اسلام ایک متحرک دین ہے، اس میں کتاب و سنت کو اساس قرار دے کر ہر دور میں فکری آزادی کی نہ صرف حمایت فرمائی گئی ہے، بلکہ حریت فکر کے ایسے ممکن طور پر راہیں ہموار کر دی گئی ہیں اور جمود اور تقلید کو روکنے کی ہر کوشش عمل میں لائی گئی۔“ (ص: ۸۴)

امت کے مذہبی مناقشات کا اثر ہمیشہ مثبت نہ رہا۔ مصنف لکھتے ہیں:

”ائمہ حدیث اور فقہاء کے مباحث، احناف اور شوافع کے مناقشات، اسلام کی خدمت کے بجائے بعض مقامات پر اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ قرآن و سنت کے نصوص تقسیم ہو گئے۔“ (ص: ۸۵)

فرقوں کے وجود کے محرکات:

مصنف نے اسلام کے اندر مختلف فرقوں پر اپنی کتاب کے بہت سے مقامات پر گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں فرقوں کے وجود کے محرکات اور ان کی بعض خصوصیات پر

روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں:

”اس تاریخی پس منظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہی مکاتب فکر اور عقائد کے اختلاف میں جو فرقے نمودار ہوئے، ان میں مختلف مؤثرات کارفرما تھے۔ بعض اوقات ان کی تبدیلیاں علم، نظر، استدلال اور حجت کی وجہ سے ہوئی۔ کبھی ان تبدیلیوں کی محرک معاشی مشکلات تھیں۔ کبھی اقتدار اور ارباب اقتدار کے ساتھ تعلق نے مسلک اور خیالات میں تبدیلی کی صورت اختیار کر لی۔ ابتدائی زمانوں میں یہ تبدیلیاں اس کثرت اور اس عجلت سے ہوتی رہیں کہ ان سے کوئی بیجان پانہیں ہوا، بلکہ قدرتی یا طبعی معمول تصور ہوتا رہا۔ عقائد کی تبدیلیاں بعض اوقات غیر معمولی صورت اختیار کرتی رہیں، خصوصاً جب حکومت نے کسی فرقے کی سرپرستی اور حکومتی سطح پر اس فرقے کی حمایت کی۔“

اس موقع پر مصنف نے عباسی خلفاء میں مامون، واثق اور معتصم کا نام لیا ہے۔ ان حضرات نے ائمہ سنت اور علمائے حدیث پر زندگی کی راہیں تنگ کر دیں۔ مصیبت متوکل کے وقت تک قائم رہی۔ متوکل پہلا آدمی ہے جس نے ائمہ حدیث اور داعیان سنت سے پابندیاں اٹھائیں۔ اپنا رجمان بھی بظاہر ائمہ حدیث کی طرف رکھا، لیکن اس کے باوجود کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ان رجمانات کو ضرور قبول کرے۔ (ص: ۲۱۴-۲۱۵)

امام ذہبی کا خوف:

امام ذہبی کی وفات ۷۴۸ھ میں ہے، ان کی خدمات کے بیان کا یہ موقع نہیں، لیکن جس طرح امام موصوف نے حدیث، رجال حدیث اور دعوت اسلام کی فکری تاریخ پر کام کیا، اس کی نظیر بہت کم ملے گی۔

موصوف نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں ابو محمد فضل بن محمد (۲۰۲ھ) کا تذکرہ لکھنے کے بعد قریب ایک صفحہ میں اس عہد کے فکری و اعتقادی حالات لکھے ہیں اور محدثین کے

مقام و مرتبے کو سراہا اور ان کی خدمات کی ستائش کی ہے، نیز ان کی قدر ناشناسی کی خدمت کی ہے۔ مصنف نے امام ذہبی کے کلام کا اردو ترجمہ نقل کیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں:

”حافظ ذہبی نے اپنے وقت کے اس مرض کو جس درد انگیز طریقے سے بیان فرمایا اور جس ہمدردی سے ذکر کیا، اس سے ظاہر ہے کہ آٹھویں صدی میں جمود اور شخصیت پرستی کس قدر بڑھ چکی ہے اور حافظ ذہبی اس سے کس قدر خائف اور متاثر ہیں اور اس کے عواقب اور نتائج سے ائمہ حدیث کی ذور اندیش نظریں کس قدر آگاہ ہیں؟

”اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے خلاف آٹھویں صدی ہجری میں بھی وہی اسلحہ جات استعمال ہوتے تھے، جو اپنی زنگ آلود شکل میں آج استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ فقیہ نہیں، یہ عطار ہیں۔ اصول سے نا آشنا ہیں، منطق نہیں جانتے، عقلی دلائل سے بے خبر ہیں، علم کلام ان کے اذہان سے بالا ہے!!

”یہ وہی زنگ آلود اور بوسیدہ اوزار ہیں جو فلاسفہ یونان نے متکلمین کے خلاف استعمال کیے اور فقہائے کرام نے ائمہ حدیث کو ان معائب سے مطعون کیا۔ اور اب حضرات ارباب تقلید ان لوگوں کے خلاف استعمال فرماتے ہیں جو اس وقت آزادی فکر کے حامی ہیں، چاہتے ہیں کہ جب ائمہ مجتہدین حق پر ہیں تو ان سب کے اجتہادات کیوں قابل عمل نہ سمجھے جائیں؟ چار کی تحدید اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی۔ بعض اوقات حکومتوں نے اپنے مقاصد یا امن عامہ کی حفاظت کے لیے کی، اس کے لیے شرعاً اس کی کوئی سند نہیں پائی گئی۔“ (ص: ۱۲۹)

تقدیم اپنے دونوں حصوں سمیت کچھ طویل ہو گئی، مگر ابھی اس اشاعت اور اس کے ناشرین سے متعلق چند جملے باقی ہیں۔

”تحریک آزادی فکر“ کی دو اشاعتوں کا ذکر پچھلی سطور میں آچکا ہے، پہلی اشاعت کے مقابلے میں دوسری اشاعت میں اضافہ تھا۔ اسی کتاب کی ایک اشاعت چند برس قبل دہلی سے بھی شائع ہوئی تھی، لیکن اس میں دوسری اشاعت کے اضافہ شدہ حصے نہ تھے، جبکہ مجھے ان مباحث کا شدت سے انتظار تھا۔

جب مجھے مکتبہ اللہیم، مؤ کے ذمے داران برادران عزیزان شفیق الرحمن و عزیز الرحمن کی زبانی معلوم ہوا کہ ”تحریک آزادی فکر“ کا ایک مکمل اور محقق و صحیح ایڈیشن ان کے مکتبے سے شائع ہونے والا ہے تو مجھے بہت زیادہ مسرت ہوئی، مگر جب عزیزان موصوف نے بتایا کہ مجھے اس کی تقدیم بھی لکھنا ہے تو مسرت، تامل میں بدل گئی۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ کتاب کے مصنف کا علمی مقام اور مسائل کی شرح و توضیح میں ان کا انداز متقاضی تھا کہ موصوف کا ہم پلہ یا ان کے تلامذہ کی نسل کا کوئی عالم اس تقدیم کی ذمے داری قبول کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور کتاب کے عربی مترجم کے سر یہ بوجھ آ گیا اور اب تقدیم کی سطریں آپ کے سامنے پیش ہیں۔

مکتبہ اللہیم، مؤ سے متعلق میرے تاثرات پہلے شائع ہو چکے ہیں، میں اس مکتبے کے لیے اپنا کلمہ خیر جماعتی تاریخ کے رمز شناس ڈاکٹر بہاء الدین صاحب کو بھی لکھ چکا ہوں اور یہ اداے فرض کے طور پر تھا۔ مکتبے پر کوئی احسان نہ تھا۔ مکتبے کی تجارتی حیثیت جو بھی ہو، لیکن اپنے اشاعتی مواد کے انتخاب میں اس نے جس سلامتی فکر کا ثبوت دیا، وہ قابل تعریف ہے۔ مذہبی طلقے کو جس طرح کے لٹریچر کی ضرورت ہے اور کتاب و سنت کی دعوت کی اشاعت میں جو کتابیں مثبت کردار ادا کرتی ہیں، ان کی فراہمی میں اس مکتبے کا کردار اہم ہے۔ مکتبے کا یہ اہتمام بھی ہے کہ کتابوں کو تصحیح و تخریج کے ساتھ شائع کیا جائے، تاکہ قاری کو مواد کے استناد پر اطمینان حاصل رہے۔

زیر نظر کتاب کی اشاعت پر میں مکتبہ اللہیم کے ذمے داروں کو مبارکباد پیش

کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انھیں دین کی اور علوم کتاب و سنت کی خدمت کی اسی طرح توفیق ارزانی فرمائے اور ان کی محنت سے ہماری موجودہ نسل کو صالح لڑکچہ کی فراہمی برقرار رہے۔ واللہ ولی التوفیق.

مقتدی حسن ازہری

جامعہ سلفیہ، بنارس

۲۲ رمضان ۱۴۳۹ھ

مقدمة التحقيق

برصغیر کے ظلمت کدے میں دعوتِ توحید اور سلفی منہج و فکر کے احیا کے لیے ائمہ اہل حدیث کی طرف سے جس جانفشانی کا مظاہرہ کیا گیا، بلاشبہ وہ قرونِ اولیٰ کی قرین و سہیم تھی کہ جس کی بدولت نہ جانے کتنے نفوسِ راہِ حق سے شناسا ہوئے۔ تقبل اللہ جہودہم وشکر مساعیہم وحشرنا فی زمرتہم۔

دعوتی جہود و مساعی کے ضمن میں علمائے اہل حدیث کی دور رس نگاہیں تمام اسالیبِ دعوت پر مرکوز رہیں اور انھوں نے ہر باب میں اپنی ذمے داریاں خوش اسلوبی سے نبھائیں۔ عوام الناس کی ذہنی سطح کے مطابق دعوتی دروس اور مجالس و وعظ کے ذریعے سے وسیع پیمانے پر توحید و سنت کی اشاعت کا انتظام کیا گیا اور ملک کے طول و عرض میں اس مقصد کی خاطر ایک طرف اگر اجتماعی پروگراموں کا جال بچھا ہوا تھا تو دوسری جانب انفرادی دعوت کی ذمے داریوں کو بھی نظر انداز نہ کیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں داعیانِ حق کے ذاتی کردار اور شخصِ اخلاق نے بھی حیران کن نتائج پیدا کیے۔

تصنیف و تالیف اور صحافت کے میدان میں ائمہ اہل حدیث نے ایسا گراں قدر ورثہ چھوڑا ہے کہ ایک عالم تا ابدان کی مساعی جلیلہ کا ممنون رہے گا۔

مدارس و جامعات کے ذریعے سے تدریسی خدمات اور تعلیمی اصلاحات کی ایسی روشن مثالیں قائم کی، جنہیں مخالف و موافق ہر ایک نے سراہا اور اپنے معاہدہ و جامعات کے مناہج میں ان سے استفادہ کیا۔

مناظرات و مباحثات میں بھی علمائے اہل حدیث نے ایسی بے مثال خدمات انجام دیں کہ اپنے تو ایک طرف، مخالفین بھی بوقتِ ضرورت ہمارے علمای کو آواز دیا کرتے تھے۔

۴۰ نصرتِ حق کی خاطر مختلف فرق و احزاب کی تردید میں علمائے اہلحدیث نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا اور ہر مخالف نظریے اور فتنے کی خوب خبر لی۔

علاوہ ازیں اس دور میں کتاب و حکمت کی نشر و اشاعت اور توحید و سنت کی دعوت میں جتنے طرق و وسائل مہیا تھے، سب سے استفادہ کیا گیا اور انھیں خلقِ خدا کی ہدایت و راہنمائی کے لیے بروئے کار لایا گیا۔

انھیں جہود و مبارکہ اور مساعیٰ جلیلہ کے نتیجے میں ایسے ایسے رجالِ کار پیدا ہوئے، جنہوں نے ساری زندگی اسی مقدس فریضے کی خاطر تنگ و دو کی اور اسی گلشن کی آبیاری میں اپنی عمریں کھپا دیں۔

حضرت العلام شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قافلہ دعوت و ارشاد کے رکنِ رکین بلکہ اپنے عہد میں اس کے قائد و سرخیل تھے، جن کی ساری توانائیوں کا محور و مرکز ہی اس موروثہ دیستان کی نگہبانی تھا، جو انھیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملا۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ پر طائرانہ نظر ڈالنے ہی سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح تنہا ایک شخص ایسی ذمے داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد و مدرسے کے نظم و اہتمام سے لے کر ملی و قومی مسائل تک اپنے فرائض کو محسوس کرتا اور مقدور بھرا نہیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر خود فرماتے ہیں:

”میری مشغولیتوں کا یہ حال ہے کہ مدرسے کی تدریس اور اہتمام دونوں میرے متعلق ہیں۔ مقامی جماعت میں بھی کافی حد تک دخل دینا پڑھتا ہے۔ شہری اور مقامی حوادث سے بالکل بے تعلق رہنے کی عادت نہیں، سیاسیات سے بھی تھوڑا بہت تعلق رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اپنی ذاتی مشغولیتیں اس کے علاوہ ہیں، قوتِ قدسی کا بھی دعویٰ بالکل نہیں...“

(نگارشات، ص: ۵۵۹)

”تہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے، اور جو کچھ
 ان کے پاس ہے وہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔ ان کے پاس
 کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور
 پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے
 کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے
 کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ
 اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور
 کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ
 ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔“

”تہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے، اور جو کچھ
 ان کے پاس ہے وہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔ ان کے پاس
 کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور
 پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے
 کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے
 کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ
 اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ
 ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔“

”تہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے، اور جو کچھ
 ان کے پاس ہے وہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔“

”تہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے، اور جو کچھ
 ان کے پاس ہے وہ سب کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔ ان کے پاس
 کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور
 پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے
 کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے
 کچھ اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ
 اور کچھ ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ
 ہے۔ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ اور کچھ ہے۔“

”اس وقت تک (احکام شریعت میں حدیث کا مقام) اس کی دس قسطیں آچکی ہیں اور ہم (قارئین) کو مزید تشنگی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو مزید جاری رکھتے ہوئے ہر پہلو کی اچھی طرح وضاحت کر دینی چاہیے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو بھی چھپوا کر عوام الناس میں تقسیم کیا جائے۔“ (”الاعتصام“ لاہور، ص: ۱۱، ۲۵، ریحی، ۱۹۶۳ء)

حضرت سلفی رحمہ اللہ نے جس موضوع پر بھی لکھا، اس میں علمی رسوخ، منہج سلف کی پاسداری، ادبی کمال، طعن و تشنیع سے احتراز، ذاتیات پر کچھڑا چھالنے سے گریز اور محافلین کی قدر و منزلت ملحوظ رکھی اور اپنی بات کو خوش کن اسلوب و تعبیر سے بیان کر دیا۔
جماعتی لٹریچر کی ضرورت و اہمیت:

مولانا سلفی رحمہ اللہ اپنے کثیر مشاغل اور بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ مسلکی و جماعتی شعور کے احیا کے لیے مفید علمی لٹریچر کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ عموماً وہ اپنے دروس و خطابات اور مضامین و تحریرات میں جماعتی لٹریچر کی اشاعت پر زور دیتے اور ہمہ وقت اس کی طباعت کی فکر ان کو دامن گیر رہتی۔
چنانچہ جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کالج کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں:

”بحث اور مناظرات کا دور گزر چکا۔ اب اس کی افادی حیثیت مشتبہ ہے، آپ اب سنجیدہ اور مدلل لٹریچر شائع فرمائیے، جسے لوگ گھروں میں بیٹھ کر سکون سے پڑھیں۔ وہ دلوں پر اثر کرے۔ مفید لٹریچر بڑی مؤثر قوت ہے، آپ اس سے دماغوں میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اذہان کو درست کر سکتے ہیں۔ نواب صدیقی حسن خاں، مولانا حافظ محمد لکھوی، مولانا عبدالستار فیروز و لوہاں کی تصانیف نے ہزاروں افراد کے عقیدے درست کر دیے۔“

تحریک آزادی فکر:

حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تحریرات پر مشتمل یہ مجموعہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے گیارہ مقالات اور رسائل شامل ہیں۔ یہ مجموعہ پہلا مرتبہ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی زندگی میں نومبر ۱۹۶۶ء کو شائع ہوا تھا، جس میں ان کے سات عدد مقالات: ① تحریک اہل حدیث کا مدد جزر، ② تحریک اہل حدیث کا تاریخی موقف اور خدمات، ③ برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں، ④ ترک تقلید اور اہل حدیث، ⑤ مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر، ⑥ اہل حدیث کی اقتدا، ⑦ ایک مقدس تحریک جو مظالم کا توحید مشق بنی رہی۔ شامل تھے۔

بعد ازاں حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مارچ ۱۹۷۸ء کو اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں کتاب کے مرتب مولانا محمد ضیف یزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار مقالات: ① مسئلہ حیات النبی، ② زیارت قبور، ③ مسلک اہل حدیث کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات، ④ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور۔ کا بھی اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اب یہ کتاب مذکورہ بالا گیارہ مقالات و رسائل پر مشتمل ہے۔

قارئین کرام کی خدمت میں اب یہی کتاب مزید تصحیح اور تحقیق و تخریج کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، جس میں مختلف اغلاط کی تصحیح میں مقدور بھر کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بالخصوص قابل ذکر ہے کہ ہمیں حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہفید محترم حافظ اسعد محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اس کتاب ”تحریک آزادی فکر“ کا وہ قیمتی نسخہ بھی دستیاب ہو گیا، جو مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر مطالعہ تھا اور اس میں متعدد مقامات پر انہوں نے تصحیح کی ہوئی تھی۔ ہم نے کتاب کی اس طباعت میں ان کے ذاتی نسخے سے مکمل استفادہ کیا ہے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک.

ذیل میں ان مقالات و رسائل کا مختصر تعارف ملاحظہ کریں:

① تحریک اہل حدیث کا مد و جزر:

اس مضمون میں مسلک اہل حدیث کی ابتدا، مختلف فرقوں کا رویہ، سلفی نقطہ نظر کی نمایاں خوبیاں، اہل الرائے کی غلط تاویلات، قیاس و تفقہ کے نتیجے میں ان گروہوں کے عیوب و نقائص، اہل حدیث کے مضبوط موقف اور نقطہ نگاہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا بھی بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مضمون پہلی بار ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور (۲۳ نومبر ۱۹۶۱ء، جلد: ۱۳، شمارہ: ۱۷ تا ۱۹ فروری ۱۹۶۲ء، جلد: ۱۳، شمارہ: ۲۸) میں بارہ اقساط میں شائع ہوا۔ نیز یہ مضمون انڈیا سے (۸۸) صفحات پر کتابی شکل میں ۱۹۹۱ء کو شائع ہوا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہندوستان کے بعض مدارس اہل حدیث نے اسے اپنے نصاب میں بھی شامل کیا۔

② تحریک اہل حدیث کا تاریخی موقف اور خدمات:

اس مضمون میں تحریک اہل حدیث کے مقاصد، دیگر فرقوں کے مناجح میں موجود نقائص، ائمہ حدیث کی خدمات جلیلہ اور برصغیر میں علمائے اہل حدیث کی مساعی جمیلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

یہ مضمون ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور (۱۹ اگست، ۱۹۳۹ھ) کے پہلے شمارے میں حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مضمون تھا جو شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی ہفت روزہ "الاعتصام" کے مختلف شماروں (۱۲ اکتوبر ۱۹۵۶ء، ۲۰ اکتوبر ۱۹۶۱ء) میں یہی مضمون شائع ہوتا رہا۔

③ برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں:

برصغیر میں شرک و بدعت کی مختصر روداد اور اس کے مقابلے میں خانوادۃ ولی اللہی کی جدوجہد کا تذکرہ اس مضمون میں شامل ہے۔

یہ مضمون پہلی بار ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور (۱۱-۱۸ اکتوبر ۱۹۶۳ء) میں دو قسطوں میں شائع ہوا۔

④ ترکِ تقلید اور اہل حدیث:

اس مضمون میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ترکِ تقلید اور اہل حدیث، نیز اہل حدیث اور غیر مقلد میں ترادف نہیں اور شخص جو ایسا سمجھتا ہے وہ فقہی مذاہب اور جمود و تقلید کے تاریخی پس منظر سے نابلد ہے۔ مضمون کے آخر میں بعض ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں غیر مقلد کہنا تو درست ہے، لیکن وہ لوگ اہل حدیث کہلانے کے قطعاً حقدار نہیں۔ یہ مضمون پہلی بار ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور (۲-۹-۱۶ جولائی ۱۹۶۵ء) میں تین اقساط میں شائع ہوا۔

⑤ مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر:

مئی ۱۹۶۵ء کے ”فاران“ کراچی میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے مروجہ تقلید کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، حضرت العلام مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے زیرِ نظر مضمون لکھا، جس میں مسئلہ تقلید کے تمام گوشوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور مولانا تقی عثمانی صاحب کے استدلال کی خامیاں بیان فرمائیں۔

⑥ اہل حدیث کی اقتدا:

آلہ بریلی کے آرگن ماہانہ ”رضوان“ لاہور (۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء) کے نماز نمبر میں بعض اختلافی مسائل کے تذکرے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اہل حدیث حضرات کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں اور اس کے ساتھ ہی بعض مسائل کی غلط توجیہ اور چند قدیم اتہامات کا بھی اعادہ کیا گیا تو حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الزامات کے جواب میں مذکورہ بالا عنوان سے یہ گراں قدر مقالہ لکھا، جو ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور (جلد: ۲، شماره: ۳۲ تا شماره: ۳۷) میں مجھے اقساط میں شائع ہوا۔

یہ مقالہ حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مسائل میں ژرف نگاہی اور دقتِ نظر کی روشن دلیل

ہے، جس میں انہوں نے مخالفین کے شبہات و اتہامات کا بھی بھرپور جائزہ لیا ہے اور مسلکِ اہلحدیث کے موقف کی مضبوطی اور فریقِ مخالف کے منہج و استدلال کی کمزوریاں بھی خوب واضحگاہ کی ہیں۔

⑦ ایک مقدس تحریک جو مظالم کا تختہٴ مشق بنی رہی:

اس مضمون میں تقلید و جمود کے مختلف اثرات، مسلکِ اہل حدیث کے خلاف اہل الرائے کی ریشہ دو انیاں، تاریخِ اہلحدیث کے بعض ادوار کا تذکرہ اور تقلید و ظاہریت کے درمیان اہل حدیث کے امتیازی مقام پر بحث کی گئی ہے۔

یہ مضمون پہلی بار ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور (یکم جولائی ۱۹۶۶ء، جلد: ۷، شمارہ: ۲۸ تا ۲۹ ستمبر ۱۹۶۶ء جلد: ۱۸، شمارہ: ۲۵) میں نواقساط میں شائع ہوا۔

⑧ مسئلہ حیاتِ النبی ﷺ:

جب دیوبندی حلقوں میں مسئلہ حیاتِ النبی ﷺ پر فتویٰ بازی اور مضامین کی یورش ہوئی تو حضرت سلفی ؒ نے ایضاً حقیقت کے لیے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کے متعلقہ تمام گوشوں پر روشنی ڈالی۔

حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی ؒ اس رسالے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پچھلے چند سالوں سے دیوبندی حلقوں میں مسئلہ حیاتِ النبی ﷺ بلاوجہ باعثِ نزاع و شقاق بنا ہوا ہے۔ ایک فریق اس پر بھند ہے کہ آنحضرت ﷺ اب بھی بقید حیات دنیویہ ہیں۔ دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ایسا سمجھنا نصوصِ صریحہ قرآن و حدیث اور اہل سنت کے مسلمات کے خلاف ہے۔ اس افسوسناک خلفشار کی ابتدا ایک تقریر سے ہوئی جو ایک جید دیوبندی عالم، صاحبِ حلم و عرفان مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری۔ دام مجدہ۔

نے حنفیہ کرام ملتان کے ایک جلسہ میں فرمائی، جس پر ان کے رفقاء نے مذہب نے نہ صرف کہ اس وقت ہی ہنگامہ بپا کر دیا، بلکہ بعد میں بھی فتویٰ بازی اور مضامین سازی کی مہم چلا دی، حتیٰ کہ خود مدرسہ دیوبند اور اس کے رسالہ ”دارالعلوم“ نے اس میں کافی دلچسپی لی۔

”جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا، یہ مضامین عموماً ”دلائل“ کے بجائے جذبات پر مبنی تھے۔ اس لیے اونچے نام کی وجہ سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ ان ”تازہ ارشاداتِ دیوبند“ کا علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عاجز نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدظلہ کی خدمت میں یہ درخواست گزرائی۔ حضرت نے بے حد مصروفیات کے باوجود چند دنوں میں ایک پیش قیمت علمی و تحقیقی مقالہ تیار فرما دیا، جسے ہم نے اپنے ماہنامہ ”رحیق“ جو ان دنوں جاری تھا۔ کی قلم اشاعتوں (مارچ تا مئی ۱۹۵۸ء) میں شائع کر دیا۔“

مولانا بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

”اس مقالے کا اہل علم و فضل نے گرم جوش سے استقبال کیا، مگر خواصانِ دیوبند میں اس سے خاصی دلچسپی پیدا ہوئی، جو قدرتی تھی، چنانچہ ایک صاحب نے مدیر ”جلی“ دیوبند کو جوش بھرا خط لکھا، جو رسالہ ”جلی“ (بابت جولائی و اگست ۱۹۵۸ء) میں چھپا، جس کا جواب باصواب دیتے ہوئے مدیر ”جلی“ کو کئی حقائق کا انکشاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک تحقیق پسند دوست کے دوسری نوعیت کے چند شبہات کے حل میں مولانا موصوف نے پھر ایک تفصیلی مضمون رقم فرمایا، جو محنت روزہ ”الاعتصام“ لاہور (۳۰ جنوری ۱۹۵۹ء) میں شائع ہوا۔“

بعد ازاں ”رحیق“ لاہور، ”الاعتصام“ لاہور اور ”جلی“ دیوبند کے یہ تمام مضامین ۱۹۶۰ء میں کتابی شکل میں طبع ہوئے اور پھر زیر نظر کتاب میں شامل کیے گئے۔

⑨ زیارت قبور:

قبروں کی مسنون زیارت، قبور پر عرس اور میلے، قبر پرستی کی حرمت اور اس کے متعلقہ دیگر مباحث پر مشتمل یہ مضمون پہلی بار ”قاران“ کراچی کے ”توحید نمبر“ میں شائع ہوا تھا۔

⑩ مسلک اہل حدیث کے بارے میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات:

۱۹۶۶ء میں جناب عبدالحق (بی۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی) نے حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسلک اہلحدیث کے منج اور طرز فکر و عمل کے بارے میں چودہ سوالات ارسال کیے جن کا حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تسلی بخش جواب دیا۔ یہ سوالات و جوابات پہلی بار ہفت روزہ الاعتصام لاہور (۳ جون ۱۹۶۶ء) میں شائع ہوئے تھے۔

⑪ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور:

بریلوی حضرات حالمین مسلک اہل حدیث کے بارے میں عموماً جو اتہامات عوام الناس میں نشر کرتے ہیں، ان میں ایک یہ تہمت بھی شامل ہے کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک - نعوذ باللہ - نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور گاؤں و خیر کے خیال سے بھی برا ہے۔ گوجرانوالہ کے ایک بریلوی مولوی ابوداد محمد صادق کی زبان سے ایسی ہی الزام تراشی سن کر ایک شخص نے مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحقیق حال کے لیے خط لکھا، جس کے جواب میں حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت حال کی وضاحت کی اور بتایا کہ ہمارا ایسے عقیدے اور فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر بہتان اور الزام تراشی ہے۔

یہ استفسار اور اس کا جواب پہلی بار ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور (۳ نومبر ۱۹۶۷ء) میں اشاعت پذیر ہوا۔

اسلوب تحقیق:

- ① آیات کی نشاندہی۔
- ② احادیث و آثار کی تحقیق و استخراج۔
- ③ عربی و فارسی عبارات کا اصل مصادر و مراجع سے تقابل و اصلاح۔
- ④ عربی و فارسی اشعار کا ترجمہ۔
- ⑤ حتی الوسع مقالات و مضامین کا اصلی ماخذ سے مقارنہ و موازنہ۔
- ⑥ بعض مقامات پر مختصر حواشی و تعلیقات۔

اظہارِ تشکر:

ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس کی توفیق سے ہمیں ان نگارشات کو منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بعد ازاں ان تمام احباب و اخوان کے ممنون ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ان مقالات کی تکمیل و طباعت کے لیے کسی طرح کا تعاون کیا، بالخصوص حضرت سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے حفید محترم حافظ اسعد محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شکر یے کے سزاوار ہیں، جن کے تعاون سے اس کتاب کا یہ محقق ایڈیشن قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جزاء اللہ خیراً۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن
تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔

حافظ شاہد محمود

۲۷/رجب ۱۴۳۷ھ = ۱۵/مئی ۲۰۱۶ء

0321-6466422

hasanshahid85@hotmail.com

1

تحریک اہلحدیث کا مدوجزر
اور
شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کے اثرات

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولہ محمد خاتم النبیین وعلى أصحابه و أتباعه أجمعين. أما بعد:

میں مسلسل لکھنے کا عادی نہیں۔ پیدائشی طور پر ذہنی میلان دین کی طرف ہے اور عقیدہ سلف سے طبعی شغف۔ تعلیم و تربیت بھی اسی نئج پر رہی۔ انگریزی تعلیم اور حضری مدارس سے نہ تاثر ہے نہ انس۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو وہی مسائل ہی پر لکھتا ہوں۔ جہاں تک اپنے متعلق خیال ہے، میں مناظر نہیں ہوں، نہ آج کے رہی مناظرات سے طبیعت آشنا ہے، اس لیے حوالوں میں کاٹ چھانٹ، تراجم میں حسبِ مطلب قطع و برید کی قطعاً عادت نہیں۔ مسلک اہل حدیث سے محبت ہے اور فن حدیث سے بلحاظ طالب علم کچھ تعلق، اور اسی ماحول میں کم و بیش کچھ لکھنے کا موقع ملا ہے۔

حدیث کی اساس چونکہ قرآن ہے، اس لیے قرآن عزیز کے ساتھ بھی اسی قسم کا تعلق ہے، بلکہ قرآن کو سنت سے قطع کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ کئی سال سے ہمارے ملک میں انکار حدیث کی تحریک چل رہی ہے اور کئی مراحل سے گزری ہے، اور اس کے محرکین نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کئی لباس بدلے ہیں۔ میں نے ابتدا میں یہ لٹریچر بطور طالب علم تحقیق کی نظر سے پڑھا، اب مجھے اس تحریک اور اس لٹریچر سے نفرت ہے، اس شغل کو اضاعتِ وقت سمجھتا ہوں، صلاة القرآن، بیان القرآن، طلوع اسلام؛^① یہ اس تحریک کی بے چارگی کے مختلف

① صلاة القرآن، عبد اللہ پکڑ الوی کی تصنیف، بیان القرآن، مولوی احمد دین امرتسری کی تالیف اور طلوع اسلام، یہ غلام احمد پرویز کا جاری کردہ ماہنامہ ہے، جو انکار حدیث کا علمبردار ہے۔

مراحل ہیں۔ اس تحریک کی قیادت کے عمل اور فکر کا حاصل یہ ہے:

وہ قرآن کو مفصل کہنے کے باوجود مجمل اور قابل تشریح و تفسیر سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کے لیے لٹریچر شائع کرتے ہیں، جس کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن عزیز کو ان حضرات کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ان کے ہاں اس تشریح کو قبول کرنا گویا قرآن کو ماننا اور قبول کرنا ہے، مگر آنحضرت ﷺ یا آپ کے رفقاء کرام قرآن کے مقاصد کو بیان کریں تو اسے یہ حضرات نہ قبول کرتے ہیں نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، بلکہ قطعاً ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کا انکار کر دینا سمجھ میں آتا ہے۔ ائمہ حدیث بیستم نے جن احادیث کو اپنے معیار پر نہیں پایا، ان کا انکار کر دیا یا ان کو موضوع فرما دیا، لیکن چند احادیث سمجھ میں نہ آئیں تو پورے ذخیرہ اور فن کا انکار بالکل سمجھ میں نہیں آتا، عقل کو اس پر حیرت ہوتی ہے۔

اسی طرح کچھ بزرگ چند رسمیں اور چند نعرے لگا کر آنحضرت ﷺ سے محبت اور اسلام کی خدمت کا دعویٰ فرماتے ہیں۔ ان رسوں کو اسلام اور ایمان کی بنیاد سمجھنا اور ان سے انکار یا ان پر انکار کو اسلام کی مخالفت اور آنحضرت ﷺ سے محبت کے منافی سمجھنا عجیب بات ہے، حالانکہ قرون خیر اور ائمہ اسلام فقہائے محدثین کے آثار میں ان رسوم کا ذکر تک نہیں۔ اگر کہیں تھوڑا بہت پتا چلتا ہے تو ان بزرگوں نے ان رسوم کو نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اسلام ایسے فقہال مذہب کا انحصار چند رسوں اور نعروں پر ہو، ضمیر اس سے اباہ کرتا ہے۔ اسی طرح مروجہ تقلید اور جمود کا آغاز تو غالباً طبعی تاثر ہے، جو ایک شاگرد استاد سے اور تلمیذ شیخ سے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ طبعی اور قدرتی ہے، اس کے جواز یا عدم جواز کی بحث بے فائدہ ہے۔ یہ تاثر ناگزیر ہے اور یہ تاثر ہمیشہ بانداز تحقیق اور بحث و نظر کی راہ سے ہوتا ہے، اس میں جمود نہیں ہوتا۔ دوسرے ائمہ اجتہاد سے حق کی نفی یا نفرت کے آثار اس میں نہیں پائے جاتے، بلکہ ایک تحقیقی تاثر اور فکر و نظر کی راہوں میں کسی قدر ہم آہنگی اور ہمواری ہوتی ہے۔ ان فقہی فروع میں نہ حق کسی ایک

میں محصور ہوتا ہے نہ دوسرے اہل تحقیق سے نفرت اور بغض ہوتا ہے، اور خود ائمہ برہمن نے اپنے متعلق کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ حق صرف ہمارے دامن سے وابستہ ہے، اور نہ یہ تاثر ہی دیا ہے کہ ہماری باتوں کو بلا دلیل محض خوش فہمی اور عقیدت کی بنا پر قبول کیا جائے۔ انبیاء علیہم السلام فکر و نظر کی دعوت دیتے تھے، ان کے اتباع تقلید اور جمود کی دعوت کیسے دے سکتے تھے؟

میری رائے میں یہ تینوں مقام اس قدر ظاہر اور واضح ہیں کہ ان پر کسی طویل بحث کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کے باوجود دنیا میں ایسے حضرات موجود ہیں جو انکار حدیث کو بطور تحریک چلانا چاہتے ہیں، ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا قول و فعل، سکوت، اجتہاد دین میں حجت نہیں۔ آنحضرت ﷺ کسی آیت کی تفسیر فرمائیں، ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے خلاف تفسیر کریں اور صرف اپنی تفسیر کو صحیح سمجھیں، لیکن اس شاعت کے لیے عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ قرآن مکمل ہے اور اسناد کی وجہ سے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ یہی حال قریباً بعض دوسرے بزرگوں کا ہے۔ وہ بدی رسوم اور شرکانہ عادات کو آنحضرت ﷺ کی محبت اور بزرگوں کے ساتھ ربط و عقیدت کا نام دیتے ہیں اور ائمہ سے علمی استفادے کا نام تقلید رکھ دیا گیا ہے۔ وینہما معا مواوز تقطع فیہا أعناق الإبل.

گزشتہ ایام کسی ضرورت یا کسی تاثر کے ماتحت میں نے چند مضامین "الاعتصام" میں لکھے، جو بعض حلقوں میں بہت پسند کیے گئے۔ بعض حلقوں میں کافی ناراضی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا۔ کسی چیز کے موثر ہونے کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مختلف حلقے پیدا کر لے اور نقد و نظر کا تختہ مشق بنے۔ مضمون جب چھپ رہا تھا، بعض محترم اور عزیز دوستوں نے اس کے بعض حصوں پر دوستانہ اور محققانہ تنقید فرمائی۔ جزاہم اللہ أحسن الجزاء.

بعض احباب کا خیال تھا کہ اہلحدیث حفاظ حدیث کا دوسرا نام ہے، یہ مکتب فکر نہیں۔ اس کے متعلق کچھ مختصر اشارات زیر طبع مضامین میں آگئے ہیں، اس موضوع پر ایک مبسوط مضمون لکھنے کا خیال ہے۔ أرجو من اللہ التوفیق۔

مولانا محمد حنیف یزدانی کی نظر سے غالباً یہ مضامین گزرے، انہوں نے ان کی طباعت کا ارادہ فرمایا ہے، میں نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال خیر کی توفیق مرحمت فرمائے۔

ناظرین سے گزارش ہے اگر وہ ان پریشان خیالات کو پسند فرمائیں تو حضرت الاستاذ المحترم الحدیث الکبیر حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ان کی مبارک تربیت ہی دراصل توحید و سنت کے ساتھ محبت اور مسلک سلف کے ساتھ تعلق کی حقیقی محرک ہے۔

اللهم اغفر له وارحمه واجعله جنة الفردوس ماواه، واجعله من ورثة جنة النعيم.

محمد اسماعیل

مدرس و خطیب

جامع الملک الحدیث۔ چاہ شاہاں۔ گوجرانوالہ

۲۶ مارچ ۱۹۶۶ء، ۳ ذیقعدہ ۱۴۸۵ھ

تحریک اہلحدیث کا مدّ و جزر

اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کے اثرات

علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی مختلف ذہن تھے۔ بعض الفاظ کے ظاہری مفہوم پر اعتماد کرتے تھے، بعض کی توجہ اسباب و علل کی طرف ہوتی تھی، وہ الفاظ کو صرف ذریعہ سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ اس عالم کون و فساد میں دین اور دنیا دونوں کو حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ کچھ ترک دنیا اور زہد و ورع کو حاصل مقصد خیال کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اپنی اپنی جگہ یہ سب چیزیں درست ہیں، اور اس کا رخاۂ حیات و موت میں نہ الفاظ سے گریز ممکن ہے نہ اسباب و علل کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر دنیا اور اس کی ضروریات سے بالکلیہ دامن کشی نہ شریعت کا مقصد ہے اور نہ دنیا پرستی اور اس کی طلب میں جنون کی حد تک بھاگ دوڑ صحیح راہ عمل ہے۔ غلو کسی میں آئے، اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسلام اور آنحضرت ﷺ۔ فداہ روحی۔ نے اس میں اعتدال کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔

”قال ابن کریون: وكان اليهود في دينهم يومئذ ثلاث فرق: فرقة الفقهاء وأهل القياس، ويسمونهم الفروثيم، وهم البرانيون، وفرقة الظاهرية المتعلقة بظواهر الألفاظ من كتابهم، ويسمونهم الصدوقية، وهم القراؤون، وفرقة العباد المنقطعین للعبادة“

والتسبیح والزهاد فیما سوی ذلك، ویسمونهم الحسیدیم“
 ”یہود میں اس وقت تین گروہ تھے۔ فقہا تھے، جن کو وہ فروشیم کہتے تھے،
 ربائین بھی انہی کا نام ہے۔ بعض ظاہری تھے جو کتاب کے الفاظ کو مانتے
 تھے، ان کا نام صدوقیہ تھا اور انہیں قرا بھی کہا جاتا تھا۔ ایک گروہ فقرا اور
 زاہدوں کا تھا، انہیں تسبیح و تہلیل کے سوا کسی چیز سے رغبت نہ تھی، ان کو
 حیدیم کہا جاتا تھا۔“

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”للتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل“
 ”تم پہلے لوگوں کے قدم بہ قدم چلو گے۔“

مختلف ذہن:

آج اسلام میں بھی تینوں قسم کے آدمی موجود ہیں۔ بعض شریعت پر غائر نظر رکھتے
 ہیں اور دین کے مصالح ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ کچھ ظاہر بین ہیں، جن کی نظر
 بالکل سطحی ہے، اور زاہدوں کا گروہ تو پورے ملک کے ذہن پر چھا رہا ہے۔ خانقاہی نظام
 ابتدا میں کسی قدر اچھا تھا، اس کی تفصیلات معلوم ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اکثر بدعات
 انہیں کے قدموں سے اٹتی ہیں اور بدی قوتوں کا مرکز یہی لوگ ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد صحابہ میں فقہا بھی موجود تھے، اہل ظاہر بھی،
 زاہد اور اتقیا بھی پائے جاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد امت میں مختلف طبقات
 رہے اور یہ قسمیں اہل فکر میں موجود رہیں، لیکن اس میں کبھی بے اعتدالی ہو جاتی۔ جمود

① تاریخ ابن خلدون (۲/۱۲۲)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۸۸۹) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۹۶۹) ولفظہ:

”للتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشری و ذراعا بذراع...“ نیز ایک روایت میں ہے:

”لنسلکن سنن من قبلکم حذو النعل بالنعل...“ (المستدرک: ۱/۲۱۹)

تو اسلام کی اُفتادِ فطرت کے خلاف تھا، لیکن یہ جمودیتوں تحریکات میں آیا۔ کبھی ظاہر پرستی اس طرح اذہان پر چھا گئی کہ الفاظ کی پرستش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے مقاصد اور مصالح کو نظر انداز کر کے محض الفاظ پر سارا زور صرف کر دیا۔ کبھی آرائے رجال اور قیاساتِ علما نے ذہن کو اس قدر متاثر کیا کہ شخصی آراء و افکار نے تقلید اور جمود کی صورت اختیار کر لی۔ ائمہ اور علما کی تقلید کو واجب اور فرض کیا جانے لگا۔¹ مقتدر علما کی جزوی مخالفت اس قدر جرم سمجھی جانے لگی گویا وہ پیغمبر کی مخالفت ہے۔ یہ دونوں غلو کی راہیں تھیں۔

یہی مرض زہاد و اتقیا میں نمودار ہوا، وہاں بھی پیغمبر کو مظہر بنا یا یا پیغمبر کا نعم البدل سمجھا جانے لگا۔ بزرگوں کے عادات و رسوم اور اورو و خائف کو وحی کا مقام دیا گیا۔ فقر و حال کو شریعت اور وحی کا رقیب ظاہر کیا گیا۔ شرعی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے میں ان حضرات کو کوئی تامل نہ تھا۔ یہ بھی ایک جمود ہے، جو اسلام کے مزاج اور طبیعت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام ایک متحرک دین ہے، اس میں کتاب و سنت کو اساس قرار دے کر ہر دور میں فکری آزادی کی نہ صرف حمایت فرمائی گئی ہے، بلکہ حرمتِ فکر کے لیے ممکن طور پر راہیں ہموار کر دی گئی ہیں اور جمود اور تقلید کو روکنے کی ہر کوشش عمل میں لائی گئی۔

جمود شکن تحریکات:

اسلام کی اشاعت کے مختلف ادوار میں اس کے اثر و رسوخ اور مختلف اذہان کی ائمہ اربعہ اور باقی ائمہ سنت اور ان کے علوم کے ساتھ تعلق کی جو آج جلد صورت پیدا ہو چکی ہے، معلوم ہے ابتدا میں نہیں تھی، نہ ائمہ اسے پسند فرماتے اور نہ ان کے تلامذہ۔ ہارون نے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے موطا کی آئینی حیثیت کا جب ذکر کیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے سختی سے اس کا انکار کیا۔ (الذبیح، ص: ۲۰۰)

ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید سے روکا۔ حجۃ اللہ اور کتاب العلم لابن عبدالبر وغیرہ میں ان کے ارشادات بھراحت موجود ہیں۔ تعجب ہے کہ اکابرِ دیوبند آج بڑی جرأت سے اسی جمود اور تقلید کی دعوت دیتے ہیں اور اسے واجب تک کہنے سے گریز نہیں فرماتے، حالانکہ یہ صاحبِ شریعت کا وظیفہ ہے۔ معلوم ہے کہ تقلید اور اس جمود کا دور چار سو سال بعد ہوا۔ (مؤلف)

عقیدت مند یوں اور مختلف قسم کے امیال و عواطف کی نیرنگیوں نے مد و جزر کی صورت اختیار کی۔ کبھی ظاہر پسندی اور الفاظ کے تقاضوں نے اتنا زور پکڑا کہ قیاس صحیح اور مصالح کو شکست دے دی گئی۔ کبھی آراء و مقامیس کی محبت نے ایسا جمود پیدا کیا کہ آرائے رجال کے سامنے نصوص مجہور اور متروک قرار پا گئے۔ فرضی مسائل کا نام شریعت رکھ دیا گیا۔

اس مد و جزر کا نتیجہ حافظ ابن حزم کی ظاہریت ہے اور اسی کا نتیجہ فقہاء کی کتاب الحیل ہے، جس نے عبادات سے لے کر معاشیات تک دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے فواحش دین کے لبادے میں عبادت اور تقویٰ تصور ہونے لگے۔ نماز، زکات، حج، حیل کی وبا سے محفوظ نہ رہ سکے۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ظاہریت کا تعلق فن حدیث سے ہے۔ ابن حزم وغیرہ پر ظاہریت اسی لیے غالب رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہی حیل اور ظاہریت دونوں ایک ہی ذہن کی پیداوار ہیں۔ ابن حزم اور ان کے رفقاء نے حدیث کے الفاظ کے ظاہر سے ٹھوکر کھائی اور ارباب حیل نے فقہی قواعد کے ظواہر سے دھوکا کھایا۔ شارع کے مقاصد اور مصالح دونوں جگہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ دونوں جگہ الفاظ کی ظاہریت نے معاملہ نہیں اور ذکا کی نگاہوں کو چکا چوند کر دیا۔

قیاس سے اگر نظائر کا صحیح جائزہ نہ لیا جاسکے اور شریعت کے مقاصد کا صحیح طور پر لحاظ نہ رکھا جاسکے تو صرف قیاس کے اعتراف یا اسے اصول وادلہ مان لینے سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اکابر کے ارشادات اگر محض اکابر کی برتری کی وجہ سے قائل احترام ہوں تو یہ بھی ظاہر پرستی کی ایک قسم ہے اور جمود کا ایک نامناسب مظاہرہ!

تاریخ مذاہب پر ایک نظر:

حجاز، بخارا، مصر اور مغرب میں حدیث کا دور دورہ تھا۔ لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حفظ و ضبط کی مجلسیں گرم تھیں۔ مدارس میں ”حدیثنا“ اور ”اخیرنا“ کے

غلطی بلند تھے۔ یکا یک حجاز اور مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ و ذکا کا اثر بڑھا۔ سوڈان سے اندلس تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک فقہ کا اقتدار قائم ہوا۔ کوفہ سے ایران اور پھر اقصائے ہند میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی ضیاء باریوں نے اپنا اثر ظاہر کیا۔ نجد اور اس کے حوالی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اپنا رنگ لائیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض ائمہ اجتہاد نے بعض علاقوں پر اپنا اثر ڈالا، جیسے امام اوزاعی، ابن جریر طبری، حافظ ابن خزیمہ، داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بزرگوں کے فہم اور طریق فکر کو بھی حدیث فہمی میں ضروری قرار دیا گیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ ان حضرات کے افکار کا تتبع ذہن کو لغزش سے بچا سکے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فکر مندی خود ایک لغزش بن گئی اور سبک میل سبک راہ ہو گیا!

ائمہ حدیث اور فقہاء کے مباحث، احناف اور شوافع کے مناقشات، اسلام کی خدمت کے بجائے بعض مقامات پر اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ قرآن و سنت کے نصوص باہم تقسیم ہو گئے۔

تحریکات اصلاح:

اپنی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا، ہر دور کے اہل علم اس مرض کے علاج میں مصروف رہے۔ آوارگی سے بچتے تو جمود آ جاتا۔ جمود سے بچنے کی کوشش کرتے تو آوارگی کے خارستان میں دامن اُلجھ جاتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ:

پیش نظر گزارشات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی اور ان کے نتائج فکر کا تذکرہ اس نگاہ سے ہے کہ مغل دور کے اواخر میں جب جمود کی گھنائیں ہند کے افق پر چھائی ہوئی تھیں، اورنگ زیب عالمگیر جیسا نیک دل بادشاہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کر سکا کہ اس نے فتاویٰ ہندیہ کی صورت میں علما کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقا اور ان کے متوسلین نے اس اندھیرے میں ایک روشنی کے مینار کی طرف توجہ دلائی اور وہ فقہائے محدثین کا طریق تھا۔ شاہ صاحب ہندوستان کی حقیقت اور ابن حزم کی ظاہریت کو فقہائے محدثین کے دامن میں پناہ دینا چاہتے تھے۔ ہندوستان کے اہل توحید، حنفی یا اہل حدیث، کو شاہ ولی اللہ سے کوئی صحیح نسبت ہے تو حقیقتِ خالصہ اور ظاہریتِ محضہ سے بچ کر انھیں فقہائے محدثین کا طریق اختیار کرنا چاہیے، اس دور میں اسلام کی یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباعِ حق، عمل اور اعتقاد میں اعتدال کی توفیق دے۔

آئندہ اوراق میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف اذہان کے غلو میں صالح تحریکات نے کیا کردار نمایاں ادا کیا؟ تحریکاتِ سلفیہ نے مختلف ادوار میں کیا اصلاحات فرمائیں؟ فقہائے اسلام نے کیا خدمات انجام دیں؟ صوفیہ نے کیا کیا اور ان تینوں اذہان پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششوں نے کیا اثر ڈالا؟

الہدایت:

شروع شروع میں لفظ ”الہدایت“ کا مقصد یہ تھا کہ اجتہادی امور میں تقلید اور جمود کو دین میں پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے اور فقہی فرورج میں جمود اور فرقہ پروری کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ اصل نظر کتاب اللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مرکوز ہے۔ کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلے یا وقتی حادثے کے متعلق صراحت موجود نہ ہو تو اس کا فیصلہ محض کسی شخصی رائے کے مطابق نہ ہو، یا کسی علاقے کے علما اپنے مخصوص افکار امت پر نہ ٹھونس دیں، بلکہ اصل ^{مطہ} نظر صحابہ اور اسلاف کرام کی وسعتِ نظر ہو۔ جمود اور شخصیت پروری سے امت میں ضیق نہ پیدا کیا جائے۔

جب نصوص نہ ہوں، کتاب و سنت میں احکام صراحتاً نہ ملیں تو رائے یا اجتہاد کے

سوا چارہ نہیں۔ صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا، ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی بوقتِ ضرورت اجتہاد فرمایا۔ وقت کے ضروری مسائل کو اجتہاد ہی سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اجمہدیت اور فقہائے مذاہب سب ہی نے اجتہاد کیا اور قیاس، شرعی یا میزانی، وقت کے مسائل میں مخلصی کی راہ پیدا فرمائی۔

حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہری کا قیاس سے بالکل صرفہ نظر کا نظریہ ائمہ حدیث میں مقبول نہ ہو سکا، اور فقہائے عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ اس لیے ائمہ حدیث اور فقہائے عراق میں قیاس سے استفادہ یا نظائر میں احکام کی وحدت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بوقتِ ضرورت قیاس کو سب سمجھتے ہیں، بلکہ ضروری! شاہ صاحب بریلوی نے ان دو مختلف اور غیر معتدل نظریات اور ان کے نتائج کے حسن و قبح سے متاثر ہو کر اپنے تلامذہ اور متوسلین کو یہ وصیت فرمائی:

”وصیت اول ایس فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوستہ بندیر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ و رتے از ہر دو شنیدن و در عقاید مذہب قدماء اہل سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش نکردند اعراض نمودن و ہشکریکات معقولیان خام التفات نکردن و در فروع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دہما تفریحات فہمیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در حقیر قبول آوردن والا کالائی بد بریش خاندان دادن، است رانیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن متقصہ فقہاء کہ تقلید عالمی را دست آویز ساختہ تتبع سنت را ترک کردہ اند شنیدن و بدیشاں التفات نکردن و قربت خدا جستن بدوری ایشان“ (فہمسات: ۲/۲۴۰)

”فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرے اور ان دونوں کو اپنا مشغلہ قرار دے۔ ہر دو سے کچھ حصہ

روزانہ پڑھے اور اگر پڑھ نہ سکے تو چند اوراق کا ترجمہ سے۔ عقائد میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے۔ ائمہ سلف کی طرح موشگافیوں سے بچے اور خام کار معقولیوں کی شک آفرینیوں سے بچے۔ فرعی مسائل میں ان محدثین کا اتباع کرے جو حدیث اور فقہ دونوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ فقہی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہو اسے قبول کرے، ورنہ بالکلیہ نظر انداز کر دے۔ اُمت کو اپنے اجتہادات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استغنا حاصل نہیں ہوا۔ ضدی قسم کے فقیہ حضرات کی، جنہوں نے بعض اہل علم کی تقلید کو دین کا سہارا بنا رکھا ہے اور کتاب و سنت سے اعراض ان کا شیوہ ہے، بات تک نہ سننا اور ان کی طرف نگاہ مت اٹھانا اور ان سے دور رہنے ہی میں خدا کا قرب تلاش کرنا۔“

شاہ صاحب کے دانشمندانہ اور جرأت آمیز اعلان سے تعجب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی، وہ فقہی جمود کا دور تھا، اس وقت کا بہت بڑا متدین اور روشن خیال بادشاہ، اسلام کی جو سب سے بڑی خدمت کر سکا، وہ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف تھی، جسے فتاویٰ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ عالمگیری نے اسلامی قانون کی بہتر تعبیر کے لیے وقت کے بہترین علما کو جمع کیا، ان مقدس بزرگوں نے اپنے وسیع علمی معلومات کی روشنی میں فقہ حنفی کی یہ بہترین خدمت انجام دی۔

اس کتاب کی خوبی صرف اسی قدر ہے کہ فقہاء عظام کے اقوال سے اوفیق بالمصالح اقوال کو لے لیا گیا اور مختلف فیہ کو اسی طرح درج کر دیا گیا، تاکہ جس پر مناسب ہو، عمل کر لیا جائے۔ گویا اس دیرینہ جمود میں ایک محدود مقام تک حرکت کی کوشش کی گئی۔ قرآن اور سنت یا دوسرے ائمہ کے مذاہب کے لحاظ سے شرعی مصالح کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ماحول میں پڑھا اور غالباً والد صاحب کی زندگی میں مسند درس کی زینت بنے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے دروس اور طریقِ افتاء سے طالب علم اور اس وقت کے عوام مطمئن تھے، لیکن خود شاہ صاحب مطمئن نہ تھے۔ جس چشمے سے عام دنیا سیرابی حاصل کر رہی ہے، وہ چشمہ خود اپنی سوتوں میں نقلگی اور خشک سالی محسوس کر رہا تھا۔ جامد اور تقلید مزاج طبائع اپنی رسائی اور فہم کے لحاظ سے سمجھ رہے تھے فقہ حنفی اور اس کے مصالِح کی ترجمانی کا حق صحیح طور پر ادا ہو رہا ہے، لیکن علم و تفقہ اور حکمت و مصالِح کا یہ ترجمان دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ جب مذاہبِ مجتہدین اسلام کی ترجمانی ہے اور ائمہ فقہ کا ماخذ قرآن اور سنت ہے تو بعض تعبیرات کو کلیتاً کیوں ترک کیا جائے اور بعض پر قناعت کیوں کی جائے؟

اگر کسی موسم اور کسی ملک میں ایک تعبیرِ اسلامی مصالِح اور دینی مقاصد کے چوکھٹے میں پوری سازگار آسکے تو بالکل ممکن ہے کہ دوسری تعبیر دوسرے ماحول میں اس سے بھی زیادہ سازگار آئے۔ نبوت جب ختم ہو چکی ہے تو صرف ترجمانی اور تعبیر کو کیوں نبوت کی طرح واجب اور دوائی حیثیت دی جائے؟ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ دین کے خادم ہیں اور اسلام کے ترجمان۔ دین ان کا دستِ نگر اور خادم نہیں کہ ان کے ارشادات اور احکام کے لیے ہر وقت چشمِ براہ رہے۔

فقہاء کی عرصے سے یہ حالت تھی کہ وہ اس امی اور فقہی تقلید کو واجب اور فرض سمجھتے تھے، اس کی مزعومہ حیثیت کی بنا پر اِکْفار و تکفیر اور ایک دوسرے کی اقتداء سے حتیٰ طور پر روکا جاتا تھا۔ یہ سوتلی ماں کا معاملہ ایک دانشمند کے لیے موجبِ حیرت تھا۔ شافعی حنفی ہو تو سزا پائے اور حنفی شافعی ہو تو خلعت ملے، یہ کیسی حق پروری ہے؟

یہ عجیب دتیرہ تھا کہ علما کے اقوال و ارشادات اور نصوصِ کتاب و سنت میں جب اختلاف اور تعارض ہو تو تاویل اور توڑ پھوڑ نصوص کا حصہ تھا اور اپنی جگہ پر قائم رہنا ائمہ کی تہنیت کا حق تھا، اور پھر دعویٰ یہ تھا کہ اصل مطاعِ نبوت ہے اجتہاد نہیں!

یہ دو عملی اور تضاد حضرت شاہ صاحب جیسے دور اندیش، معاملہ فہم فقیہ کے لیے کیسے اطمینان کا موجب ہو سکتا تھا؟

اس لیے ظاہر ہے کہ جمود پیشہ اور قاصر النظر دنیا کی سیرابی اور اطمینان کے اسباب و دواعی ایک بالغ النظر اور تجریدی ذہن کے لیے کبھی اطمینان کا موجب نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشنگی فطری اور قدرتی تھی۔

پھر جمود اور استعداد اجتهاد کا فقدان فقہائے احناف سے مخصوص نہ تھا، بلکہ تقلید کے مزاج کا تقاضا تھا کہ وسعت نظر اور دقت سے ممکن طور پر اجتناب کیا جائے۔ دلائل کی چھان پھانک کے مشغلے سے بچ کر رجال اور ان کے اقوال کے سہارے پر زندہ رہنے کی کوشش کی جائے۔

جس طبیعت کا نمیر تجرید اور اجتهاد سے اٹھایا گیا ہو، جہاں حکم اور مصالح ذوق میں سمو دیے گئے ہوں، جس شخص نے اسرار شریعت اور دین کی حکمتوں میں رازی اور غزالی سے سبقت حاصل فرمائی ہو، ابن حزم اور عز بن عبدالسلام جیسے قول ائمہ پر تنقیدی تبصرے کیے ہوں، وہ توضیح اور کشف الاسرار پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟ اصولی فقہ اور فقہ کے متعارض اور متضاد اصول اور جزئیات اسے کیسے مطمئن کر سکتے تھے؟

ظاہر پرستی کا مرض:

حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کی ان بھول بھلیوں سے تنگ آ کر اس کی حجیت سے انکار کر دیا اور اسی تلاش میں نکلے کہ صرف کتاب و سنت پر کفایت کریں۔ یہ راستہ اس لحاظ سے بے خطر تھا کہ اس میں اپنی ذمے داریاں کم ہو جاتی ہیں۔ تاویلات اور قیاسات کی دوڑ دھوپ سے تھکنے یا ہار جانے کی نوبت نہیں آتی۔ جب دین میں عدا نقل پر ہے تو نقل پر انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر عقل بالفرض قاصر ہے تو حرج نہیں، اصل تو نقل ہی ہے۔ جب قرآن اور سنت میں ایک حکم مل گیا تو اب

عقل اور نظائر کی تلاش چنداں ضروری نہ تھی، نہ عقل کی موافقت کی شرط ہی، اس لیے اپنی طرف سے نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ اس فطرے کو خریدنے میں کوئی فائدہ ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ نصوص کا ذخیرہ محدود ہے۔ سنن ثابتہ چند ہزار کے پس و پیش ہوں گی اور قرآن عزیز کی ایک سو چودہ سورتوں میں آیات احکام کی تعداد معمولی ہے، لیکن حوادث کا سلسلہ غیر محدود ہے۔ جب تک دنیا فنا کی حدود تک نہ پہنچ جائے، واقعات اور حوادث ہوتے رہیں گے، ان غیر محدود واقعات کے متعلق ان محدود نصوص میں صریح احکام کیسے مل سکتے تھے؟ اس لیے ظاہریت کی راہ بالآخر تکلفات کی راہ بن گئی اور عملی زندگی میں زیادہ دور تک نہ جاسکی، اور ملتے جلتے نظائر سے حکم میں فرق اور تفاوت معقول اور پسندیدہ راہ نہ شمار کی جاسکی، اس لیے اگر ظاہری مکتب فکر ایک لحاظ سے بے خطر تھا تو دوسرے نقطہ نظر سے بے کار، بلکہ بسا اوقات مضحکہ خیز بھی ہو گیا۔

قیاس اور تفقہ کی راہ:

عملی زندگی میں آگے بڑھنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ نظائر اور ان کے احکام میں آہنگی پیدا کی جائے۔ شارع حکیم کے احکام کے وجہ اور اسباب پر غور کیا جائے۔ ان مصالِح کا بغور مطالعہ کیا جائے جن کی بنا پر شارع حکیم نے یہ احکام نافذ فرمائے۔ قرآن عزیز نے جب قدم قدم پر عقل و فہم کو مخاطب فرمایا ہے، توحید و نبوت اور معاد کے دلائل کے تذکرے میں عقل، لب اور نعل کے استعمال کی تلقین کی گئی ہے تو اسے معطل کیوں چھوڑا جائے؟

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿۲﴾﴾ [الزمر: ۱۷، ۱۸]

”وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں جو کھنگلون کر اس کے حسن و قبح میں تمیز کرتے ہیں، اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ سے ہدایت کے

مستحق ہیں اور یہی عقلمند کہلانے کے حق دار۔“

اس میں عقلمند اور معاملہ فہم لوگوں کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ ملتے جلتے مسائل میں توازن قیاس صحیح کا نتیجہ اور عقل کا واجب تقاضا ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ۱۷]

”اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس کے ساتھ میزان کو بھی اتارا۔“

جس میزان کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اتری ہے، یہ ترازو وہ نہیں جو مادی اور جسمانی چیزوں میں توازن کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے مراد وہی میزان ہے جو کتاب کے فہم اور اولہ شرعیہ میں جس سے بصیرت ہوتی ہے، جس سے مختلف نظائر کے حکم میں توازن ہوتا ہے، اس کا تقبی اور اصطلاحی نام قیاس سمجھ لینا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ میزان ہے۔

اس لیے نہ قیاس کی ضرورت سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ اپنے مقام پر اس کی حجیت اور افادیت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ حدیث ظواہر حدیث کے ساتھ پوری عقیدت، الفاظ اور ان کے لغوی معانی کے ساتھ پورے اعتناء کے باوجود قیاس کو شرعی حجت سمجھتے ہیں اور ان قیاسی اولہ سے پوری طرح استفادے کے قائل ہیں۔ ان اصول کے احتوا اور ممکن عموم اور ہمہ گیری کے معترف ہیں، لیکن نصوص شرعیہ کو ان اصول پر قربان نہیں کرتے۔ جس کی بعض مثالیں ان گزارشات میں مذکور ہو رہی ہیں۔ عام فقہاء اور خصوصاً فقہائے حنفیہ سے اس معاملے میں کچھ مسامحت ہوئی ہیں۔ رحمہم اللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل بے چینی یہی ہے۔ بعض جگہ اصول نصوص سے ٹکرائے ہیں اور بعض جگہ اصول کی جامعیت اور اس کے طرد و عکس میں خلل واقع ہوا ہے۔ جہاں اصول کی جامعیت نے دل کی گہرائیوں میں جگہ لی اور نظائر کو اس پیمانے سے ناپنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے پیمانہ ریزہ ریزہ ہو گیا، نظائر کا حکم باہم ٹکرا گیا اور اصول پاش پاش ہو گیا۔

چند مثالیں:

آگے بڑھنے سے پہلے اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی مثال:

❶ صحیح بخاری میں ہے:

”كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف“^❶

(عملة الفارسي: ٧٥٦/٢، فتح الباري: ١/٣٨٦ طبع ہند)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان قرآن سے وکیلہ کر نماز پڑھاتا تھا۔“

ابن سیرین، حسن بصری، حکم، عطاء، قرآن سے نماز میں قراءت جازر سمجھتے تھے۔^❷
حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پیچھے سامع کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، وہ انھیں لقمہ دیتے۔^❸ امام مالک
تراویح میں اسے جازر سمجھتے ہیں۔^❹

حافظ عینی فرماتے ہیں:

”قلت: القراءة من مصحف في الصلاة مفصلة عند أبي حنيفة“

لأنه عمل كثير، وعند أبي يوسف و محمد يجوز لأن النظر

❶ صحیح البخاری، کتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة العبد والمولى (١/٢٤٥) امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذکورہ بالا اثر معلق ذکر کیا ہے، لیکن اسے امام عبدالرزاق (المصنف: ٢/٣٩٤) ابن ابی شیبہ (٢/١٢٣) بیہقی (٢/٢٥٣) امام ابن ابی داؤد (المصاحف، ص: ٧٦٦) اور حافظ ابن حجر (التغلیق: ٢/٢٩١) نے موصولاً بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”وهو أثر صحيح“ (تغلیق التعلیق: ٢/٢٩١)

❷ امام ابن سیرین، حسن بصری، حکم اور عطاء رحمہم سے یہ آثار صحیح و حسن اسانید کے ساتھ ثابت ہیں۔ دیکھیں: کتاب المصاحف لابن ابی شیبہ (٢/١٢٣)

❸ صحیح۔ مصنف ابن ابی شیبہ (٢/١٢٣)

❹ صحیح۔ کتاب المصاحف لابن ابی داؤد (ص: ٧٢١) امام مالک رحمہ اللہ تراویح میں بوقت ضرورت اسے جازر سمجھتے ہیں۔

في المصحف عبادة، لكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب“
(عمدة القاري: ٢ / ٧٥٧)

”نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہوگی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، جس سے خشوع اور نماز کی ہیئت بگڑ جاتی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں: قرآن میں دیکھنا عبادت ہے اس لیے نماز درست ہے، لیکن مکروہ ہوگی، کیونکہ اس میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔ وہ کتاب سے دیکھ کر ہی نماز پڑھتے ہیں۔“

”إمام قرأ في المصحف فصلاته فاسدة، قال أبو يوسف و محمدنا
تامة، ويكره“ (الجامع الصغير للإمام محمد، ص: ١٥ طبع مصر)

”حضرت امام صاحب کے نزدیک قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی۔ امام محمد اور ابو یوسف کے نزدیک مکمل ہوگی، لیکن مکروہ۔“

حضرت عائشہ اور اکابر ائمہ تابعین کے عمل کے باوجود دل مانتا ہے کہ مصحف میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ واقعی عمل کثیر ہے (عمل کثیر کی کچھ حد ہو!) اور اراق کی الٹ پلٹ اور صفحات کی طرف توجہ اور حفاظت سے واقعی نماز کی طرف صحیح اور مناسب توجہ نہیں رہے گی، اس لیے مناسب یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، یہ تکلف نہ کیا جائے اور حفظ سے پڑھا جائے۔

اہل کتاب سے تشابہ کی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ شرعاً درست ہے تو تشابہ کیا ہوا؟ اور جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اہل کتاب کا آپ سے تشابہ ہو جائے گا۔ تاہم دوسرے نمبر پر یہ وجہ بھی مان لی جائے تو اس سے دو اصل سمجھ میں آتے ہیں:

1 نماز میں عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔

2 غیر مسلم قوموں کے ساتھ تشبہ سے بچنا چاہیے۔

اب دوسرا نکتہ سنئے...!

”لو نظر المصلي إلى المصحف، وقرأ منه فدت صلاته، لا

إلى فرج امرأة بشهوة، كان الأول تعليم و تعلم فيها، لا الثاني“

(الأشباه والنظائر، ص: ٤٣٤، مطبوعه هند)

”اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھے تو نماز فاسد ہوگی، لیکن اگر عورت کی شرمگاہ جنسی جذبے کے ساتھ دیکھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی صورت درس و تدریس کی ہے۔ شرمگاہ دیکھنے سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا۔“

اب اس عقل پروری اور تفقہ نوازی کو کون سمجھے؟ جہاں قرآن دیکھنے سے خشوع ٹوٹے

اور عمل کثیر ہو اور شرمگاہ کی طرف جنسی جذبات کے ساتھ توجہ نماز پر کوئی اثر ہی نہ ڈالے!!

کچھ شک نہیں جب علما بحث و مناظرہ کے موڈ میں آجائیں تو بھیڑیا حلال کر سکتے ہیں، مرغی حرام فرما سکتے ہیں، مگر عقل سلیم اور میزان اعتدال تو موشگافیوں اور نکتہ نوازیوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے محدثین نے قیاس کی حجیت کے باوجود اس دو عملی سے بچنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا ہے۔

ہمارے حضرات احناف کی ایک قسم بریلی سے نمودار ہوئی ہے، ان کی عمر قریباً ساٹھ ستر سال کے پس و پیش ہوگی۔ یہ حضرات اسلام کے مدنی ڈھانچے کے حصہ عقائد میں بڑی اہم اور دور رس ترمیمات چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے مدنی عقائد بریلی، لاہور، لاکل پور کے تابع بنا لیے جائیں۔

ان حضرات کی نظر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لطفونات حصہ دوم کی (جو صراط مستقیم کے نام سے مشہور ہے) اس بات پر پڑی کہ گاؤں کے تصور سے نماز میں خشوع پر اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے خشوع زیادہ مجروح ہوتا ہے۔¹

عنوان یا تعبیر کچھ ہو، بات صحیح اور درست تھی کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے تصور سے طبیعت کے رجحان اور خشوع پر زیادہ اثر پڑے گا۔ گاؤں جیسی معمولی اور حقیر چیز کے تصور سے نماز اور خشوع پر وہ اثر نہیں پڑے گا۔ بات پتے کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت

1 صراط مستقیم (ص: ۱۱۸) ادارہ نشریات اسلام لاہور

اور والہانہ تعلق جب توحید کی سر مستیوں سے ٹکرائے تو اس سے پچنا بڑی دانشمندی ہے، نہ تو نبوت کی بلند یوں کو گاؤخر کی حقارتوں سے ہم آہنگ ہونے دیا جائے، نہ نماز کے معراج اور اس مکالمہ الہیہ کے ذوق میں کسی دوسرے محبوب کو اشتراک کا موقع ہی دیا جائے۔

مسئلہ درست تھا۔ اگر تعبیر ناپسند تھی تو اسے بدل دیا جاتا۔ مولانا عبدالحی بڑھانوی کا ترجمہ وحی نہیں تھا، لیکن یہاں کوئی پرانا بغض تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا۔ سید احمد کا ارشاد اور مولانا عبدالحی بڑھانوی کا ترجمہ دونوں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے نام لگا دیے گئے اور فتوؤں کی مشین تان دی گئی۔ کفر کے انہار بالا کوٹ کے میدان میں دریائے منہار کے کناروں پر انڈیل دیے گئے، جنہیں خون شہادت کے چند قطروں نے دریائے منہار کے سپرد کر دیا اور شہدا کی طہارت ان نخس اور غلیظ فتوؤں سے متاثر نہ ہو سکی۔

سراسیمگی اور شوریدہ سری کی کوئی حد ہے کہ سید شہید کے ملفوظات اور مولانا عبدالحی کا ترجمہ دونوں بچارے شاہ اسماعیل کے نام پر الٹ کر دیے گئے اور درس و افتا کی مسندیں شہید حق کے کیڑے نکالنے میں مشغول ہو گئیں، جو ان کے درجات کی رفعت کا موجب ہوں گے۔ ان شاء اللہ!

سید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی سرگوشیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی رفعت اور گاؤخر کی حقارت انگیزیوں میں اگر امتیاز فرما کر نماز کی روحانی کیفیتوں کو شرک کی غلاظتوں سے پاک و صاف رکھنے کی تلقین فرمائی تو وہ کافر ہوئے، اس لیے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، آپ کی فقہی موشگافیوں نے تحریم نماز میں مصحف کے تقدس کو شرمگاہ کی عربی اور انسانی کمزوریوں کے جنسی شہوت سے قرآن عزیز کو کھٹت دے دی، یعنی قرآن سے پڑھنا نماز کے لیے ناقص ٹھہرا اور شرمگاہ کی زیارت آپ کے خشوع میں کوئی خلل نہ پیدا کر سکی۔ إنا للہ... آپ کا ایمان سلامت رہا اور آپ بالکل تازے اہل سنت و جماعت ہو گئے اور شہدائے بالا کوٹ شہادت اور قربانی کے باوجود کافر ہی رہے۔

① جس کا مبلغ علم اسی قدر ہو، اسے خاموشی ہی زیبا ہے۔

من كان هذا القدر مبلغ علمه

فایستتر بالصمت والکتمان^۱

اگر فقہائے بریلی کا انداز فکر یہی رہا تو یہ قافلہ چند دن کا مہمان سمجھنا چاہیے۔ بریلی، بدایوں، مارہر، لاہور، لائل پور؛ کوئی مقام اور کوئی نسبت ایسے لوگوں کے لیے زندگی کی کفیل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں جہالت کا یہ دور اور علم فروشی کا یہ بازار ان شاء اللہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ آپ ہی سوچیں اس پون صدی کی کفر نوازی سے آخر اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ ملک کہاں تک سر بلند ہوا؟ دین اور سیاست میں آپ کو کونسا مقام ملا؟ آپ نے اہل توحید کو مشق ستم کے لیے انتخاب فرمایا اور وہ شرافت سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے مظالم کی مشق ان مساکین پر فرمائی۔ ہوا کیا؟

بمہ آہواں دشتی سر خود نہادہ برکف
بامید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد^۲

دوسری مثال:

۲ ظن کو فیصلوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، شریعت نے بیسیوں مقامات میں قرآن سے فیصلہ کیا کہ بچے کے الحاق میں اور لقیط کو وراثت کے ساتھ ملانے میں قیافے کو بہت بڑا دخل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسامہ بن زید کے متعلق قیافے اور اس کے ماہرین کی رائے پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔^۳ بعض فقہانے اس قرینے کا اس لیے انکار فرمایا کہ اس میں ظن اور تمہین پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپنی جگہ یقین کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یقین کے بالمقابل ظن کو کوئی وقعت حاصل نہیں۔ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (ابن مسعود: ۱۳۶)

لیکن بعض فقہانے ان قرآن کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ ظنی ہیں، لیکن جب ظن کے قبول کا رجحان ذہن میں آیا تو کمال کر دی۔ شکوک و ادہام کو یقین کا مقام دے دیا۔

ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۱ جنگل کے تمام برن اس امید پر کہ کسی دن شکار کا خواہشمند آئے گا، اپنا سر اھیلی پر رکھے پھرتے ہیں۔

۲ صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۵۵۵) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۴۵۹)

”قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقيافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد“¹

”آنحضرت ﷺ، صحابہ اور حضرت عمر رضي الله عنه نے قیافے کو اثباتِ نسب میں معتبر سمجھا، لیکن بعض فقہانے اس کا انکار کر دیا اور اقصیٰ مغرب میں ایک آدمی اس عورت سے نکاح کرے جو اقصیٰ مشرق میں ہے، چھ ماہ کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو یہ حضرات اس کے نسب کو صحیح سمجھتے ہیں!“

یہ قیاس کا عجیب کرشمہ ہے۔ مستند قرآن کا انکار کر دیا گیا اور اوہام و ظنون کی بنا پر نسبت ثابت کر دی اور بچہ ثابت ہنسب قرار پا گیا۔ یہ اوہام تو قابل اعتماد قرار پائے اور قیافے کی وجہ سے خبر واحد کے پورے ذخیرے پر عتاب فرمایا گیا کہ وہ ظنی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس غیر معتدل طریق فکر پر کیسے مطمئن ہوتے؟

تیسری مثال:

□ علمائے اصول نے ایک قاعدہ بیان فرمایا: ”الخاص لا یحتمل البیان“²

اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ خاص کا مفہوم چونکہ واضح اور یقین ہوتا ہے، اس لیے اسے بیرونی تشریح اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی قانون کی روشنی میں کئی مواقع میں شواہخ پر حجت قائم کی اور یہ ظاہر فرمایا کہ ہمارا موقف صحیح ہے اور شافعی غلطی پر ہیں، بلکہ اگر کہیں صحیح حدیث بھی اس قانون سے کھرا گئی تو حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا

① الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة لابن قیم (ص: ۱۴)

② حسامی (ص: ۱۰) نور الأنوار (ص: ۱۵) كشف الأسمار، التلویح علی

التوضیح (ص: ۳۴) [مؤلف]

اور اس قانون کی آبرورکھ لی گئی۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الحج: ۱۷۷]

”اے ایمان والو! رکوع اور سجود کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔“

فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ رکوع کے معنی جھکنا ہے، سجود کے معنی زمین پر سر رکھنا۔ اگر کوئی شخص ذرا جھک جائے یا زمین پر سر رکھ لے تو نماز ہو جائے گی، گو رکوع اور سجود میں اطمینان اور اعتدال حاصل نہ ہو۔ شوافع اطمینان اور اعتدال کو فرض سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جس طرح نماز میں رکوع اور سجود ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح شرعاً نماز میں طمانیت اور سکون بھی ضروری ہے۔ اگر ان ارکان میں اعتدال نہ ہو تو شوافع اور ائمہ حدیث کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔

احناف فرماتے ہیں: نماز ہو جائے گی، کیونکہ رکوع اور سجود کا لغوی معنی ثابت ہو گیا، اس لیے شوافع کا خیال غلط ہے۔ خاص کو کسی بیان اور خارجی تشریح کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ کے سامنے نماز پڑھی، اس نے رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کیا، آنحضرت ﷺ نے اسے تین دفعہ فرمایا:

”فصل فبانك لم تصل“ (تم نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی)

یعنی شرعاً تمہاری نماز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی حدیث کی بنا پر اہل حدیث اور شوافع وغیرہم کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر رکوع اور سجود میں اطمینان نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں: رکوع اور سجود کا معنی معلوم ہو جانے کے بعد ہم حدیث کی تشریح اور نماز کی نفی قبول نہیں کرتے۔

قرآن کی عظمت:

اسی اصل کی حمایت میں یہ عذر فرمایا گیا کہ اگر شوافع کے مسلک یا حدیث پر یقین کرتے ہوئے یہ مان لیا جائے کہ نماز میں اطمینان فرض ہے تو یہ قرآن پر زیادتی ہوگی،

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۷۲۴) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۹۷)

جو نسخ کے مترادف ہے۔ جب قرآن عزیز نے خاص الفاظ سے ایک حقیقت کا اظہار فرمادیا، اس پر زیادتی کسی طرح درست نہیں۔ ایسا کرنا یا سمجھنا قرآن عزیز کی عظمت اور اس کی رفعت شان کے منافی ہے۔

قرآن کی عظمت واقعی ضروری ہے، لیکن اس آڑ میں مقام نبوت کا تعطل ہو جائے، پیغمبر کو یہ بھی حق نہ رہے کہ وہ قرآن عزیز کے مفہوم کی تعین فرمائیں، کسی عمل کی شرعی ہیئت کا اظہار یا کوئی ایسا حکم جس سے قرآن عزیز نے سکوت فرمایا ہو، آنحضرت ﷺ بھی اسے بیان نہ فرمائیں، خود صاحبِ وحی بھی اپنی وحی کا مطلب بیان نہ فرمائیں، مجتہد اور فقیہ، عالم اور صوفی تو اپنے خیال سے اپنی استعداد کے مطابق قرآن کا مطلب بیان فرمائیں، مگر آنحضرت ﷺ کو روک دیا جائے کہ آپ قرآن کے متعلق کچھ نہیں فرما سکتے، یہ عجیب ہے!!

آخر یہ اصول بھی تو قرآن فہمی ہی کے لیے بنائے گئے اور ان کے بنانے میں بقول صاحبِ کشف الظنون (ص: ۸۹) زیادہ کوشش معتزلہ اور اہل حدیث نے کی۔ ان کا احترام تو اس قدر رکھا کہ حدیث بھی ان کے ہوتے ہوئے نظر انداز فرمادی گئی اور نصوصِ نبویہ کے لیے یہ گنجائش بھی نہ رکھی گئی کہ وہ قرآن عزیز کی وضاحت فرمائیں، حالانکہ قرآن عزیز یہ مقام آنحضرت ﷺ کے لیے ذمے داری کے طور پر متعین فرماتا ہے:

① ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[النحل: ۴۴]

”ہم نے ذکر تم پر اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح فرمائیں اور یہ لوگ اسی پر سوچیں۔“

② ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

[النحل: ۶۴]

”اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے اتاری کہ آپ ان کے باہم اختلافات کو واضح فرمائیں اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“

ان دونوں آیات میں تبیین اور اظہار آنحضرت ﷺ کی ذمہ داری قرار پایا ہے، جس سے آنحضرت ﷺ کسی طرح بھی صرف نظر نہیں فرما سکتے۔

③ سورت مائدہ میں اہل کتاب کو بھی آنحضرت ﷺ کے بیان کی طرف دعوت دی:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: ۶۷]

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے رسول اس لیے تشریف لائے کہ وہ تمہاری چھپائی ہوئی چیزوں کی وضاحت فرمائیں۔“

تعب ہے کہ جس بیان کے سامنے اہل کتاب کو بھی انقیاد کی دعوت دی جا رہی ہے، مسلمان ان سے محروم ہونے کی اس لیے کوشش فرماتے ہیں کہ ارباب اعتزال کے طے فرمودہ قوانین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ حدیث رہے یا نہ رہے، اصول اور ان کی پختگی میں کمی نہ آنے پائے!!

④ پھر یہ ذمہ داری تمام انبیاء علیہم السلام پر ڈالی گئی:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [ابراہیم: ۴]

”ہم نے ہر نبی کو اس کی مادری زبان میں اس لیے مخاطب فرمایا کہ وہ پوری وضاحت کر سکے، پھر ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔“

⑤ پھر پیغمبر کے اس بیان کو اپنا بیان قرار دیا، تاکہ خالق اور مخلوق کی مغایرت کا اثر

بیان پر مرتب نہ ہو۔ فرمایا:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَمِعْ قُرْآنَهُ ۖ شَهَدْنَا بِمَا نَبَيَانَا﴾ [القیامۃ: ۱۸، ۱۹]

”تم ہمارے ارشاد کے مطابق قرآن کو پڑھو، پھر اس کا بیان ہمارے ذمے ہے۔“

پیغمبر ﷺ خدا کے حکم کے مطابق احکام کی وضاحت فرمائیں، لیکن وہ بیان ہمارے خود ساختہ اصول کے ہم پلہ نہ ہو سکے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عجیب تھا۔ اس لیے ”حجة اللہ“، ”الخیر الکثیر“، ”تفہیمات“، ”مصنفی“، ”موسیٰ“، ”عقد الجید“، ”الانصاف“ وغیرہ میں اسے بار بار دہرایا اور مختلف طرق سے اس فقہی جمود کو توڑنے کی کوشش فرمائی اور احتجاج فرمایا کہ سنت کے ساتھ یہ بے انصافی اور ترجیحی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا ہی نامناسب ہے کہ غیر معصوم انسانوں کے بنائے ہوئے اصول تو دین کی اساس قرار پائیں اور سنت، جو فی الحقیقت وحی اور دین کی بنیاد ہے، وہ ان مصنوعی اصول کے سامنے یتیم اور لا وارث قرار پائے، اور سنت سے ایسا سلوک وہ لوگ کریں جو آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں!

حدیث کی صحت:

حدیث کی صحت یا ضعف کا مسئلہ اس وقت خارج از بحث ہے، اس لیے کہ ان اصول کی حکومت کے سامنے حدیث، صحیح ہو یا ضعیف، بے بس ہے۔ ویسے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ قیاس سے مقدم ہے اور اس کے لیے اصول فقہ کے دفا تر میں حدیث تہقیقہ^۱ کے انداز کی شاید ایک دو مثالیں بھی مل جائیں۔ دراصل حضرات فقہائے عراق، خصوصاً اتباع قاضی عیسیٰ بن ابان، سنت سے ویسے ہی کچھ ناراض

^۱ اس سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز میں تہقیقہ لگایا تو وہ وضو اور نماز کو دہرائے۔ اس معنی کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں:

سنن الدارقطنی (۵۹-۶۴) نصب الرایۃ (۱/ ۴۷) إرواء الغلیل (۲/ ۱۱۷)

ہیں۔ وہ رائے کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، سنت کے ابواب بند ہوتے ہیں تو ہولیں۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ جیسا بیدار مغز، معاملہ فہم، دور اندیش، تجدیدی ذہن رکھنے والا آدمی پورے ماحول کی اس نامناسب کیفیت پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اصول فقہ کے ان نظریات پر اپنی تصانیف میں جا بجا تنقید فرمائی اور یہی تنقید اس وقت ان ذہین لوگوں کے سامنے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جو اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں۔

اس تحریک کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ائمہ کی مسامحہ بے کار ہے یا ان کے علوم سے استفادہ ناجائز ہے یا ان کے علوم اور اجتہادات پر تنقید زندگی کا کوئی اہم اور ضروری مشغلہ ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے اجتہادات اور جملہ مسائل کی حیثیت ایک علمی تحقیق یا مقدس محنت کی ہے، ان کا مقام علوم نبوت کا مقام نہیں، جس طرح ان سے استفادہ اور ان کے سامنے انقیاد بشرط صحت درست ہے، اسی طرح کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر تنقید بھی درست ہے اور ان سے صرف نظر بھی کیا جاسکتا ہے۔

تحقیق کی راہیں جس طرح ان کے لیے کھلی ہیں، ان کے اتباع اور تلامذہ کو بھی اجازت ہے کہ علم و نظر کی راہنمائی میں کتاب و سنت کی نصوص پر غور کریں اور مصالح وقت کے لحاظ سے ان پر عمل کریں، گویا تحقیق ان کی تحقیق سے مختلف بھی ہو جائے۔ تحقیق و نظر کے لیے علوم اور فروع نیت کے بعد ضروری نہیں کہ مصطلح اجتہاد اور اس کے مفروضہ علوم بھی زیر نظر ہوں۔ یہ اصطلاح زمانہ نبوت میں اس مفہوم سے موجود نہ تھی، اور یہ علوم اجتہاد بھی زمانہ نبوت سے صدیوں بعد موجود ہوئے۔ ائمہ مجتہدین رحمہم نے بھی یہ تمام علوم نہ پڑھے، بلکہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اس مصنوعی جال سے ہر ایک کو شکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ علم کو علم ہی کی راہ سے منوایا جائے، اسے فتویٰ یا حکومت یا اکثریت کے دباؤ سے نہ منوایا جائے۔

چوتھی مثال:

۲] قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

﴿فَاتْلُوهُ ذَاتًا مَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ۲۰]

سورت مزمل میں رات کی نماز کا ذکر فرماتے ہوئے حکم فرمایا کہ تہجد میں قرآن کا جس قدر حصہ آسانی سے پڑھا جاسکے اسے ضرور پڑھو۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”ما تیسر“ سے مراد سورت فاتحہ ہے۔ جس طرح حدیث میں ”ما تیسر“ کا لفظ وارد ہوا ہے، اسی طرح اس حدیث کے دوسرے طرق میں ”ما تیسر“ کی وضاحت ”أم القرآن“ سے کی گئی ہے۔^۱ گویا جو تذکرہ قرآن عزیز میں ”ما تیسر“ کے لفظ سے ہوا تھا، اسی کا دوسرا نام یا اس کی وضاحت ”أم القرآن“ سے فرمائی گئی ہے، اس لیے آپ امام ہوں یا مقتدی یا منفرد، آپ کو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ (جزء القراءة للبيهقي، ص: ۴۰۳)

فقہائے حنفیہ رحمہم کا خیال ہے فاتحہ کا تعین درست نہیں، چونکہ ”القرآن“ کا لفظ خاص ہے، اسے مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرض صرف قرآن ہوگا اور احادیث کی وضاحت قابل قبول نہ ہوگی۔ لیکن یہ پابندی قائم نہ رہ سکی۔

﴿فَاتْلُوهُ ذَاتًا مَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ میں قراءت کی مقدار کا تعین بقدر ایک آیت یا تین آیت قیاس سے کیا گیا۔ پھر ﴿فَاتْلُوهُ ذَاتًا﴾ میں امام مقتدی منفرد سب شامل تھے، اسی سے مقتدی کو حدیث ”من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة“^۲ (دارقطنی) سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، حالانکہ یہ حدیث بھی باتفاق ائمہ ضعیف ہے، اس کا

① صحیح. سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۸۵۹) مسند أحمد (۴/۳۴۰) اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح اور علامہ الیابانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔

② ضعیف. سنن ابن ماجہ (۸۵۰) مسند أحمد (۳/۲۳۹) سنن الدارقطنی (۱/۲۲۳) امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: ”هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه“ (تحفة الأنام فی تخریج

کوئی طریق صحیح ثابت نہیں ہو سکا۔ اگر قراءت کے حکم سے مقتدی مستثنیٰ ہو سکتا ہے تو فاتحہ کا تعین بھی ہو سکتا تھا۔ اگر حدیث اپنے مسلک کی مؤید ہو تو اس سے قرآن کے مفہوم کی تعین ہو سکتی ہے، اگر وہ کسی دوسرے مسلک کے لیے مفید ہو تو اس سے قرآن عزیز کے احرام کو نقصان پہنچتا ہے! یہ طریق بحث و نظر درست نہیں۔

پانچویں مثال:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ۲۳۰]

یعنی تیسری طلاق کے بعد عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

آیت میں ﴿تَنْكِحَ﴾ کا فاعل ضمیر مؤنث ہے، جو عورت سے تعبیر ہے، گویا نکاح ثانی کی ذمہ داری بلحاظ فاعل عورت پر رکھی گئی ہے، جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے، تین طلاقات کے بعد وہ پہلے خاوند کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔

فقہائے حنفیہ جہنم نے اسے خالص سمجھ کر اس سے حصر کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالغہ عورت نکاح کے معاملے میں مختار ہے، اسے ولی کی ضرورت نہیں، بالغہ ہونے کی صورت میں وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ولی اسے پابند نہیں کر سکتا اور حدیث:

”أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ“

(ترمذی: ۱۷۵/۲)

← جزء القراءۃ، خلف الإمام للبخاری، ص: ۹۰ نیز اسی طرح دیگر ائمہ حدیث اور حفاظ کرام نے اس حدیث کو ضعیف و معلول قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: إرواء الغلیل (۲/ ۲۶۷) تحفة الأنام (ص: ۸۹)

① صحیح سنن أبي داود، رقم الحديث (۲۰۸۳) سنن الترمذی، رقم الحديث (۱۱۰۲) سنن ابن ماجہ، رقم الحديث (۱۸۷۹) اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور امام حاکم، ابن حبان اور علامہ البانی رحمہم نے صحیح کہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: التلخیص الحبیبر (۳/ ۵۶) إرواء الغلیل (۶/ ۲۴۲)

”جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل (تمن بار) ہے۔“
اس حدیث سے ولی کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے، مگر آیت کے مقابل یہ حدیث قابل قبول نہیں، آیت اس تشریح کی محتاج نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نکاح کے انعقاد میں چار شخصیتوں کو دخل ہے: ناکح، منکوحہ، ولی، گواہ۔ لیکن حصر کی کوئی دلیل نہیں۔ ان چاروں سے کوئی بھی دوسرے سے مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے فرائض کے لحاظ سے سب پر ذمے داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ”تنکح“ کی نسبت فاعلی کا اثر ولی پر پڑ سکتا ہے تو ناکح اور شاہدین پر بھی پڑنا چاہیے۔ عورت کو اس استدلال کے مطابق نکاح میں مختار مطلق ہونا چاہیے، نہ خاوند کی رضا کی ضرورت ہوگی نہ گواہ کی۔ حالانکہ قرآن عزیز میں نکاح کا فاعل کئی جگہ مردوں کو قرار دیا گیا:

① ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا﴾ [النساء: ۳]

”(اور) عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، دو دو سے اور تمن تمن سے اور چار چار سے۔“

② ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمَّا طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الاحزاب: ۴۹]

”جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں طلاق دے دو۔“

③ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ۲۲۱]

”اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔“

④ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

[المنحذہ: ۱۰]

”اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جب انہیں ان کے مہر دے دو۔“

⑤ ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۰]

”تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو۔“

ان تمام آیات میں نکاح کا فاضل مردوں کو قرار دیا گیا ہے۔ فاعلیت سے حصر پر استدلال کیا جائے تو قرآن میں تعارض ہوگا۔ کہیں عورت کو مختار مطلق بنایا گیا ہے، کہیں مرد کو۔ نکاح میں دو گواہ معاملے کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں اور حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ ﴿حَتَّىٰ تَذَكَّرَ زَوْجًا غَيْرًا﴾ کی تخصیص حدیث شہادت پر بھی اثر انداز ہونی چاہیے یا پھر ولی پر بھی اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔

پھر بالغہ کو تو اس آیت کی بنا پر مختار سمجھا گیا، لیکن نابالغہ کو اس قدر بے بس کر دیا گیا کہ اس میں باپ اور دادا کی ولایت کو جبری قرار دیا اور اس پجاری مسکینہ سے خیار بلوغ کا حق بھی چھین لیا گیا، حالانکہ آیت میں بالغہ اور نابالغہ کی نہ تخصیص ہے نہ شرط۔ ایک اصل کی حمایت نے قرآن و سنت دونوں سے تعلق ڈھیلا کر دیا۔ اگر آیت میں عورت کو خصوصیت سے نکاح کا اختیار دیا گیا ہے تو نابالغہ کے استثنا کے لیے کوئی آیت آئی ہے؟ بلاوجہ ترجیح کے لیے کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

صاحب فصول الحواشی بڑی منانت سے فرماتے ہیں:

”ونحن تركنا الخبر الواحد بمقابلة الخاص من الكتاب“ (ص: ۲۶)

”ہم نے قرآن حکیم کے خاص حکم بالمقابل خبر واحد (حدیث اشراط ولی)

کو چھوڑ دیا۔“

نابالغہ کے متعلق پھر اسی خبر واحد سے استفادہ فرمایا گیا اور مرد کے قبول کو بھی مان لیا گیا، حالانکہ آیت ”ننکح“ میں مرد کی قبولیت کا بھی ذکر نہیں۔ اسی طرح گواہوں کی ضرورت بھی مان لی گئی، حالانکہ آیت میں شہود کا بھی کوئی تذکرہ نہ تھا، اس آیت کا مقصد گویا فقط ولی کی ضرورت کو توڑنا تھا اور بس!

شاہ صاحب اس صورت حال پر کیسے مطمئن ہو سکتے تھے؟ جہاں اصول کا یہ حال ہو، وہاں فروع تو بہر حال اسی پر متفرع ہوں گی۔

① صحیح۔ سنن الدارقطنی (۲/۲۲۴) صحیح ابن حبان (۴۰۷۵)

چھٹی مثال:

۱۶ حرمت رضاع کے متعلق قرآن عزیز نے مطلقاً فرمایا:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ۲۳]

”تمہاری رضاعی مائیں بھی تم پر حرام ہیں۔“

احناف اور موالک فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر کسی کا دودھ پی لیا گیا ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ قرآن عزیز نے رضاع میں کوئی مقدار معین نہیں فرمائی، اس لیے حرمت کے لیے ایک گھونٹ پینا اور دو سال پینا برابر ہے۔ ائمہ حدیث اور شوافع کا خیال ہے کہ حدیث میں خمس رضعات موجود ہے۔ اگر اس سے کم دودھ پیا جائے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ امام احمد کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اس سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی، اس لیے حدیث سے صرف نظر کیا جائے گا اور قلیل و کثیر رضاع سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ حالانکہ صورت اس طرح نہیں، اولاً یہاں تخصیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن عزیز کے اطلاق کے ساتھ قید لگائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز مطلقاً مذکور ہے، حدیث نے خمس رضعات سے اسے مقید فرما دیا۔

رہا خبر واحد کا مظنون ہونا تو یہ بھی کامیاب عذر نہیں۔ خود فقہائے حنفیہ نے قرآن عزیز کی تخصیص کئی مقام پر فرمائی ہے۔ فریضہ جمعہ کے لیے علی العموم سورت جمعہ کی آیت سے استدلال فرمایا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ۹]

غلام، مسافر، عورت وغیرہ کا استثنا خبر واحد ہی سے عمل میں آیا ہے۔ مگر دیہات کو

جمعہ سے مستثنیٰ کرنے کے لیے مرفوع روایت بھی بیسر نہیں آسکی، وہاں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر ہی سے قرآن عزیز کی تخصیص کا کام لے لیا گیا۔ ع
دراز دینی اس کوتاہ آستیناں ہیں^۱

شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ ایسے ہی اصول، جن کی ساخت کے ساتھ ان کی نکلت کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہو، دین کی بنیاد اور اجتہاد اور تعلقہ کی اساس نہیں قرار پا سکتے۔ حضرات ائمہ اصول اور فقہائے حنفیہ تو آیت کے اس احرام کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔ معلوم ہے کہ آیت میں رضاع کی وجہ سے صرف ماں کی حرمت کا ذکر ہے۔ نص قرآن میں کسی دوسرے رشتے کا ذکر نہیں، لیکن حدیث شریف میں حضرت علی سے مروی ہے:

”إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب“ (ترمذی: ۱۹۷/۲)

یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں، رضاع کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے۔

اس مقام پر آیت کی وضاحت میں مزید وسعت حدیث سے ہوئی۔ یہ زیادت خبر واحد کی بنا ہی پر کی گئی ہے۔ اسی طرح آیت میں مدت رضاع کا کوئی ذکر نہیں۔ کس عمر میں دودھ پیا جائے تو وہ حرمت میں موثر ہوگا؟ آیت اس میں خاموش ہے، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک وہی رضاعت موثر ہوگی، جو بچے کی غذا بنے۔

حدیث شریف میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام“

هذا حدیث حسن صحیح^۲ (ترمذی مع التحفة: ۲۰۱/۲)

دو سال کے بعد رضاعت کا کوئی اثر نہیں۔ مدت رضاع کا تذکرہ قرآن میں نہیں،

① ان کوتاہ آستینوں کی دراز دینی دیکھا!

② صحیح۔ سنن الترمذی (۱۱۶۶) وقال الترمذی: ”حدیث علی حسن صحیح“ نیز دیکھیں:

صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۵۰۳) صحیح مسلم (۱۴۴۴)

③ صحیح۔ سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۱۵۲) صحیح ابن حبان (۴۲۲۴)

یہ صراحت سنت میں ہے۔ جو قاعدہ تعیین رضعات کے متعلق بتایا گیا تھا، مدت رضاع اور باقی رضاعی رشتوں کی حرمت کے سلسلے میں اسے توڑ دیا گیا۔ ماحول کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، شاہ صاحب ایسے اصول پر کیسے مطمئن ہو سکتے تھے؟

اہل حدیث بھی ان علوم کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ سنت کے بالمقابل کسی اصل کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ جہاں قرآن اور سنت کسی امر کی صراحت کر دے، وہاں کوئی اصل قبول نہیں کیا جاسکتا۔

اگر اصولی فقہ کو طالب علمی کی صلاحیت سے پڑھا جائے تو واقعی اس کی گرفت سخت ہوتی ہے۔ اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اصول اس قدر زنی نہیں رہے۔ شاہ صاحب ایسے اصول کیسے قبول فرما سکتے ہیں؟ اسی لیے انھوں نے بڑی جرأت سے فرمایا کہ مجھے فقہا محدثین کی راہ پسند ہے اور یہی نصیحت انھوں نے اپنے علامہ اور اپنے متعلقین کو تلقین فرمائی۔^①

محدثین کی روش:

البتہ محدثین اور فقہائے عراق میں اتنا فرق تھا کہ وہ نصوص کی موجودگی میں قیاس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے، گو استنباط اور اجتہاد کے اصول اس کے ظاہر الفاظ کے خلاف فیصلے کا تقاضا کریں۔ فقہائے عراق جھلوم کا خیال ہے اصول نظر انداز نہیں ہوں گے، چنانچہ اگر شراب کا سرکہ بنا لیا جائے تو یہ حلال ہی ہوگا اور ایسا کرنا درست بھی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی صورت ہی بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، لیکن محدثین کا خیال ہے کہ سرکہ بنانا درست نہیں اور اگر کوئی سرکہ بنا بھی لے تو حرمت بدستور قائم رہے گی، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ حدیث میں شراب سے سرکہ بنانے کی صراحتممانعت آئی ہے۔^②

① دیکھیں: تفہیمات الہیہ (۲/۲۴۰)

② صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۸۳)

مال مسروق کی صورت اگر بدل جائے، مثلاً غلہ اگر چیس دیا جائے یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دیا جائے تو فقہائے کرام کے نزدیک چور کے تمام تصرفات مالکانہ ہوں گے۔ فقہائے حدیث ان ظاہری تبدیلیوں کے باوجود سارق کے مالکانہ حقوق کو تسلیم فرماتے ہیں نہ اسے مزید تصرفات کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس مال میں گو بظاہر تبدیلی آگئی ہے، لیکن چور بدستور چور ہے۔ جب تک وصف موضوع معلوم اور ثابت ہے، تصرفات کی بنا پر چور کو مالک نہیں کہہ سکتے۔

نص ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاتَّعَطُوا أَلَيْسَ بِهِمَا﴾ [المائدہ: ۱۳۸] کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سارق سارق ہے، مال مسروق ہے، اس کی خرید و فروخت جس طرح اس کی اصل صورت میں ممنوع ہے، اسی طرح تبدیل شدہ صورت میں بھی اس میں تصرف شرعاً درست نہیں، بشرطیکہ سرقہ کا علم ہو۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ فقہائے عراق کے پاس اپنے مسلک کی حمایت کے لیے کوئی دلیل نہیں، انہوں نے ان مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل اور نظروں فکر کی گہرائیوں سے کام لیا ہے، لیکن محدثین کا انداز فکر چونکہ بالکل مختلف ہے، اس لیے وہ ان نکتہ نوازیوں پر مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ بدستور ان مسائل کو ظاہر سنت کے خلاف سمجھتے رہے، ان نکتہ آفرینیوں کو رائے سے تعبیر کرتے رہے اور اہل الرائے کے دلائل حدیث و سنت کے مقابلے میں ان کی تسل نہ کر سکے۔ فقہانے اپنے اصول کی حمایت کے لیے احادیث کو نظر انداز کر دیا اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضعاف اور موقوفات کو قبول کر لیا۔

فقہ الحدیث کے اصول:

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ حدیث کی فقہ یا فقہ الحدیث کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ذکر فرمائے ہیں:

① جب قرآن میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو تو اہل حدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز

کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔

❖ اگر قرآن میں تاویل کی گنجائش ہو، مختلف مطالب کا احتمال ہو تو سنت کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا، جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔

❖ اگر قرآن کسی حکم کے متعلق بالکل ہی خاموش ہو تو عمل سنت پر ہوگا۔ وہ سنت فقہاء میں متعارف اور معلوم ہو یا کسی شہر کے ساتھ مخصوص یا کوئی خاص خاندان اسے روایت کرے۔ کسی نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، ائمہ حدیث اسے قابل استناد سمجھیں گے۔

❖ جب کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو کسی مجتہد اور امام کی پروا نہ کی جائے گی اور نہ کوئی اثر قابل قبول ہوگا۔

❖ جب پوری کوشش کے باوجود حدیث نہ ملے تو صحابہ اور تابعین کے ارشادات پر عمل کیا جائے گا اور اس میں کسی قوم اور شہر کی قید یا تخصیص نہیں ہوگی۔

❖ اگر جمہور فقہاء اور خلفاء متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔

❖ اگر فقہاء میں اختلاف ہو تو زیادہ متقی اور ضابطہ کی حدیث قبول کی جائے گی یا پھر جو روایت زیادہ مشہور ہو، اسے لیا جائے گا۔

❖ اگر علم و فضل، ورع و تقویٰ اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہیں تو اس مسئلے میں متعدد اقوال تصور ہوں گے، جس پر جی چاہے عمل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، نہ اس میں کوئی ضیق پیدا کیا جائے۔

❖ اگر اس میں بھی تسکین بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے عموماً اقتضا اور ارشادات پر غور کیا جائے گا اور مسئلہ زیر بحث کے نظائر کے حکم کو دیکھا جائے گا اور حکم استخراج کیا جائے گا۔ اصول فقہ کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہ کیا جائے گا، بلکہ طمانیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا۔ جس طرح متواتر روایات میں اصل چیز راویوں کی کثرت نہیں، بلکہ اصل شے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔

یہ نو (۹) اصول پہلے بزرگوں (صحابہ و تابعین) کے طریق کار سے ماخوذ ہیں۔

(حجة الله البالغة: ۲ / ۱۱۹)

اس وقت تحریک اہل حدیث:

ابتدائی چار سو سال تک تقلید شخصی اور جمود کم تھا، بلکہ پہلی صدی میں آج کی مروجہ تقلید کا رواج ہی نہیں تھا۔ اواخر صدی میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما پیدا ہوئے تھے، پھر بدرجہ اتمہ کے مسالک کا رواج ہوتا گیا۔

اس وقت کے اہل حدیث علما کے سامنے اہم مسئلہ یہ تھا:

❶ لوگ قرآن عزیز اور سنتِ مطہرہ کی پابندی کریں۔

❷ اور ان کے سمجھنے میں اگر مشکل پیش آئے تو صحابہ اور تابعین کی روش پر اسے سمجھا جائے۔

فہم میں جمود اور تقلید پیدا ہونہ آزادی اور آوارگی راہ پائے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانہ اور ان کے فتوؤں میں وقت کے مصالح کی بنا پر وسعت قائم رہے۔ علما کے فتوؤں کو قرآن اور سنت کا قائم مقام نہ سمجھا جائے۔

حسن بن بشر رضی اللہ عنہ معافیٰ سے نقل فرماتے ہیں اور معافیٰ امام اوزاعی سے:

”قال: كتب عمر بن عبد العزيز: انه لا رأي لاحد في كتاب

الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب، ولم تمض به

سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رأي لاحد في

سنة منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -“ (سنن دارمي، ص: ۶)

”کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے ہوتے ہوئے کسی شخص کی رائے کو کوئی

اہمیت حاصل نہیں۔ ائمہ کی آرا اسی وقت قابل توجہ ہیں جب کتاب اللہ ہو

نہ سنتِ رسول ﷺ۔“

❶ صحیح، سنن الدارمی، رقم الحدیث (۴۳۲) الإبانة لابن بطة (۱۰۰) الشريعة للأجری

(۵۹) جامع بیان العلم (۱۳۰۷)

ایک دوسرا اثر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیا:
 ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اور
 قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ آنحضرت ﷺ کی زبان
 سے جو حلال ہے وہی حلال ہے اور جو آپ نے حرام ٹھہرا دیا، وہی حرام
 ہے۔ یہ حکم بقیامت ہے۔ میں خود قاضی نہیں، بلکہ آنحضرت ﷺ کے
 فیصلوں کو نافذ اور جاری کرتا ہوں۔ میں پہلوں کا قمع ہوں، میں خود کوئی نئی
 چیز پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لیکن مجھ پر تم سے
 ذمے داری اور بوجھ زیادہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت ضروری
 نہیں۔ کیا میں نے سنا دیا؟“^۱

ان آثار سے اس وقت کی ذہنی حالت کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 اس وقت علما کے ذہن پر کیا خطرات محیط ہیں؟ اتباع سلف پر اعتماد کے ساتھ جاہ
 پابندی اور آوارگی دونوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ بدعت سے بھی پرہیز پیش نظر ہے اور
 اپنی حاکمانہ حیثیت سے بھی کوئی حکم منوانا پسند نہیں فرماتے۔ پوری توجہ اس طرف ہے کہ
 بدعت اور آوارگی نہ آنے پائے اور صداقت کی اشاعت جبر سے نہ ہو، بلکہ ضمیر کی آواز
 اور محض اللہ کے لیے ہو۔

سنن داری کے ابتدائی ابواب پر غور فرمائیے:

”باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة“، ”باب في

اجتناب الأهواء“، ”باب في فضل العلم والعلماء“، ”باب

التبويح لمن يطلب العلم لغير الله“

ان تمام ابواب اور سلف اہل علم کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے بعد

① صحیح سنن الدارمی (۱/ ۱۲۶) الطبقات الکبریٰ لابن سعد (۵/ ۲۵۰) المعرفة والتاریخ

الفلسفی (۱/ ۵۷۴) المدخل إلى المنن الکبریٰ للبیہقی (۱۹) تاریخ واسطہ (ص: ۱۸۸)

ائمہ سلف کے طریق کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں۔ شخص آرا و افکار اور تقلید جامد سے اذہان کو ہر قیمت پر آزاد رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اہل بدعت کی سی ذہن میں آوارگی کسی قیمت پر بھی پسند نہیں کرتے۔ اس وقت کے علمائے اہل حدیث کے سامنے چند کام تھے: احادیث نبویہ کا حفظ اور ضبط، احادیث میں تعلقہ اور استنباط، بدعات اعتقادیہ اور عملیہ سے کلیتاً پرہیز۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ائمہ حدیث کے مذہب کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”علمائے محدثین بیک مذہب از مذاہب مجتہدین پابندی باشند، بس بعضے اعمال ایشاں مطابق کتب فقہی باشند و بعضے دیگر مطابق کتب فقہی باشند و بعضے دیگر مطابق کتب دیگر“ اھ (کنادئ عزیزی: ۱۱۷/۲)

”ائمہ حدیث مروجہ مذاہب کے پابند نہیں ہوتے، فقہائے عراق اور باقی علمی ماخذ سے برابر استفادہ فرماتے ہیں۔“

شاہ صاحب کے ارشاد سے واضح ہے کہ یہ ایک مستقل کتب گھر ہے، جس میں پابندی اور جمود نہیں۔

فتنہ اعتزال:

جب صحیحی اسلام سے متاثر ہوئے، اسلام کی سادگی نے جہاں انھیں کافی حد تک اپنی تربیت میں لے لیا، وہاں ان لوگوں نے بھی اسلام کو متاثر کیا۔ یونانی علوم اور فلسفی نظریات اسلام کے بعض بنیادی عقائد سے ٹکرائے۔ صفات باری کی حقیقت کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے انصاف کی نوعیت کیا ہے؟ صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات؟ حادث اور قدیم کے درمیان ربط کی کیا صورت ہے؟ بیسیوں مسائل و مباحث سطح ذہن پر ابھر آئے۔

یہیں سے اعتقادی بدعات کا آغاز ہوا۔ علمائے سنت کو یونانی اسلمہ سے مسلح ہو کر ان مباحث کو حل کرنا پڑا۔ بدعات کے شیوع نے ایک دفعہ اہل علم کو حیرت میں ڈال دیا۔ امام احمد، علامہ عبدالعزیز کنانی وغیرہ نے اس وقت بڑی جرأت اور ثابت قدمی

سے کام کیا۔ مامون رشید، واثق باللہ، متعصم باللہ، عماد حکومت ان خیالات سے متاثر تھے، اس وقت ائمہ حدیث بے انتہا مشکلات میں مبتلا ہوئے۔

یہ انداز فکر تقریباً آٹھویں صدی تک چلتا رہا۔ یونانی فلسفہ سے ائمہ حدیث نے خم ٹھونک کر مقابلہ کیا، اس دور کی فرقہ پرستی کے لیے ابن حزم کی ”الفصل“، شہرستانی کی ”الملل والنحل“، علامہ ابو طاہر عبدالقادر بغدادی (۲۲۹ھ) کی ”الفرق بین الفرق“ اور ”المواعظ والاعتبار للمقریزی“ (صفحہ ۱۳۱ تا ۱۸۶) ملاحظہ فرمائیے۔

اسلام میں بڑی فرقوں کی کس قدر گرم بازاری رہی۔ آٹھویں صدی میں معلوم ہوتا ہے علمائے سنت نے یونانی فلسفہ کو فاش شکست دی۔ یونانی نظریات کا تار پود بکھیر کر رکھ دیا، علمائے حدیث نے انہی کی زبان میں ان سے گفتگو کر کے انہیں یقین دلایا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ان کی معلومات سطحی ہیں اور اسلامی عقائد پر ان کے اعتراضات کی حیثیت تلمیسِ نفس سے زیادہ نہیں۔

حضرات متکلمین:

عقائد کی اس دیرپا اور صبر آزما جنگ میں کچھ لوگ مخالفت کے باوجود فلاسفہ سے متاثر ہوئے، بعض نصوص میں انہوں نے تاویل کی اور اسلامی نصوص کے لیے ایسے مجال تلاش کیے جو مسلکِ تفویض سے مختلف اور جدا تھے، لیکن ائمہ سلف اور ائمہ اربعہ کا تقریباً اجتماعی عقیدہ تفویض تھا۔ احناف نے عموماً عقائد میں ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی کی راہ اختیار کی۔ شوافع کا زیادہ رجحان اشعریت کی طرف ہو گیا۔ ائمہ حدیث اور حنابلہ اپنی پرانی راہ پر قائم رہے۔ تاویل سے بچ کر انہوں نے امام احمد اور باقی ائمہ حدیث کی روش کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا، بلکہ اس سادگی کو قائم رکھا جس کا دوسرا نام تفویض تھا۔ ان عقائد میں ائمہ اربعہ متفق ہیں۔ فروع کی طرح عقائد میں یہ حضرات چنداں مختلف نہیں ہیں۔

① صفاتِ باری تعالیٰ کے ضمن میں تفویض کا اطلاق دو معانی پر ہوتا ہے:

تقلید کی تین راہیں:

یہ عجیب اتفاق ہے کہ چوتھی صدی کے قریب فقہی فروع میں تطلق اور اجماع ہوئی سے بچنے کے لیے اس دور کے عقلا نے ائمہ اربعہ کی تقلید اختیار کر لی۔ اجتہاد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ و تابعین کے زمانے میں جس قدر وسعت تھی، تقلید شخصی و ذہنی

۱۔ تفویض المعنی والکیفیة: یعنی صفات باری تعالیٰ کے اثبات میں قرآن و حدیث میں جو الفاظ مذکور ہیں (جیسے استواء، وجہ، ید، سح، بصر وغیرہ) ہم ان کا معنی جانتے ہیں نہ اس کی کیفیت کا علم رکھتے ہیں۔

۲۔ تفویض الکیفیة دون المعنی: یعنی صفات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ کا معنی و مفہوم تو واضح اور معلوم ہے، لیکن ہم ان کی کیفیت سے ناواقف ہیں۔ جیسے امام مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ "الاستواء معلوم، والکیف مجهول" یعنی استواء کا معنی و مفہوم تو معلوم اور واضح ہے، لیکن اس کی کیفیت و ماہیت ہمیں معلوم نہیں۔

اول الذکر معنی کے اعتبار سے تفویض کا عقیدہ ائمہ سلف اور اہل سنت کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ بعض اشاعرہ اور اہل بدعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفات کے ضمن میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں، کوئی بھی ان کے معنی سے آگاہ نہیں، نہ رسول اللہ ﷺ، نہ صحابہ کرام اور نہ سلف امت۔ گویا یہ الفاظ عبث اور بے فائدہ ہی ذکر کیے گئے ہیں، جن کا کوئی معنی و مطلب مقصود نہ تھا۔ اس بیان و توضیح ہی سے اس نظریے کا بدیہی ابطال ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔

مزید برآں ائمہ سلف سے صفات باری تعالیٰ کے معانی کے متعلق صریح نصوص وارد ہوئی ہیں، جیسے استواء کا معنی ارتفاع اور علو ثابت ہے، لیکن ان کی کیفیت کا علم نہیں۔ اہل سنت اگر چند صفات باری تعالیٰ کا اثبات کرتے ہیں، لیکن وہ تشبیہ کا کلیتاً انکار کرتے ہیں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوریٰ: ۱۱] اس آیت کریمہ میں جہاں تشبیہ و تمثیل کی نفی کی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات سح و بصر کا اثبات کیا گیا ہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ صفات کے اثبات سے تشبیہ اور تمثیل لازم نہیں آتے۔

الغرض اول الذکر معنی کے اعتبار سے تفویض کو ائمہ سلف کا عقیدہ قرار دینا درست نہیں، البتہ ثانی الذکر معنی کے اعتبار سے عقیدہ سلف پر تفویض کا اطلاق درست ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے مشکوک و مشتبہ الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے۔

مجمود سے اسے روک دیا گیا۔ لوگوں کو خواہ مخواہ مجبور کیا گیا کہ وہ چار ائمہ سے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کریں۔ گو یہ شرعاً واجب نہیں، مگر ضرورتاً اسے کالوا جب سمجھنا چاہیے۔

تھوڑی دور آگے بڑھ کر عقائد کے اختلاف میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اشعری اور ماتریدی کو دے دی گئی۔ یہ حضرات عقائد میں الگ ائمہ قرار پائے۔ گویا فقہی فروع میں الگ امام، عقائد میں اور امام۔ پھر ذرا اس سے آگے بڑھ کر جب تصوف میں طبقاتی دور آیا۔ اسلامی زہد و ورع یا احسان میں جب بدعات شامل ہونے لگیں اور خانقاہی نظام نے پیشہ اور دکانداری کی صورت اختیار کر لی تو اس وقت کے دانشوروں نے چند امام یا فرقے انتخاب کر لیے، یعنی حنفی اور شافعی، مالکی اور حنبلی تصوف میں نقشبندی، قادری، سہروردی اور چشتی وغیرہ ہو گئے۔ گویا تین مختلف محاذوں پر ائمہ کے قبیحین نے اپنے امام بدل لیے۔

یوں سمجھئے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے باقی رفقا کی امامت فروع تک محدود ہو گئی، وہ تصوف اور عقائد میں امام و مقتدی نہیں بن سکتے۔ ہمارے ملک میں احناف کی بریلوی قسم عموماً قادری ہیں، حالانکہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فروع میں حنبلی تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں دس فرقوں کا ذکر فرمایا ہے۔

اہل حدیث کی روش:

ان تمام مقامات میں بحمد اللہ اہل حدیث کی روش ایک جیسی رہی۔ وہ فروع، عقائد اور تصوف میں صحابہ کی اتباع کرتے رہے اور خانقاہی نظام کی بدعات سے اسی طرح نفرت کی، جس طرح فروع میں جامد تقلید اور عقائد میں بے دینی کی بدعات سے انھیں نفرت تھی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.

ان تمام مراحل میں ائمہ سلف کی اجراع کرتے اور وقت کی ہر ہر بدعت سے

برسر پیکار رہے۔

أهل الحديث هم أهل النبي

وإن لم يصبحوا نفسه أنفاسه صحبوا^①

یہی حال تقریباً حنا بلہ کا رہا۔ وہ اشعریت اور ماتریدیت سے بہت کم متاثر ہوئے۔ اہلحدیث نے کتاب و سنت کے فہم میں کسی فرد کی امامت کے بجائے ائمہ سلف اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنا امام تصور کیا، اور فروع و عقائد اور احسان و تصوف میں ان بزرگوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور نہ شخصی آراء و افکار کو ائمہ سلف اور صحابہ کا بدل سمجھا۔ دراصل فتنوں کے دور عروج میں آزادی اور پابندی، جمود اور آوارگی کے بین بین یہی صحیح حل تھا، جسے ائمہ حدیث نے تلاش فرمایا اور عملاً صدیوں اس پر کار بند رہ کر آوارگی ذہن اور جمود کا مقابلہ کیا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸ھ) کی مجاہدانہ کوششیں صفحات تاریخ کی رونق ہیں۔ انھوں نے جہاں اعتزال اور تعجم کو ذفن کیا اور ان کے تابوت میں آخری میخ ٹھونکی، وہاں رفاہی فرتے کے فقیروں کے آگ میں کودنے کا چیلنج قبول فرما کر بدی تصوف کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اللھم ارحمہ رحمة واسعة۔

یہ جرات مندانہ جہاد اس وقت عمل میں آیا، جبکہ ارباب تقلید و جمود کی اکثریت بدعات میں مبتلا ہو چکی تھی، بلکہ ان حضرات نے اصلاح کے پروگرام کی قدم قدم پر مخالفت کی۔ شیخ الاسلام کا یہ ارشاد کس قدر جاندار ہے:

”أهل الحديث في الفرق كالإسلام في الملل“ (رد المنطق)

منہاج السنہ، کتاب العقل والعلل اور رسالہ رد المنطق اس موضوع پر انتہائی مفید معلومات سے بھرپور ہیں۔ شیخ الاسلام کی کتاب ”الرد علی المنطقیین“ میں اس قدر شگفتگی نہیں جس قدر ”رد المنطق“ میں ہے۔ اس مختصر رسالے میں

① اہل حدیث ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دار ہیں، اگرچہ انھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آپ کی ساتوں (فرامین) کی ہم نشینی تو انھیں کو حاصل ہوئی ہے!

② نقض المنطق لابن تیمیہ (ص: ۲۸) نیز دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (۲۴/۴)

شیخ الاسلام نے مسلک اہلحدیث کی حمایت اور ترجیح میں بڑی وسعت سے کام لیا ہے۔ شاید یہ بسط شیخ کی کسی دوسری کتاب میں نہ ملے۔ اس کتاب سے شیخ الاسلام کی روشن خیالی اور وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔

یونانی فلسفے کی پسپائی:

شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء عالی مقام نے یونانی فلسفے کی صرف مخالفت ہی نہیں فرمائی، بلکہ اس پر اس قدر بھرپور وار کیے کہ علما کے علاوہ عوام میں بھی یونانی علوم اور یونانی نظریات کی کوئی علمی آبرو نہ رہی، بلکہ ان کی ﴿جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومًا مِنَ الْاَحْزَابِ﴾ کی سی کیفیت ہو گئی اور صدیوں کی اعتقادی پابندیاں اور اس دور کی تقلید پرور نذائیں تقریباً ختم ہو گئیں، اور اعتراف اور تحجیم کے پیدائے ہوئے فرقے ایک ایک کر کے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے۔ مذاہب وطل اور ردود و مناظرات کی کتابوں کے سوا یہ فرقے عملاً ختم ہو گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تجدیدی کارناموں میں یہ اہم کارنامہ اور ائمہ حدیث کی مصالمانہ خدمات میں یہ سب سے عظیم الشان خدمت ہے۔

اللهم تقبل منهم كما تتقبل من عبادك الصالحين.

شیخ الاسلام اور ان کے رفقا یونانی جارحیت کے خلاف تو کامیاب ہو گئے، لیکن تقلیدی جمود کے خلاف اس قدر کامیاب نہ ہو سکے جس قدر ظروف اور حالات کا تقاضا تھا، بلکہ فقہی جمود تیز تر ہو گیا۔ ائمہ اربعہ کی حقانیت مسلمہ ہو جانے کے باوجود یہ چاروں حق پروردگروہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ حق حقیقتاً ہمارے ہاں فروکش اور تشریف فرما ہے، باقی ائمہ کی صداقت صرف ایک ظن ہے۔

حضرت علامہ علاء الدین ہسکفی "رد المحتار" میں "الاشباہ والنظائر" کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"وفیہا إذا سئلنا عن مذہبنا ومذہب مخالفنا، قلنا وجوباً:

مذہبنا صواب یحتمل الخطأ، ومذہب مخالفنا خطأ یحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا، ومعتقد خصومنا قلنا وجوباً: الحق ما نحن عليه، والباطل ما عليه خصومنا^۱

”جب ہمیں اپنے اور اپنے مخالف کی بابت پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم یقیناً حق پر ہیں، احتمال ہے کہ ہمارا خیال غلط ہو جائے۔ ہمارا مخالف یقیناً خطا پر ہے، ممکن ہے اس کا خیال درست ہو، لیکن عقائد کے معاملے میں ہم یقیناً حق پر ہیں اور ہمارے مخالف غلطی اور باطل پر ہیں۔“
حالانکہ عقائد میں پورا استدلال تاویل کا ایک نظر فریب جال ہے۔

ائمہ اربعہ کو حق پر ماننے کے بعد فکر کا یہ انداز یقیناً مستحسن نہیں ہے۔ جب ائمہ اجتہاد کے متعلق معلوم ہے کہ وہ پیغمبر نہیں بلکہ ان کی کوششیں مخلصانہ ہیں تو اس تنگ نظری سے کیا حاصل؟ لیکن تقلید و جمود کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ شخصی محبت میں افراط کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالف کے متعلق تفریط کرے، اس کے محاسن کو بھی عیب کی نظر سے دیکھے۔ تقلید و جمود میں یہ بڑی ہی عیب ناک چیز ہے، اس میں عصیت اور سوئے ادب سے بچنا سخت مشکل ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات خود از بس بے ادب ہیں، لیکن الزام دوسروں کو دیتے ہیں!!

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عجیب روش:

حضرت امام شافعی کی ذہانت اور علمی رفعت کی بنا پر کوشش فرمائی گئی کہ انھیں اپنا شاگرد و ظاہر کیا جائے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ علم امانت ہے، جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً اپنے وقت کے اکابر سے علم حاصل کیا۔ فقہ اور حدیث دونوں اپنے وقت کے کامل اساتذہ سے سیکھے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام شافعی امام محمد کے تلامذہ سے تھے:

① الأشباه والنظائر لابن نجيم المحنفي (ص: ۳۸۱) رد المحتار (۱/ ۱۱۵)

”ومن تلامذته الشافعي - رضي الله عنه - وتزوج بأب الشافعي،
وفوض إليه كتبه وماله فبسببه صار الشافعي فقيهاً“

”امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے۔ امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا اور اپنی کتابیں اور اپنا مال امام شافعی کو دے دیا، اسی لیے امام شافعی فقیہ بن گئے۔“

لیکن امام محمد کی فقہ سے ہمیشہ برسر پیکار رہے!

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اقرار ذکر فرماتے ہیں:

”والله ما صرت فقيها إلا بكتب محمد بن الحسن“

(کتاب مذکور: ۱/ ۵۳)

”میں صرف امام محمد کی کتابوں سے فقیہ بنا۔“

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے:

”وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه وقر بختي“

(تذكرة الحفاظ: ۱/ ۳۲۹)

”امام محمد فقیہ سے امام شافعی نے اونٹ کا بوجھ نقل فرمایا۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام محمد سے استفادہ فرمانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ امام محمد تو

اکابر ائمہ سنت سے ہیں۔ ائمہ حدیث علم کے معاملے میں اس قدر وسیع الظرف تھے کہ

تتقید اور تنقیح کے بعد وہ اہل بدعت سے بھی تحصیل علم میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔

مستند کتب حدیث میں ان لوگوں سے احادیث مروی ہیں جن کو ائمہ حدیث دین کے

لحاظ سے پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے امام محمد سے تلمذ ائمہ سنت کی خوبی ہے۔

امام شافعی ایسے شاگرد تھے جن کی مناظرانہ استعداد سے امام محمد کئی دفعہ خاموش

ہو جاتے، چنانچہ اخبار آحاد کی حجیت، شاہد اور یمین (قسم) کے ساتھ فیصلہ، ”لا وصیة

لوارٹ، وغیرہ مسائل پر امام شافعی نے مسکت گفتگو فرمائی۔^① (حجۃ اللہ) اہل علم میں تعلیم و تعلم اور بحث و نظر میں کوئی حرج نہیں۔ یہ امام شافعی اور امام محمد دونوں کے لیے باعث فضیلت ہے۔ ایسے شاگرد پر جس قدر فخر کیا جائے، بجا ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کی تنقیص:

ایک طرف تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی شاگردی پر فخر ہے، دوسری طرف جب امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بعض فقہائے عراق کے بعض مسائل پر تنقید فرمائی تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات شروع ہو گئے اور جاہل تک کہہ دیا گیا۔ اصولی بزدلی اور اس کی شرع کشف الاسرار سے لیکر اصول شاشی تک ہر بزرگ کو دیکھیے، امام شافعی کی اجتہادی مساعی کو جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا صراحت سے نام لیا ہے، بعض نے مسائل کا ذکر کر کے انہیں جہالت سے یاد فرمایا ہے:

”و كذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من علماء الشريعة، و أئمة الفقه، أو عمل بالغير من السنة على خلاف الكتاب والسنة المشهورة فمردود باطل، ليس يعذر أصلاً، مثل الفتوى ببيع أمهات الأولاد، ومثل القول في القصاص في القسامة، ومثل استباحة متروك التسمية عمداً، والقضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي“^②

”اسی طرح ائمہ فقہ اور مجتہدین کی جہالت بھی عند اللہ عذر نہیں ہو سکتی، جس میں کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کی مخالفت کی ہے یا کسی غریب حدیث پر عمل کیا ہے۔ یہ جہالت مردود اور باطل ہوگی، جیسے ام ولد کی بیع کا فتویٰ یا

① حجة البانغة (ص: ۳۰۹) نیز دیکھیں: آداب الشافعی ومناقبة لابن أبي حاتم (ص:

۱۵۹، ۱۶۱)

② أصول البزدوي (ص: ۳۴۲)

قسمہ میں قصاص کا فتویٰ یا جس جانور پر بوقت ذبح عمداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کی حلت کا فتویٰ اور مدعی کی قسم اور ایک گواہ کی بنا پر مدعی علیہ کے خلاف ڈگری کی اجازت۔“

- ① اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ امام داود ظاہری کا خیال ہے کہ ام ولد کی بیع درست ہے، یعنی اس لونڈی کی جس کے بطن اور اس کے مالک کی پشت سے اولاد ہو۔ جمہور ائمہ مالک کی موت کے بعد اس کی بیع کو درست سمجھتے، لیکن داود ظاہری بعض احادیث کی بنا پر اسے درست سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی ”جہالت“ ہے۔
 - ② کسی محلے میں میت پائی جائے، لیکن قاتل معلوم نہ ہو۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم فرماتے ہیں: اگر اہل محلہ اور مقتول میں سابقہ دشمنی اور باہم غلش کا علم ہو تو قاضی مقتول کے دلی سے پچاس قسمیں لے کر قاتل کی تعیین کے بعد قصاص کی اجازت دے گا۔ احناف کرام اور حضرات ائمہ اصول کے نزدیک یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم کی ”جہالت“ ہے۔ (إنا لله وإنا إليه راجعون)
 - ③ امام شافعی کا خیال ہے کہ اگر ذبیحہ پر بوقت ذبح جان بوجھ کر بھی خدا کا نام نہ لیا جائے، لیکن ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو یہ فعل درست نہیں، لیکن ذبیحہ حلال ہے۔ احناف اسے امام شافعی رحمہم کی ”جہالت“ سے تعبیر فرماتے ہیں۔
 - ④ اسی طرح اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو مدعی خود قسم کھائے اور ایک گواہ دے دے تو امام شافعی اجازت دیتے ہیں کہ قاضی اس صورت میں مدعی کو ڈگری دے دے۔ ائمہ حنفیہ کا خیال ہے کہ یہ امام شافعی کی ”جہالت“ ہے۔
- مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اور مجتہدین کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی تحقیق کے مطابق فتویٰ دیں۔ اتباع کو حق ہے کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق عمل کریں، مگر تلخ اور ترش زبان تو بے حد نامناسب ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق بھی ایسی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے، چہ جائیکہ ائمہ اجتہاد کے متعلق یہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے!

پھر بھی بے ادب غیر مقلد ٹھہریں! کیا یہ تھلیدی جمود اور اس میں غلو کا نتیجہ نہیں؟ کشف الاسرار میں علامہ شیخ عبدالعزیز (۱۳۸۱ھ) نے متن کی شرح فرماتے ہوئے ائمہ کے اسماء کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کے اجتہادات کو علامہ بزدوی نے جہالت سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن اس تیز لب و لہجے کے متعلق ایک حرف بھی نہیں فرمایا۔^۱

حسامی نے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ اصول بزدوی کے الفاظ نقل فرمادیے ہیں اور وہی اشلہ جو بزدوی نے بیان فرمائی ہیں، بطور توارث نقل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں پر رحم فرمائے، یہ دور جمود کی بڑی تلخ اور ناپسندیدہ یادگار ہے اور بعض بزرگوں کے ساتھ محبت میں غلو کا نتیجہ!

حسامی کے شارح عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نامی میں دو لفظ فرمائے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں یہ زبان اور انداز پسند نہیں۔ فرماتے ہیں:

”وکل واحد یجھل الآخر فیما خالفہ، ویقول: إنه مخالف للسنة“

(نامی مجتہانی، ص: ۱۲۰)

”ہر ایک اپنے مخالف کو جاہل اور سنت کے مخالف کہتا ہے۔“

”المنار“ میں ماتن نے صرف امہات اولاد کا ذکر کیا ہے، لیکن شارح ملا جیون نے اشلہ میں پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ امام شافعی اور امام داؤد نکاہری کا نام صراحتاً لیا ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

”وقد نقلنا کل هذا علی نحو ما قال أسلفنا، وإن کنا لم نجترئ

علیہ“ (نور الأنوار، ص: ۲۹۸)

”ہم نے یہ سب کچھ اس لیے نقل کیا ہے کہ ہمارے پہلے بزرگوں نے ایسا

ہی فرمایا ہے، ورنہ ہم یہ جرات نہ کرتے۔“

گویا یہ تلخ بیانی یا غلط نوازی حضرات سلف کی اجاب میں ہوگی، ورنہ ملا جیون خود

اس کے لیے آمادہ نہ تھے۔ عذرِ گناہ، گناہ سے بھی عجیب رہا۔ یہ سب دورِ جمود و عصیت کی لوازشیں ہیں، ورنہ نہ شافعی ایسے کمزور ہیں نہ ان کے اتباع اتنے کم سواد کہ صریح کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دیں۔ یہ معلوم ہے کہ متاخرین فقہائے حنفیہ اور ائمہ اصول سے ائمہ شوافع کی کتاب و سنت پر نظر زیادہ وسیع اور عمیق ہے۔ علمائے حدیث کی تعداد شوافع میں کافی زیادہ ہے۔

یہ جمود و تقلید کے لوازم سے ہے۔ فرطِ محبت میں اپنے مخالف کے ساتھ تلخی اور بے ادبی ترین قیاس ہے۔ اس دور کے علمائے اہل حدیث نے اس جمود کے خلاف اپنا پورا زور لگایا، اس جمود اور اس کے مضرت رساں اثرات اور طوفانِ خیر نمانج کا اندازہ حافظ ابن تیم کی کتاب ”إعلام الموقعین“، ”زاد المعاد“ اور ”الطرق الحکمیة“ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ اور قریب ترین اہل علم میں حافظ ذہبی (۷۴۸ھ) سابقہ بدعات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہوئے عباسی دور کی اعتقادی اور طحندانہ یورش کا تذکرہ فرماتے ہیں:

”وفي هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابد، واصل بن عطاء الغزال، ودعوا الناس إلى الاعتزال، والقول بالقدر، وظهر بخراسان الجهم بن صفوان، ودعا إلى تعطيل الرب عزوجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبائه مقاتل بن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم، وقام على هولاء علماء التابعين وأئمة السلف، وحذروا من بدعهم، وشرع الكبار في تدوين السنن وناليف الفروع وتصنيف العربية، ثم كثر ذلك في أيام الرشيد، وكثرت التصانيف، وألفوا في اللغات، وأخذ حفظ العلماء ينقص، ودونت الكتب، واتكلوا عليها، وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين

فی الصدور فہی کانت خزائن العلم لہم۔ رضی اللہ عنہم۔“
(تذکرۃ الحفاظ: ۱/ ۱۵۰)

”اس وقت بصرہ میں عمرو بن عبید اور واصل بن عطا کا ظہور ہوا۔ وہ لوگوں کو اعتزال اور انکارِ تقدیر کی دعوت دینے لگے، اور خراسان میں جہم بن صفوان نے تعطیلِ صفات اور خلقِ قرآن کی دعوت دی، اور خراسان ہی میں مقال بن سلیمان مفسر نے صفات کی دعوت اس طرح دی جس سے تقسیم کا شبہ ہونے لگا۔ علمائے سلف اور ائمہ تابعین نے ان سب کے خلاف دعوت دی اور ان کی بدعتوں سے لوگوں کو ڈرایا۔ اکابر ائمہ حدیث، سنت کی تدوین اور فروع کی تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ عربی زبان کے علوم کی تدوین کثرت سے ہوئی۔ یہ ہارون رشید کے دورِ حکومت کی حالت ہے، اسی زمانے میں کتبِ لغت کی تالیف ہوئی اور علما کا حفظ کم ہونے لگا اور کتابوں پر زیادہ اعتماد ہونے لگا، اس سے پہلے صحابہ اور تابعین کا علم سینوں میں تھا اور ان کے سینے علم کے خزانے تھے۔“

یہ اعتقادی بدعات کا دور تھا۔ ائمہ حدیث کی اس باب میں جو مساعی تھیں، ان کا مختصر تذکرہ حافظ ذہبی نے فرمایا ہے۔ وہ اپنے وقت کے فقہا اور ائمہ حدیث کا سلف کے اہل علم سے موازنہ فرماتے ہوئے تقلید و جمود کے اثرات کا تذکرہ دل گداز انداز سے فرماتے ہیں۔ ابو محمد فضل بن محمد (۲۰۲ھ) کے تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں:

”اس وقت کے قریب قریب ائمہ حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی جن کا تذکرہ میں نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ یہاں میں نے اس کا عشرِ عشر بھی ذکر نہیں کیا، اسی طرح اس وقت ائمہ اہل الرائے اور فروع سے بھی کثیر جماعت تھی اور شیعہ حکمیین اور معتزلہ سے بھی بڑے بڑے اساطین موجود تھے، جو معقول کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور اتباعِ سلف اور آثارِ نبویہ سے

بے پروا تھے۔ فقہا میں تقلید نمایاں ہو چکی تھی اور اجتہادات میں تناقض ظاہر ہو چکا تھا، اللہ پاک ہے جس کے قبضے میں خلق اور امر ہے۔

”اے شیخ! خدا کی قسم اپنے آپ پر رحم کرو اور انصاف کی نگاہ سے دیکھو، ان کی طرف غلط نگاہ مت ڈالو اور ان کے نقائص کی تلاش مت کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ وہ آج کل کے محدثین کی طرح ہیں۔ حاشا وکلا۔ میں نے جن ائمہ حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ دین میں پوری بصیرت رکھتے تھے اور نجات کی راہ کو خوب سمجھتے تھے۔ ہمارے زمانے کے بڑے بڑے محدث بھی علم و بصیرت میں ان کا لگا نہیں کھا سکتے تھے۔

”میں یقین رکھتا ہوں کہ تم اپنی ہوئی پرستی کی وجہ سے اگر کھلے طور پر نہ کہہ سکتے تو بزبانِ حال کہو گے کہ احمد بن حنبل کیا چیز ہے؟ ابنِ مدینی کون ہے؟ ابو داؤد اور ابو زرعد کی کیا حقیقت ہے؟ یہ صرف محدث ہیں، انھیں فقہ کا پتا ہی نہیں! نہ وہ اصول سے واقف ہیں نہ انھیں معلوم ہے کہ رائے کیا چیز ہے؟ نہ وہ معانی اور بیان کے وقائع کو سمجھتے تھے، نہ وہ منطق کی باریکیوں کو جانتے تھے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلائل دے سکتے تھے، نہ فقہائے ملت میں ان کا کہیں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ یا تو علم سے چپ رہو یا علم سے بات کرو۔ مفید علم وہی ہے جو ان حضرات سے منقول ہے۔ تمہارے فقیہ تو ہمارے آج کل کے محدثین کی طرح ہیں، نہ ہم کچھ چیز ہیں، نہ آپ ہی کچھ جانتے ہیں۔ اربابِ فضیلت کی قدر اہلِ فضل ہی جانتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ جو کبر و غرور اور شریستی سے گفتگو کرتا ہے، اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، اس کا انجام وبال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی و سلامتی چاہتے ہیں۔“ (تذکرۃ الحفاظ: ۶/۲۷۷)

حافظ ذہبی نے اپنے وقت کے اس مرض کو جس درد انگیز طریقے سے بیان فرمایا اور جس ہمدردی سے ذکر کیا، اس سے ظاہر ہے کہ آٹھویں صدی میں جمود اور شخصیت پرستی کس قدر بڑھ چکی ہے، اور حافظ ذہبی اس سے کس قدر خائف اور متاثر ہیں، اور اس کے عواقب اور نتائج سے ائمہ حدیث کی دُور اندیش نظریں کس قدر آگاہ ہیں؟

اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے خلاف آٹھویں صدی ہجری میں بھی وہی اسیلمہ جات استعمال ہوتے تھے، جو اپنی زنگ آلود شکل میں آج استعمال ہو رہے ہیں: یہ نقتیہ نہیں یہ عطار ہیں، اصول سے نا آشنا ہیں، منطوق نہیں جانتے، عقلی دلائل سے بے خبر ہیں، علم کلام ان کے اذہان سے بالا ہے!!

یہ وہی زنگ آلود اور بوسیدہ اوزار ہیں جو فلاسفہ یونان نے متکلمین کے خلاف استعمال کیے اور فقہائے کرام نے ائمہ حدیث کو ان معائب سے مطعون کیا۔ اور اب حضرات ارباب تقلید ان لوگوں کے خلاف استعمال فرماتے ہیں جو اس وقت آزادی فکر کے حامی ہیں، چاہتے ہیں کہ جب ائمہ مجتہدین حق پر ہیں تو ان سب کے اجتہادات کیوں قابل عمل نہ سمجھے جائیں؟ چار کی تحدید اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی، بعض اوقات حکومتوں نے اپنے مقاصد یا امن عامہ کی حفاظت کے لیے کی، اس کے لیے شرعاً اس کی کوئی سند نہیں پائی گئی۔ اگر کسی شخص کو قرآن و سنت میں مناسب بصیرت نہ ہو تو وہ ائمہ اجتہاد کے علوم سے بلا تعین استفادہ کرے۔ جب سب مجتہدین حق پر ہیں تو حق کو تقسیم کیوں کیا جائے؟ تعین شخص کا تقسیم کے سوا کوئی مطلب نہیں۔

بے شک تلفیق سے روکا جائے، اتباع ہوا سے منع کیا جائے، لیکن ہر شخص کی نیت پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ مخفیات اور سرائز کو اللہ تعالیٰ عالم الغیب کے سپرد کیا جائے یا پھر اس قوت کی تحویل پر اعتماد کیا جائے جو ملک کے نظم و نسق اور قیام امن کی ذمہ دار ہے، لیکن انسانی اذہان و افکار، عقل و بصیرت اور نظر و اجتہاد

پر تالے ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ انسانیت پر ظلم بھی ہے اور اس کی توہین بھی، اور علم و بصیرت کے ساتھ دشمنی کے مترادف بھی!

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب، وسعتِ علم اور ان کے تفردات و اختیارات کا ذکر فرماتے ہوئے اپنے دور کے شخصی جمود کا تذکرہ عجیب انداز سے فرماتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن مسعود کی سیرت اگر لکھی جائے تو تقریباً نصف جلد اسی میں سا جائے۔ وہ کبار صحابہ سے تھے، وہ نہایت وسیع العلم اور ہدایت کے امام تھے، اس کے باوجود فروغی مسائل اور قراءت میں ان کے کچھ تفردات تھے جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ہر امام کی بعض باتیں لے لی جاتی ہیں اور بعض نظر انداز کر دی جاتی ہیں، سوائے امام الاتقیاء صادق مصدق نبی الرحمہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو محصوم اور امین ہیں۔ اس عالم پر تعجب ہے جو کسی خاص امام کی تقلید کرے، باوجودیکہ اسے ان نصوص کا علم ہے جو اس کے امام کے خلاف پائی جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اھ

(تذکرۃ الحفانہ: ۱/ ۱۵)

جمود کے خلاف ہر دور کے علما نے بہت کچھ کیا ہے۔ ابوشامہ، شاطبی، ابن قدامہ جیسے مشاہیر نے اس مرض کے خطرات سے آگاہ فرمایا۔ ابن قیم فرماتے ہیں

العلم معرفة الهدی بدلیلہ ما ذاک والتقلید یستویان
إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمی هما أخوان^۱

”علم معرفت بالدلیل کا نام ہے۔ تقلید اس کے مساوی اور مرادف نہیں ہو سکتی۔ علما کا اجماع ہے کہ تقلید ناہنجی کے مرادف ہے۔“

میں نے اس مقام پر ذہبی کے تاثرات کو اس لیے ذرا تفصیل سے لکھا ہے کہ ذہبی

مختلف مکاتبِ فکر میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ان کی نظر تاریخی لحاظ سے اور رجال میں بہت وسیع ہے۔

بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح میں ذہبی کے متعلق فرماتے ہیں:

”قال الذہبی، وهو من أهل الاستقراء التام في نقل حال الرجال“

(بحر العلوم، ص: ۴۴۱ نولکشور)

”ذہبی کا استقراء اسماء الرجال میں بہت کامل ہے۔“

ذہبی نے فکر کے جمود اور تقلید کے متعلق ان ممالک کا حال لکھا ہے جو ارضی حرم کے قریب اور دینی علوم کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان جیسا ملک جو علومِ نبوت سے پہلے ہی کافی دور ہے، جہاں محققین کی پہلے ہی کمی ہے، یہاں کے حالات تو اور بھی خراب ہوں گے۔

غزالی فرماتے ہیں:

”فإن خاض المقلد في المحاجة فذلك منه فضول، والمشتغل

به صار كضارب في حديد بارد، و طالب لصلاح الفاسد،

وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟“^۱

”مقلد کے ساتھ بحث ٹھنڈا لوہا کو ٹٹنے کے مترادف ہے، عطار وقت کی

بجڑی کو نہیں بنا سکتا۔“

ہندوستان میں اسلام:

معلوم ہے کہ ہندوستان میں فاتحینِ اسلام دو راستوں سے آئے، سندھ کی راہ سے اور ایران کی راہ سے۔ پہلا لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں پہلی صدی کے اواخر^۲ میں

^۱ فیصل المتصرفة بین الإسلام والمزندقة للغزالی (ص: ۷۸)

^۲ ہندوستان پر پہلا حملہ ۹۲ھ میں ہوا، اس وقت ولید بن عبدالملک ظیفہ تھے، حجاج بن یوسف گورنر اور محمد

بن قاسم قائد چیوٹ۔ محمد بن قاسم کے یہ حملے ۹۵ھ تک جاری رہے۔ ممان سے تروج تک ان کی

پہنچا، اس وقت ائمہ اربعہ سے امام ابوحنیفہ کے سوا باقی ائمہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے لیے یہ دور طالب علمی کا تھا اور امامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ لکھنؤ اہل حدیث تھا اور موجودہ تفریق سے بے خبر۔ ان کا مسلک تقریباً وہی تھا جو آج کل اہل حدیث کا ہے، یعنی بلا تخصیصِ شخص مسائل اہل علم سے پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی لیے علمتہ المسلمین میں اس وقت تعصب ناپید تھا۔ دوسرا حملہ ایران کی راہ سے ہوا۔ یہ فاتح عموماً حنفی تھے، انہی کی وجہ سے ہندوستان میں حنفیت پورے زور سے پہنچی۔ اور اس وقت تک احناف کی ملک میں کثرت ہے اور عوام و خواص میں عصیت بھی ہے۔ إلا من رحم! یہ علاقے مرکز سے کافی دور اور علوم کی برکات سے بے حد تشہر رہے۔ یہاں کے علماء عموماً حجاز میں اقامت اور ہجرت کو ترجیح دیتے رہے، ان حالات میں اگر یہاں جمود ہو، تحقیق اور اجتہاد سے عوام نفرت کریں تو اس میں تعجب نہیں۔ جمود ایسے علاقوں میں مستعد نہیں، اس صورت حال کے پیش نظر برصغیر ہندوستان و پاکستان کے حالات عرب سے کہیں اتر ہونے چاہئیں۔ اس کا تذکرہ حافظ ذہبی نے فرمایا ہے۔ یہاں کی حکومت اکثر جاہل، اس کے ساتھ حکام میں بے عملی اور بد عملی دونوں کا فرما تھیں۔ علماء اور فقرا بھی اپنے مقام سے ہٹ چکے تھے۔

علامہ صفائی (۵۶۰ھ) کے بعد یہاں چند گئے چنے بزرگ نظر آتے ہیں، شیخ علی التتقی (۹۷۵ھ) شیخ محمد طاہر پٹوئی شہید (۹۸۶ھ) اور سب سے آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) جہاں اکبر جیسے فاسق بادشاہ اور ملّا مبارک کا خاندان ملک کے در وسط پر محیط ہوں۔ فواحش اور فسق و فجور کی حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو، وہاں تقلید و جمود سے آگے ذہن کہاں تک پرواز کر سکتے ہیں؟ اور یہ چند تخلص بزرگ بدعت اور شرک کے ان جھکڑوں اور آندھیوں کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں؟

◀ جو جس پہنچیں۔ دوسرا حملہ چوتھی صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے کیا، اس وقت مذاہب اربعہ کا رواج کسی قدر ہو چکا تھا۔ غزنویوں کے بعد حکومت غوریوں کی طرف منتقل ہوئی۔ [مؤلف]

اس آخری دور میں شیخ عبدالحق (۱۰۵۲ھ) کا وجود غیبت ہے۔ وہ اپنے وقت کے محدث ہیں، ان کے وجود سے دہلی اور دہلی کے اطراف میں حدیث کا چرچا ہوا۔ ان کی رجال پر نظر ہے، لیکن نقل روایت میں حافظ سیوطی کے بعد شاید ہی کوئی اس قدر غیر محتاط ہو، ان کی مدارج النہوۃ میں سیرت کے متعلق بڑی جامعیت ہے، لیکن ضحاف اور موضوعات کا ذخیرہ بھی حضرت شیخ نے جمع فرما دیا ہے۔ پھر وہ تصوف کی محترعات اور وقت کی دوسری بدعات کے خلاف کھل کر کچھ کہنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا رجحان حمایت کی طرف ہوتا ہے، وہ شطھیات کے دلدادہ ہیں۔

ان کے رجحانات کا یہ حال ہے کہ ”سفر السعادة“ ایسی محققانہ اور محدثانہ کتاب کی شرح لکھی اور اسے جمود سے ہم آہنگ کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ جہاں اتنے بڑے اکابر محدثین کا یہ حال ہو، وہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تجدیدی مساعی اور ابن القیم کے تنقیدی کارناموں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟

مولانا عبدالحق لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ حافظ سخاوی لفظ شیخ الاسلام کے غلط استعمال کا شکوہ فرماتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ثم اشتہر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتدلت على رأس المائة الثامنة فوصف بها من لا يحصى، وصارت لقباً لمن ولي القضاء الأكبر، ولو عرى عن العلم والسنن فإننا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام السخاوي، قلت: ثم صارت الآن لقباً لمن تولى منصب الفتوى، وإن عرى عن لباس العلم والتقوى“
(الفوائد البهية، ص: ۱۰۱)

”شعبین“ (حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کے بعد سلف سے ایک جماعت کے لیے یہ لقب مشہور ہوا۔ پھر آٹھویں صدی میں یہ لقب ایسا عام ہوا کہ جسے قضائے اکبر کا عہدہ ملا، وہی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہو گیا

اور بے شمار شیخ الاسلام ہو گئے، اگرچہ علم اور عمر کے لحاظ سے وہ کچھ بھی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ پھر یہ لقب ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو منصب اِقْبَا پر کسی طرح قابض ہو گئے، گو وہ علم اور تقویٰ سے قطعاً ہی دست ہوں۔“

اواخر تیرہویں صدی تک علم کے دروس و انحطاط کا حال ظاہر ہے۔ علم و تقویٰ کی بجائے القاب پر زور ہے۔ جس قدر علم کم ہوگا، اسی قدر جہود بڑھے گا۔ لوگ دوسروں کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت کے لحاظ سے اسے کوئی واجب کہے یا مباح، لیکن ہے تو ایک لاعلمی کا کرشمہ! اسی لیے اس دور میں سارا زور القاب پر آ گیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششوں کے بعد اعتقادی بدعات کی جگہ عملی بدعات نے لے لی۔ موت اور شادی کے مواقع پر ہنود سے یہ رسوم اور بدعات مستعار لے لی گئیں، حکومتوں کے ایوانوں سے لے کر غریب کی جھونپڑیوں تک یہ اندھیرا چھا گیا۔ علماء کا کام بھی محض حیل کی تلاش رہ گیا اور شرعی احکام کو نالمانفہ کی انتہا قرار پا گئی۔ آخری دینی کوشش فتاویٰ عالمگیری کی تدوین ہے۔ وہ بھی آخر یہی کہ مخصوص آراء کو جمع کر دیا گیا اور حکومت کی سرپرستی سے اسے اعتماد کی صورت حاصل ہو گئی۔

حافظ ذہبی کی زبان سے اپنے وقت اور اپنے ماحول کے جمود اور تقلیدِ معین کا شکوہ آپ سن چکے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ۷۴۸ھ میں ہوا۔ اسی دور کے متعلق حافظ ذہبی نے شکایت فرمائی ہے کہ لوگ تحقیق کی بجائے تقلید کی طرف زیادہ مائل ہیں، اپنی تحقیق اور اپنے علم پر اعتماد کی بجائے دوسروں کے فہم پر اعتماد اور دوسرے کے سہارے پر زندہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے اگر دماغی قوی اور قوتِ فکر اور شعور کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ اپنا عمل چھوڑ دے گی اور معطل ہو کر رہ جائے گی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ائمہ سلف کے بعد علم اور تفقہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ کتابت اور تذکروں نے حافظوں کو کافی

حد تک کمزور کر دیا ہے۔ محدثین کے حافظوں کا ذکر کیا جائے تو لوگ اسے افسانہ سمجھتے ہیں۔ فقہاء کی دور اندیشیوں اور نکتہ دانی کا تذکرہ آجائے تو خواص امت تک حیرت میں کھو جاتے ہیں۔ یہ ساری مصیبت جمود نے پیدا کی۔ بڑے بڑے ہوشمند اہل علم احساس کتری میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اس عمومی ابتلا کے باوجود جمود بندرتج اذہان پر چھا گیا ہے۔

اس زمانے میں ایسے بزرگ بھی ملیں گے جو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی سمجھ سے سوچتے ہیں، منقولات کے فہم میں انھیں اپنے علم اور اپنی فراست پر بجا طور پر اعتماد ہے اور کسی کی تقلید کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

تذکرۃ الحفاظ:

حافظ ذہبی نے فن رجال میں دو کتابیں لکھی ہیں: میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ۔ میزان میں تو عموماً ضعیف اور مجروح روادے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کی چار جلدیں ہیں، جن میں حفاظ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ان کے اکیس طبقات ہیں۔ پہلی اور دوسری جلد میں دس طبقات کا ذکر ہے۔ تیسری اور چوتھی میں گیارہ طبقات مرقوم ہیں۔ کل اکیس طبقات ہوئے۔ اور ان میں تقریباً گیارہ سو انیس ائمہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض ائمہ کا ذکر ضمناً آیا ہے اور بعض کا تذکرنا ذکر فرمایا ہے۔ اس تعداد کے علاوہ حافظ ذہبی نے التزام سے تو نہیں فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کے مسلک کا ذکر کریں گے، لیکن چونکہ ائمہ حدیث کے تذکرے میں یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، اس لیے وہ تذکرنا کہیں ذکر فرما جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ تقلید نہیں کرتے تھے، فلاں بزرگ اہل الرائے کو پسند نہیں کرتے تھے، فلاں بزرگ نے اپنے علاقے میں اہل اثر کے مذہب کو رواج دیا۔

”تذکرۃ الحفاظ“ پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی کے زمانے (۷۴۸ھ) تک ایسے لوگ موجود تھے جو شخصی تقلید اور جمود سے پرہیز کرتے

تھے۔ کتاب اور سنت کو براہ راست سلفِ امت صحابہ اور تابعین کی طرح سمجھنے اور سوچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تہلیل اور جمود کی تنگ دامانوں سے وہ اپنا دامن بچائے رکھتے تھے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں کافی تھے اور پھر یہ لوگ بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ لوگ اساتذہ تھے، لوگ ان سے علم سنت پڑھتے اور سیکھتے تھے۔

ایک مختصر سی فہرست بقید سنین ذکر کی جاتی ہے۔ یہ فہرست ”تذکرۃ الحفاظ“، ”البدیع الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی“ اور ”النتاج المکمل للنواب صدیق حسن خاں“ سے منقول ہے، اس سے دو چیزوں کی وضاحت مقصود ہے:

① اول یہ کہ یہ نظریہ نیا نہیں۔ بڑے نقول اور اکابر اہل علم نے تہلیل سے پرہیز اور ائمہ سلف کی راہ کو پسند فرمایا ہے۔

② دوسرے یہ کہ تہلیل شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، بلکہ ہر دور میں اہل علم تحقیق و تمسک کے طلبگار رہے۔ اس مسلک کے لیے ”وہابیت“ کا عنوان بڑا جھوٹ ہے۔ وہابیوں کا مرکزی مقام نجد اور حجاز ہے، لیکن وہ لوگ اکثر حنبلی ہیں۔ خال خال ان میں سلفی بھی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن حضرات نے فن حدیث کی تحصیل ہندوستان سے کی یا پھر حافظ شوکانی اور علامہ حیات سندھی سے علم حدیث کا استفادہ فرمایا، گویا وہابیوں کو بھی سلفیت یا ہندوستان سے ملی یا یمن اور حجاز سے۔ تعجب ہے آج کل کے بعض اکابر علمائے دیوبند بھی اس لقب کے استعمال میں غلط بیانی سے نہیں ڈرتے۔ بریلوی انہیں وہابی کہتے ہیں، وہ اس کا اشتقاق الحمد للہ سے لیتے ہیں!

تیسری صدی تک تو اتفاق ہے کہ تہلیل ائمہ کی پابندی کا رواج نہ تھا، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اس کا عام رواج چوتھی صدی کے بعد ہوا، لیکن محققین ائمہ کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ اس وقت بھی بند نہیں ہوا، اس لیے امام ذہبی کئی ائمہ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے، کہیں فرماتے ہیں: ”کان لا یقلد

أحدًا^۱ کہیں فرماتے ہیں: "لم يكن يعلم أهل الرأي" وغیر ذلك
ائمہ محققین کی فہرست مع قید سنین:

① بقی بن مخلد (۲۰۶ھ)	② احمد بن عاصم (۲۸۷ھ)
③ قاسم بن محمد اندلسی (۲۷۶ھ)	④ حافظ ابن خزیمہ (۳۱۰ھ)
⑤ علامہ ابن المنذر (۳۱۸ھ)	⑥ حسین بن محمد سخی (۳۱۵ھ)
⑦ حافظ ابو یعلیٰ (۳۳۶ھ)	⑧ حسن بن سعد قرطبی (۳۳۱ھ)
⑨ ابن شاپین (۳۸۵ھ)	⑩ حافظ محمد بن علی ساحلی (۴۳۱ھ)
⑪ امام حمیدی (۴۸۸ھ)	⑫ محمد بن طاہر مقدسی (۵۰۷ھ)
⑬ امام عبدری (۵۴۳ھ)	⑭ ابو زرعہ بن محمد (۵۶۶ھ)
⑮ حافظ ابن الرومیہ (۶۳۷ھ)	⑯ شیخ الاسلام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)
⑰ الحافظ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس (۸۱۷ھ)	⑱ محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی (۷۳۵ھ)
⑲ شیخ شہاب الدین (۹۵۱ھ)	⑳ سید یحییٰ بن حسین (۱۰۸۰ھ)
㉑ صالح بن محمد حمیدی مقبلی (۱۱۰۸ھ)	㉒ عبدالقادر بن علی البدری (۱۱۶۰ھ)
㉓ سید محمد بن اسماعیل امیر یمنی (۱۱۸۲ھ)	

ان ائمہ کے اسمائے گرامی اور سنین و فیات پر توجہ فرمائیے اور غور کیجیے کہ یہ
حضرات ترک تقلید کے باوجود امام ہیں۔ ہم اور آپ نقل احادیث میں ان کے علوم
سے استفادہ کرتے ہیں۔ حدیث کے دفاتر میں ان کی نقل پر اعتماد کرتے ہیں،
استدلال اور فقہی فروع کے ماخذ میں انہی کے علم پر یقین کرتے ہیں۔ پھر آج اگر کوئی

① تذکرۃ الحفاظ (۱/۳۰۵، ۲/۶۳۰، ۳/۷۸۲)

② تذکرۃ الحفاظ (۳/۸۱) ولفظہ: "وكان لا يحدث أهل الرأي إلا بعد الجهد"

شخص ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم سے کسی امام کی کلی طور پر تقلید نہ کرے تو اکابر اہل علم کی نظر میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ بریلی اور دیوبند والے اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے القاب سے ان لوگوں کو یاد فرمایا جاتا ہے۔ یہ مسلک بھی اپنی قدامت کے لحاظ سے ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کے مسالک سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ ان حضرات نے اپنے مسالک میں ائمہ حدیث ہی سے استفادہ کیا ہے۔

جہاں تک تاریخی شہادت کا تعلق ہے، خراسان، ایران، یمن، الجزائر، بربر اور اقصائے مغرب میں ابتداءً ائمہ حدیث ہی کا مسلک رائج تھا۔ موجودہ فقہی مسالک کو بذریعہ حکومت یا دوسری وجوہ سے غلبہ حاصل ہوا۔ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مختلف ممالک میں کیسے اور کن وجوہ سے مختلف مسالک رائج ہوئے؟

مقدمہ ابن خلدون اور المواعظ والا اعتبار بذکر الخطط ولاقام مقررزی میں صفحہ (۱۳۱) سے صفحہ (۱۶۳) تک شیعہ سنی مذاہب کی اشاعت اور ان کے مناقشات کا مبسوط تذکرہ ملتا ہے، اور ان وجوہ پر روشنی پڑتی ہے جن سے مروجہ مذاہب کی اشاعت ہوئی۔ مقررزی نے ان ائمہ اور بادشاہوں کا نام بہ بنام اور سنین کے حساب سے تذکرہ کیا ہے جن کی معرفت مروجہ مذاہب کا رواج ہوا، اس کے ساتھ ہی شیعہ حضرات اور ان کے تشدد کا بھی ذکر کیا ہے، جو اپنے مسلک کی اشاعت میں مصر اور اس کے اطراف میں ان سے ظاہر ہوا، اس سے سلف کے مسلک کی قدامت اور غربت کے وجوہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

اندھیرے میں روشنی کی کرن:

بارہویں صدی ہجری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص وقت معلوم ہوتا ہے، اس ماحول میں دنیائے اسلام میں ایک بیداری محسوس ہو رہی ہے، ان محیط اندھیروں میں کہیں کہیں اور کبھی کبھی روشنی سی نمودار ہوتی ہے۔

عرب میں نجدی تحریک پیدا ہوئی، جس کی قیادت شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رضی اللہ عنہ

نے فرمائی۔ ایران میں سید جمال الدین افغانی نے صورت پھونکا، جس کی آواز مصر، اسکندریہ اور قسطنطنیہ تک پہنچی۔

تقریباً تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کی قسمت جاگی اور رشد و ہدایت کی سونٹی ہوئی طاقتوں نے انگڑائی لی، اس کی بیداری کا آغاز سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے گیارہویں صدی ہجری میں فرمایا۔ بدعات کے خلاف کھلی جنگ لڑی۔ بدعت کی تقسیم کا حیلہ عز بن عبدالسلام کے وقت سے آرہا تھا۔ لوگ بدعت کو حسد کہہ کر جواز کی راہ پیدا کر لیتے تھے، حضرت مجدد نے اسے تار تار کر دیا اور فرمایا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت کو ناپسند فرماتے ہیں تو اسے حسد کہنے کا حق کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔ شرعاً کوئی بدعت حسد نہیں کہلا سکتی۔ سنت سے محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی سچی دلیل ہے۔ بدعتی کتنا ہی عابد و زاہد ہو، بارگاہِ نبوت میں وہ کسی احترام کا مستحق نہیں!

مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی نتائج و عواقب کے لحاظ سے آج کی مصطلح تحریکات سے کہیں زیادہ ہمہ گیر اور مؤثر تھیں۔

حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اصطلاحی^① تحریک نہیں چلائی، جس کے بزرگ صدر یا سربراہ ہوں، اس کی مجالس کا جال ملک میں پھیلا ہو، جس کے ممبر اور اعوان و انصار کسی عرفی تنظیم کے ماتحت کام کر رہے ہوں، بلکہ ان میں ہر ایک اپنے وقت میں ایک مینار ہے، جس سے خود بخود روشنی پھیلتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کسی عہدے اور عرفی نظم کے بغیر ان تاثرات کو پھیلا یا جاتا ہے اور وہ اس سرعت سے پھیلتے ہیں کہ کوئی عرفی تحریک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اس لیے ان گزارشات میں اگر کہیں تحریک کا لفظ آجائے تو اس سے مراد آج کی انجمن

① دیکھیں: مکتبہ دارالحدیث، مجددیہ (۱/ ۴۱)

② مولانا عبد اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مصطلح تحریک کا بانی قرار دیا ہے، یہ ان کا محض حضری تخمیل ہے اور بالکل بے دلیل و نام۔ [مؤلف]

سازی اور اسی قسم کی اصطلاحی تحریک نہیں ہوگا، بلکہ پرانا مفہوم ہوگا جس میں ایک شخص ایک سچائی کو لے کر اٹھتا ہے، پروانے خود بخود شمع کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور روشنی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وقت کے اسباب و وسائل اپنی بساط کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ میری دانست میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تک کام کی نوعیت یہی رہی۔ ایک سپاہی کے دل میں ذمے داری کا احساس اور مقاصد کی تحصیل کے لیے اتنا ہی درو تھا، جس قدر کسی بڑے سے بڑے عہدے دار کو ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہی کامیابی کا راز ہے۔

ولی اللہی تحریک کا مزاج:

اس تحریک کے اہم عناصر مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت مرزا مظہر جان جاناں، حضرت مولانا فاخر الہ آبادی، آزاد بلگرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ، مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا شاہ رفیع الدین، مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا شاہ عبدالغنی، حضرت سید احمد شہید، مولانا شاہ اسماعیل، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا عبدالحی بڑھانوی۔ ان میں بعض علما حنفی ہیں، لیکن عقیدہ تا اہل حدیث، بعض عمل و عقیدہ دونوں میں حنفی، بعض دونوں میں اہل حدیث، لیکن اس اختلاف کی نمائش ان حضرات نے کبھی نہیں فرمائی۔

قاضی ثناء اللہ صاحب کا تفسیر مظہری میں رجحان فقہ حنفی کی طرف ہے، لیکن بدعت کی مخالفت میں کوئی چلک نہیں۔ ارشاد الطالین میں قبر پرستی اور قبور پر چرغاں اور انھیں چونا گچ کرنے کے متعلق ان کی رائے بہت واضح ہے۔ آج کے ارباب دیوبند کی طرح ان میں چلک اور مہانت نہیں۔ آج بعض اکابر دیوبند کے افکار کا رجحان زیادہ تر بریلویت کی طرف ہے۔ وہ اہل توحید اور اصحاب سنت سے زیادہ اہل بدعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ورسولہ أحق أن یرضوه إن كانوا مؤمنین۔

ان حضرات کے مقاصد کا تجزیہ:

- ① حقیقت کے باوجود یہ حضرات فقہی جمود اور عصبيت کو قطعاً ناپسند کرتے ہیں۔
- ② ائمہ کے اختلافی مسائل میں یہ حضرات وسیع القلب ہیں۔ کسی طرح بھی عمل کیا جائے، انھیں ناگوار نہیں ہوتا۔
- ③ بدعات کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خلاف سخت انکار فرماتے ہیں۔
- ④ شیعہ حضرات سے سمجھوتے کے قائل نہیں، تاوقتیکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق وہ اپنی رائے بالکل یہ نہ بدل لیں۔ مجدد صاحب کے رسائل اور "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" (از شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی) اور تحفہ اثنا عشریہ (شاہ عبدالعزیز دہلوی) اس کے شاہد ہیں۔ ان کتابوں میں شیعہ حضرات پر انتہائی عقول تنقید فرمائی ہے، براہمت نہیں کی۔

⑤ تصوف سے بہت متاثر ہیں، لیکن اس راہ کی بدعی رسوم سے انتہائی متنفر۔

- ① وہ اہل سنت کے دو فریق سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث اور اہل الرائے دونوں اہل سنت ہیں، لیکن شاہ صاحب فقہائے اہل حدیث کی راہ کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ آئندہ ان شاء اللہ آئے گا۔

شیخ ابو منصور عبدالقادر دمشقی نے بھی "الفرق بین الفرق" میں متعدد مقامات پر اہل حدیث اور اہل الرائے دونوں کو اہل سنت قرار دیا ہے۔^① علامہ عبدالکریم شہرستانی کا بھی یہی حال ہے۔

- ④ یہ جماعت سیاسی سربراہی کی خواہش مند نہیں، لیکن اگر لادینییت برسر اقتدار آنا چاہے یا آجائے تو وہ ایسے سیاستین سے جہاد کرنا پسند کرتے ہیں، جھکنا گوارا نہیں کرتے۔

① دیکھیں: الفرق بین الفرق (ص: ۲۹۹)

حضراتِ دہلی کے نظریات:

شاہ صاحب امت میں دو جماعتوں کی روش کو فی الجملہ صحیح سمجھتے ہیں، غلو کو ناپسند کرتے ہیں اور کسی کے لیے شخصی طور پر تعصب پسند نہیں فرماتے:

”باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتویٰ بر دو وجہ بودند، یکے آنکہ قرآن و حدیث و آثار صحابہ جمع می کردند و از انجا استنباط می نمودند و این طریقہ اصل راہ محدثین است و دیگر آنکہ قواعد کلیہ کہ جمعی از ائمہ تنقیح و تہذیب آں کرده اند با گیرند بی ملاحظہ ماخذ آنها، پس ہر مسئلہ کہ دردی شد جواب آں از ہاں قواعد طلب می کردند و این طریقہ اصل راہ فقہاء است و غالب بر بعض سلف طریقہ اولی بود و بر بعض آخر طریقہ ثانیہ“ (ص ۱۰۱/۲)

”سلف میں استنباط مسائل کے متعلق دو طریق تھے۔ پہلا یہ تھا کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ جمع کیے جائیں اور انہیں اصل قرار دے کر پیش آمدہ مسائل پر ان کی روشنی میں غور کیا جائے۔ یہ محدثین کا طریق ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ائمہ کے متفق اور مہذب کیے ہوئے قواعد کلیہ کو اصل قرار دیا جائے اور پیش آمدہ مسائل کا حل انہیں سے تلاش کیا جائے اور اصل ماخذ کی طرف توجہ کی ضرورت نہ سمجھی جائے۔ یہ فقہاء کا طریقہ ہے۔ سلف سے ایک کثیر گروہ پہلے طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا۔“

پھر ان دونوں طریقوں کی تفصیل اور ان کے طریق عمل کی پوری وضاحت جتہ اللہ البالغہ میں فرمائی ہے۔ حدیث کی جمع و کتابت پھر تدوین و تالیف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر فقہائے محدثین کا تذکرہ فرمایا ہے:

”فرجع المحققون منهم، بعد إحکام فن الروایة و معرفة مراتب الحدیث، إلى الفقه، فلم یکن عندهم من الرأی أن یجمع علی

تقلید رجل ممن مضى مع ما يرون من الأحاديث والآثار المتناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب، فأخذوا يتبعون أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين

على قواعد أحكموها في نفوسهم“ (حجۃ اللہ البالغۃ: ۱/ ۱۱۹)

”محققین اہل حدیث نے فنِ روایت میں پختگی اور مراتبِ حدیث سے پوری معرفت پیدا کی اور فقہ کی طرف توجہ کی، لیکن ان کا یہ طریق نہ تھا کہ اس معاملے میں گذشتہ بزرگوں سے کسی خاص شخص کی تقلید پر اتفاق کر لیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان مروجہ مذاہب میں احادیث اور آثار متناقضہ موجود ہیں، اس لیے انہوں نے احادیث اور ائمہ مجتہدین کے علوم پر اپنے قواعد کی روشنی میں غور کیا۔“

اس کے بعد شاہ صاحب نے مختصر طور پر محدثین کے ان قواعد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جو ان کے نزدیک تطبیقِ بینِ الخصوص یا استنباطِ مسائل کے لیے معیار ہیں۔ یہ قواعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کی تعمیل میں مرتب کیے گئے ہیں۔

قاضی شریح فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا:

”اگر کوئی مسئلہ اللہ کی کتاب میں مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو

اور کسی کے کہنے پر اس سے صرف نظر مت کرو۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کرو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر مسئلہ

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں میں نہ ہو تو لوگوں کے عمومی عمل کو دیکھو

اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر کوئی معاملہ ان تینوں طریقوں سے طے نہ

ہو سکے تو اس کا فیصلہ یا تو اجتہاد سے کرو یا پیچھے ہٹ جاؤ، اور میری دانست

میں تاخیر زیادہ مناسب ہے۔“ (داری)

دوسرے گروہ (اہل الرائے) کے ذکر میں فرماتے ہیں:

”یہ لوگ سوالات کی کثرت اور فتوؤں سے نہیں گھبراتے، لیکن حدیث کی روایت سے گھبراتے ہیں۔ کہیں الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے، ان کا خیال ہے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہے، اس کی اشاعت ضروری ہے۔“^①

آخر میں فرماتے ہیں:

”ان حضرات کی نظر میں فقہ، حدیث اور مسائل کی تدوین دوسرے طریق سے ہوئی، کیونکہ ان کے پاس حدیث اور آثار کا سرمایہ اس قدر نہیں تھا جس کی بنا پر وہ ان اصولوں پر اعتماد کر سکتے جن پر علمائے اہلحدیث نے اعتماد کیا ہے، نہ مختلف ممالک کے سابقہ علماء کے اقوال ان کی نگاہ میں تھے، جس سے شرح صدر کے ساتھ استنباط کرتے۔ اپنے اکابر پر انھیں بے حد اعتماد تھا، اس لیے وہ ان کے طے کردہ اصولوں پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ غرض یہ حضرات استنباط میں کتاب و سنت کی جگہ اپنے گذشتہ بزرگوں کے ارشادات پر اعتماد کرتے اور انہی کی روشنی میں مسائل کو حل فرماتے۔“^②

اس دور کے بعد معاملہ اور بھی بگڑ گیا اور ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا جس کا تذکرہ شاہ صاحب ان لفظوں میں فرماتے ہیں:

”ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد، ودب التقليد في صدورهم

دیبیب النمل، وهم لا يشعرون“ (حجة الله البالغة: ۱/ ۱۲۳)

”وہ لوگ تقلید پر مطمئن ہو گئے اور تقلید ان کے رگ دریشے میں پیوست ہو گئی۔“

شاہ صاحب نے اس انحطاط کی متحدہ وجوہ لکھی ہیں:

① فقہا کا باہم اختلاف اور مزاحمت، جس کا انقطاع کسی پہلے بزرگ کے حوالے کے

① حجة الله البالغة (۱/ ۳۶)

② مصدر سابق

بغیر نہ ہو سکا۔

❖ روسا کی جہالت اور علما کا حدیث اور تخریج سے نا آشنا ہونا۔

❖ دور از کار فرضی مسائل میں تعمق، وغیر ذلک۔

اس کے نتائج کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”اس کے نتیجے میں جہالت، اختلاط، شکوک اور اوہام پیدا ہو گئے، جس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہی۔ پھر مدتوں خالص تقلید ہی ان کا شیوہ رہا اور حق و باطل کا امتیاز جاتا رہا۔ فقیہ محض جھگڑے اور باتیں بنانے کا نام رہ گیا اور محدث چند غلط سلسلہ احادیث نقل کر دینے کا نام رہ گیا۔“

آخری الفاظ سنئے:

”ولم یأت قرن بعد ذلك إلا هو أكثر فتنۃ، وأوفر تقلیداً، وأشد انتزاعاً للامانة من صدور الرجال، حتی اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين، ویأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا علیٰ أمة وإنا علیٰ آثارهم مقتدون، وإلی اللہ المشتکی“ (حجة الله البالغة: ۱/۱۳۳)

ان تصریحات کا نتیجہ:

❶ اہل حدیث اور اہل الرائے دونوں مکتب فکر ہیں اور دونوں اہل علم میں رائج ہیں۔

❷ شاہ صاحب کے خیال میں اہل حدیث اور اہل الرائے اس آخری دور میں اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں۔

❸ متاخرین اہل الرائے میں استدلال اور استنباط کی بجائے تقلید اور جمود آ گیا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی نظر میں نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

❹ اہل حدیث نے بھی حدیث کی طرف بے توجہی کی ہے۔ وہ تقریباً اسے ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں۔ استنباط اور اجتہاد کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے اور نہ فقہ کی کوشش کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کا مقصد:

شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ دونوں گروہ حقیقت پسندی سے کام لیں۔ اہل الرائے اکابر کی بجائے کتاب و سنت کو اساس قرار دیں اور اہل حدیث ظاہریت سے بچ کر فقہ سے کام لیں۔ ملاحظہ ہو: تہمیرات (۱/۲۰۹):

”ومنها: إني أقول لهؤلاء الممنين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح، وقد ذهب إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين، ولا يمنعهم إلا التقليد لمن يذهب إليه، وهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم وأئمة أهل، الدين إنهم جميعاً على مفاهة وسخافة رأي وضلالة، وإن الحق بين بين“

”میں ان نام کے فقہاء سے کہتا ہوں جن میں تقلید کی وجہ سے انتہائی جمود آچکا ہے کہ جب ان کو صحیح حدیث پہنچتی ہے، جو اُمت میں معمول بہا ہے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کی تقلید کی وجہ سے یہ حدیث جن کے مسلک کے خلاف ہے، اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان ظاہری حضرات سے بھی کہتا ہوں جو ائمہ دین اور چوٹی کے فقہاء کا انکار کرتے ہیں، تم دونوں فریق غلط راہ پر جا رہے ہو۔ یہ کم فہمی کی راہ ہے اور حق ان دونوں کے بین بین ہے۔“

دونوں فریق پر کس صاف گوئی سے تنقید فرمائی اور جمود توڑنے کے لیے کس قدر واضح راہ بتلائی ہے؟ رحمہ اللہ رحمة واسعة.

اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں:

”وأشهد لله بالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطئ ويصيب أن الله كتب علي اتباعه حتماً، وأن الواجب

علیٰ ہوالذی یوجبه هذا الرجل، وإن الشریعة الحقة قد ثبت
قبل هذا الرجل بزمان... الخ“ (تفہیمات: ۱/۲۳۱)

”میں اللہ کے نام سے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ امت کے کسی آدمی کے
بارے میں، جو خطا اور ثواب دونوں کا مرتکب ہو سکتا ہے، یہ خیال کرنا کہ اسی کا
اتباع واجب ہے اور جسے یہ واجب کہے وہی امر واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ کفر کے برابر ہے، کیونکہ شریعت اس شخص سے کہیں پہلے موجود ہے۔“
شاہ صاحب نے یہاں تھلید شخصی اور جوہد کو کفر باللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ کسی شخص
کے حق کو اس مسئلے میں تسلیم نہیں فرماتے۔ تھلید سے جو ذہنی انقباض ہوتا ہے اور قوت لکھ
کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے متعلق اور کھل کر فرماتے ہیں:

”وترى العامة سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من
مذاهب المتقدمين، يرون خروج الإنسان من مذهب من قلده،
ولو في مسألة، كالخروج من الملة، كأنه نبي بعث إليه،
وافترضت طاعته عليه، وكان أوائل الأمة قبل المائة الرابعة
غير متقيدين بمذهب واحد“ (تفہیمات: ۱/۱۵۱)

”ہر علاقے میں عوام ائمہ متقدمین سے کسی نہ کسی مذہب کے مقلد اور پابند
ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں وہ اختلاف کرنا نہیں چاہتے، گویا وہ امام نبی ہے اور ان
پر اس کی اطاعت واجب ہے، حالانکہ چوتھی صدی سے پہلے یہ حالت نہ تھی۔“
تفہیمات (۱/۲۱۳) میں لہجہ ذرا اور سخت ہو گیا، اس میں صوفیوں اور علما کا تذکرہ
اس جلال سے فرماتے ہیں:

”نحن لا نرضى بهؤلاء الذين يباعدون الناس ليشتروا به ثمناً
قليلاً أو يشربوا أغراض الدنيا، إذ لا تحصل الدنيا إلا بالثب
بأهل الهداية، ولا بالذين يدعون إلى أنفسهم، ويأمرون بحسب

انفسہم، هؤلاء قطع الطريق، دجالون کذابون مفتونون فتنون،
ایاکم وایاہم، ولا تتبعوا إلا من دعا إلى کتاب اللہ وسنة رسوله،
ولم يدع إلى نفسه“

”ہم نہ تو ان صوفیوں کو پسند کرتے ہیں جو دنیا کے لیے لوگوں سے بیعت
لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کمانے کے لیے بھی اصحاب ہدایت سے مشابہت
ضروری ہے، اور نہ ان علما کو پسند کرتے ہیں جو اپنی طرف دعوت دیتے
ہیں۔ یہ ڈاکو ہیں، جھوٹے ہیں، خود فتنے میں مبتلا ہیں، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا
چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچو اور صرف ان لوگوں کی بات قبول کرو جو
کتاب و سنت کی طرف دعوت دیں اور اپنی ذات کی طرف دعوت نہ دیں۔“
پھر طالب علموں کو مخاطب فرما کر ارشاد ہوتا ہے:

”و رب إنسان منکم یبلغہ حدیث من أحادیث نبیکم فلا یعمل
بہ، ویقول: إنما عملي علی مذهب فلان لا علی الحدیث. ثم
احتال بأن فهم الحدیث والقضاء به من شأن الکمل المہرۃ، وأن
الأئمة لم یكونوا ممن یخفی علیہم هذا الحدیث؛ فما ترکوه
إلا لوجه ظهر لهم فی الدین من نسخ ومرجوحیۃ“ (تفہیمات: 1/ 100)
”بہت سے لوگوں کو تم سے حدیث نبوی مل جاتی ہے، لیکن وہ اس پر عمل
نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: میرا عمل فلاں مذہب پر ہے۔ پھر بہانہ بناتے
ہیں کہ حدیث سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا کامل اور ماہر لوگوں کا کام
ہے اور ائمہ سے یہ حدیث پوشیدہ نہ تھی، کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی بنا پر
ائمہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔“

اس کے نتیجے میں فرماتے ہیں:

”یہ قطعاً دین کی بات نہیں۔ تم صرف آنحضرت ﷺ کی اطاعت کرو،

مذہب کے موافق ہو یا مخالف، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم کتاب و سنت کی اطاعت کرو۔“ ارنلڈ

بظاہر شاہ صاحب فقہ حنفی سے مانوس ہیں، ان کا خاندانی مسلک عام طور پر فقہ عراقی ہے، لیکن شاہ صاحب چونکہ جمود اور اس توقیفی فقہ سے بیزار ہیں، اس لیے اس فقہی نظام پر بھرپور وار کرتے ہیں۔ ”قرۃ العینین“ میں شیخین (حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کے محاسن میں فرماتے ہیں کہ دراصل اختلاف شیخین کے بعد شروع ہوا:

”گویا اصل مذاہب اربعہ اجماعیات شیخین افتادہ، اما اس نخن یکے کہ سرمایہ علم ادب جز قدوری و وقایہ باشند نتواں گفت.“ (قرۃ العینین، ص: ۱۳۳)

”مذاہب اربعہ میں اجماعی مسائل شیخین ہی کے مرہون منت ہیں، لیکن یہ بات ان حضرات کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کے علم کا کل سرمایہ قدوری اور وقایہ ہے۔“

دوسرے مقام پر اسی انداز سے فرماتے ہیں:

”اس نکتہ کے کہ سرمایہ فقہ اور شرح وقایہ و منہاج باشند نے تو اند دانست آں را عالی تبحر باید“ (ص: ۱۳۵)

”یہ نکتہ شرح وقایہ اور منہاج وغیرہ پڑھنے والے فقہاء کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے تبحر عالم کی ضرورت ہے۔“

شاہ صاحب کا فٹنہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ متون و شروح فقہ کو جو اعتماد و تفوق حاصل ہوا ہے، وہ ائمہ اور ان کتب کے مصنفین کے ساتھ محبت اور ان کے علوم پر یقین سے حاصل ہوا ہے۔ دراصل یہ اعتماد صحابہ اور خصوصاً شیخین پر ہونا چاہیے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ.

بالکل اسی انداز سے یہ تذکرہ ”إزالة الخفاء“ میں آیا ہے۔ شاہ صاحب کی نظر میں یہ فقہی نظام اور یہ تقلید محض شخص کو ششیں ہیں، انھیں اساسی طور پر کوئی اہمیت نہیں۔

اس کے وجوب اور فرضیت کی بحث بے معنی اور لا حاصل ہے۔ یہ بزرگ عالم تھے، ان کے علوم سے ممکن طور پر استفادہ کرنا چاہیے۔

اس قسم کی تصریحات حجۃ اللہ البالغہ کے کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حجۃ اللہ میں کھیمات کے بعض جمل مضامین کی تفصیل اور شرح ہے۔

أصول فقہ:

اس میں شک نہیں کہ اصول فقہ کی تاسیس اور تدوین علمائے اہلحدیث خصوصاً امام شافعی نے فرمائی ہے، اور عموماً اصول قرآن و حدیث اور لغت عرب اور عقل سلیم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ امام شافعی کے اس شاہکار کا تذکرہ ابجد العلوم نواب صدیق حسن خاں مرحوم، کشف الظنون للکاتب الحلبي، فہرست ابن ندیم وغیرہ میں ملتا ہے۔^① شاہ ولی اللہ نے بھی یہ تذکرہ حجۃ اللہ (۱/ ۱۱۷) وغیرہ تصانیف میں فرمایا ہے۔

ویسے اصول فقہ اور اصول حدیث کی حیثیت منطوق کی ہے۔ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اصول حدیث اور فقہی جزئیات کی تخریج میں اصول فقہ کو وہی مقام حاصل ہے جو معقولیات میں منطوق کو۔ اس فن کی تاسیس گو امام شافعی ہی نے فرمائی ہے، لیکن فقہائے حنفیہ کی خدمات اس فن میں قابلِ تعریف ہیں، بلکہ اس فن کی بدولت انہوں نے بانی فن امام شافعی پر بھی بعض مقامات پر کڑی تنقید کی ہے، اور سچ یہ ہے کہ فقہ کا کام اور خوبی اصول فقہ ہی سے ہے۔ شاہ صاحب نے فقہ کے ساتھ اصول فقہ پر بھی تنقید فرمائی ہے اور اس بھرم کی حقیقت کھول دی ہے۔

”قرة العینین“ (ص: ۱۸۶) میں فرماتے ہیں:

”و حنفیان برائے احکام مذهب خود اصلے چند تراشیدہ اند

(۱) المخاص بین فلا یلحقہ البیان (۲) العام قطعی کالخاص

(۳) المفہوم المخالف غیر معتبر (۴) الترجیح بکثرة الرواۃ غیر

معتبر (۵) الزیادۃ علی الكتاب نسخ“

① أبجد العلوم (۷۲/۲) کشف الظنون (ص: ۸۴۰)

”اور احناف نے مذہب کی پختگی کے لیے کچھ اصول تراشے ہیں، مثلاً خاص میں ہے، اسے بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی خاص کی طرح قطعی الدلالت ہے۔ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ کتاب اللہ پر زیادت کتاب کا نسخ ہے۔“

بعینہ اسی انداز سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ عزیزی (ص: ۶۲) میں کسی قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا لہجہ شاہ ولی اللہ صاحب سے زیادہ سخت ہے:

”ومن اللطائف التي قلما ظفر بها جدلي. كحفظ مذهبه ما اخترعه المتأخرون لحفظ مذهب أبي حنيفة، وهي عدة قواعد يردون بها جميع ما يحتج بها عليهم من الأحاديث الصحيحة“

”متاخرین کے چند گھرے ہوئے قواعد حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب کی حفاظت کے لیے جو دنیا کے عجائبات سے ہیں۔ ان قواعد کی بدولت وہ تمام صحیح احادیث کو رد کر دیتے ہیں، جو ان کے مذہب کے خلاف ہوں۔“

اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب نے تقریباً نو قواعد کا ذکر فرمایا ہے جن میں بعض تو وہی ہیں جن کا تذکرہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے۔ میں نے بسط اور اظہار سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا ہے۔ طالب حق کو فتاویٰ عزیزی (۱/۶۲) کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حجتہ اللہ البالغہ میں کئی جگہ اصول فقہ پر شاہ صاحب نے کڑی تنقید فرمائی ہے، لیکن ”باب حکایة حال الناس بعد المانة الرابعة“ میں تقلید اور اس کے شیوع کی بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وبعضهم يزعم أن بناء المذاهب على هذه الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذلك، ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة“ (۱/۱۲۸)

”بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذاہب کی بنیاد ان مناظرانہ محاورات پر ہے جن کا ذکر مبسوط سرخسی، ہدایہ اور تبیین میں ہے، اور یہ بیچارے نہیں جانتے

کہ دراصل ان جدلیات کے بانی معتزلہ ہیں۔“

اس کے بعد اصولی فقہ کے متعدد قواعد اور ان کا حدیث کے انکار میں جو اثر پڑتا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ پھر پورے جلال کے ساتھ ان قواعد پر معارضات عائد فرمائے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ احناف خود بھی ان قواعد کے پابند نہیں۔ یہ بحث کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ حق پسند طالب علم کو ان مقامات کا مطالعہ پورے غور سے کرنا چاہیے۔

اس وقت گزارش کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب جس طرح فقہی جزئیات کو دین اور شریعت نہیں سمجھتے، اسی طرح وہ اصولی فقہ کو بھی لازوال اور دائمی نہیں سمجھتے۔ یہ محض علمی کوششیں ہیں، جو علمائے اپنے مسالک کو بچانے کے لیے کی ہیں، نہ فروع کے انکار سے کفر لازم آتا ہے نہ اصولی فقہ کے انکار سے دیانت میں خلل لازم آتا ہے۔

فروع کے متعلق شاہ صاحب کی روش:

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے رفقا عقائد، اصول اور فروری مکاتب فکر کے التزام میں کسی طرح جمود کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی پابندی کے بغیر مذاہب اربعہ اور ائمہ حدیث کے مسائل پر عمل کیا جائے۔ بظاہر حنفی ہونے کے باوجود وہ محدثین اور شوافع کے معمولات کو ترجیح دیتے اور پسند فرماتے ہیں۔

اس وقت ابنائے دیوبند سے بڑی کثرت شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ انتہائی عقیدت کا اظہار کرتی ہے، مگر ان کی روش اور ان کا عمل شاہ صاحب، ان کے رفقا اور خاندان کے نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ آج کا دیوبند، بریلویت سے چنداں مختلف نہیں۔ اختلافات لفظی قسم کے رہ گئے ہیں۔

آگے آنے والی گزارشات سے معلوم ہوگا کہ شاہ صاحب فروع میں کس قدر وسیع نظر تھے اور دیوبند کی موجودہ پود میں کس قدر تنگ نظر فی اور انقباض ہے؟ وہ اپنے خلاف کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتے اور شاہ صاحب شافعی مکتب فکر پر عمل سے پرہیز نہیں فرماتے۔

حدیثِ قلین:

پانی کی طہارت کے متعلق شوافع اور احناف میں بے حد اختلافات ہیں۔ قلین کی حدیث کو ان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ احناف اسے مضطرب فرماتے ہیں۔ شوافع اسے صحیح سمجھتے ہیں اور معذرت فرماتے ہیں کہ قدمائے احناف اور ممالک پر ایسی احادیث تھی رہیں یا فہم مراد میں ان حضرات سے تسامح ہوا۔

”ومثاله حدیث القلین فإنه حدیث صحیح روی بطرق كثيرة الخ“

(حجة اللہ: ۱/ ۱۱۷)

”قلین کی حدیث صحیح اور متعدد طرق سے مروی ہے۔“

گویا طہارت کے مسائل پر اس حدیث کی وجہ سے جو شبہات واقع ہوتے تھے، شاہ صاحب ان کا فیصلہ شوافع کے حق میں دیتے ہیں اور احناف و ممالک کی طرف سے معذرت فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں یہ حدیث عام نہیں ہوئی۔

امام کے پیچھے فاتحہ:

اگر احناف اور شوافع کے نزدیک امام کی اقتدا میں سورت فاتحہ پڑھنے کے متعلق نزاع مشہور ہے۔ بیسیوں رسائل اس موضوع پر شائع ہوئے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”وإن كان مأموماً وجب عليه الإنصات والاستماع، فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكانة، وإن خافت فله الخيرة، فإن قرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب قراءة لا يشوش على الإمام، وهذا أولى الأقوال عندي، وبه يجمع بين أحاديث الباب“ (حجة اللہ: ۷/ ۲)

”مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے سنے۔ اگر امام آواز سے پڑھے تو سکرات کے درمیان قراءت کرے اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو

مقتدی جس طرح چاہے پڑھے، لیکن اس طرح پڑھے کہ امام کی قراءت میں تشویش اور پریشانی نہ ہو۔“

شاہ صاحب کے ارشادات میں اہتمال ہے۔ دونوں فریق کے تشدد کو شاہ صاحب پسند نہیں فرماتے۔

رفع الیدین اور وتر:

رکوع وغیرہ میں رفع الیدین اور ورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے:

”والحق عندی فی مثل ذلك أن الكل سنة، ونظيره الوتر برکعة واحدة وثلاث، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع، فإن حديث الرفع أكثر وأثبت غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يشير على نفسه فتنة عوام بلده“ (حجة اللہ: ۲/۸)

”میرے نزدیک حق یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں سنت ہیں، اسی طرح ایک رکعت اور تین رکعت وتر پڑھنے والا، اور رفع الیدین کرنے والا مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ ہیں اور صحیح ہیں، لیکن انسان کو ایسے اعمال کی وجہ سے اپنے خلاف ہنگامہ پنا نہیں کرانا چاہیے۔“ (خدا کا شکر ہے کہ ہنگاموں کا موسم گزر گیا)

ظاہر ہے عوام میں ان اعمال کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی تھی اور خواص اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اب وہ سلسلہ بحمد اللہ ختم ہو گیا۔

زیارت قبور کے لیے ہذا رحال:

عوام میں مروج ہے کہ بزرگوں اور استھانوں کی زیارتوں کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور حج کے شعائر کی طرح ان زیارتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”والحق عندی أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء،
والطور كل ذلك سواء في النهي، والله أعلم“ (حجة اللہ: ۱/ ۱۵۳)
”حق یہ ہے کہ قبر ولی، عبادت گاہ اور طور پہاڑ وغیرہ نبی میں برابر ہیں۔ کسی
کے لیے بالاستقلال سفر درست نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے شد رحال سے
مع فرمایا ہے۔“

زیارت پسند دیوبندی اور بریلوی حضرات اس مسئلے میں بڑی طعن آمیز گفتگو کرتے
ہیں، لیکن شاہ صاحب وہی فرماتے ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ
توحید نے فرمایا ہے۔

وضو کے نواقض:

وضو کے نواقض میں فقہاء مختلف ہیں۔ شاہ صاحب کی رائے یہ ہے:

”وأصل موجب الوضوء الخارج من السيلين، وما سوى
ذلك محمول عليه“ (حجة اللہ: ۱/ ۱۳۹)

”وضو ٹوٹنے کا اصل سبب وہی ہے جو سیلین سے نکلے، باقی اسی پر محمول ہیں۔“

وتر:

وتروں کے متعلق اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ واجب کہتے ہیں اور ائمہ حدیث
سنت۔ شاہ صاحب کی رائے یہ ہے:

”والحق أن الوتر سنة، هو أوكد السنن، بينه علي، وابن عمر
وعباد بن الصامت“ (حجة اللہ: ۲/ ۱۳)

”وتر سنتِ موکدہ ہے۔ حضرت علی، ابن عمر اور عبادہ بن صامت سے یہی
منقول ہے۔“

قنوت:

فقہائے احناف قنوت کو وتروں میں واجب سمجھتے ہیں اور شوافع صبح کی نماز میں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”واختلفت الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين في قنوت الصبح، وعندني أن القنوت وتركه سيان، ومن لم يقنت إلا عند حادثة عظيمة أو كلمات يسيرة إخفاء قبل الركوع أحب إلي، لأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على رعل و ذكوان كان أولاً، ثم ترك، وهذا وإن لم يدل على نسخ مطلق القنوت، لكنها تؤمي إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة“¹

”صبح کی قنوت کے متعلق احادیث اور صحابہ و تابعین کے مذاہب مختلف ہیں۔ (شاہ صاحب فرماتے ہیں) قنوت پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں، اور اہم حوادث پر چند کلمات پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ قبیلہ رعل و ذکوان پر بددعا ترک کر دی گئی، اس سے گو علی الاطلاق قنوت کا ترک ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ واضح ہے کہ یہ مستقل اور دائمی سنت نہیں۔“

جمع بین الصلواتین:

عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کے متعلق ائمہ میں اختلاف ہے۔ فقہائے احناف نہ جمع تقدیم کے قائل ہیں نہ جمع تاخیر کے، اور جمع صوری دراصل جمع ہی نہیں بلکہ جمع کی صورت ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے دراصل تین وقت ہیں۔ عصر ظہر سے نکال لی گئی اور عشا مغرب سے اخذ کر لی گئی، تاکہ دو نمازوں میں فاصلہ کم ہو اور خینہ سے پہلے ہی ذکر سے غفلت نہ ہو:

”فشرع لهم جمع التقديم والتأخير، لكنه لم يواظب عليه، ولم

① حجة الله البالغة (ص: ۴۳۶)

يعزم عليه مثل ما فعل في القصر“ (حجة الله: ۲/ ۸۸)

”شارع حکیم علیؒ نے جمع تقدیم اور تاخیر دونوں کی اجازت دے دی، لیکن نہ اس پر پیشگی کا حکم دیا نہ اس پر تاکید فرمائی، جیسے نماز قصر کے لیے تاکید فرمائی۔“

تکبیراتِ عیدین:

عید کی تکبیرات اور نماز عید کی ترتیب میں فقہائے اہل حدیث میں اختلاف ہے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”یکبر في الأولى سبعاً قبل القراءة، والثانية خمساً قبل القراءة، وعمل الكوفيين أن يكبر أربعاً كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية ثلاثاً بعدها، وهما ستان، وعمل الحرمين أرجح“ (حجة الله: ۲/ ۳۳)

”پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں قراءت سے پہلے (طریقہ اہل الحرمین)۔ علمائے کوفہ کا خیال ہے کہ جنازے کی طرح پہلی میں چار تکبیرات قراءت سے پہلے اور دوسری میں پانچ قراءت کے بعد، اور اہل حرمین کا عمل راجح اور بہتر ہے۔“

”دہ درود“ پانی:

فقہائے حنفیہ اور شوافع میں ماے کثیر کے متعلق اختلاف ہے۔ متاخرین فقہائے احناف اس کی مقدار ”دہ درود“ فرماتے ہیں اور شوافع قلتین بتاتے ہیں۔ پھر اگر کنواں پلید ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے ڈولوں کی مقدار کے متعلق عجیب قیاسی گھوڑے دوڑائے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”وبالجملة ليس في هذا الباب شيء يعتد به، ويجب العمل به“

(حجة الله البالغة: ۱/ ۱۴۷)

”ان مسائل میں کوئی واجب العمل اور قابل اعتماد چیز نہیں ہے۔“
پھر فرماتے ہیں:

”وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر، والشعر،
والماء الجاري، ليس في كل ذلك حديث عن النبي -صلى الله
عليه وسلم“ (حجة الله البالغة: ۱/ ۱۴۷)

”کنویں میں جانور مرنے اور وہ درودہ اور مائے جاری کے مسائل میں علما
نے طویل گفتگو کی ہے، لیکن ان میں کسی کے متعلق بھی قطعاً کوئی حدیث
نہیں ہے۔“

حجۃ اللہ: مصطفیٰ اور مسویٰ میں اور بھی کئی فروعی مسائل ہیں، جن میں شاہ صاحب
نے نہایت ہی وسعت ظرف سے اپنا رجحان فقہائے حدیث اور شوافع کی طرف فرمایا
ہے، جس سے ظاہر ہے کہ خشک حنفیت اور جامد عصبیت کو شاہ صاحب قطعاً پسند نہیں
فرماتے، اور نہ قدمائے احناف میں اس قسم کا جمود پایا جاتا تھا۔ یہ جمود چوتھی صدی سے
شروع ہو کر آٹھویں نوں صدی تک عروج پر پہنچا۔ بدعت سے روکنے کی اصل راہ
اتباع سلف ہے۔ ائمہ کی تقلید نے بھی بدعت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے، لیکن اس
کے ساتھ ساتھ عقیدت مندی کا جمود آ گیا۔ اتباع سلف اور صحابہ کی مختلف رائیں اور
ان کے فتوؤں میں مصالح کی بنا پر تنوع ہے، اس لیے وہاں جمود نہیں آ سکتا۔

چار مصطلے:

برقوق چر کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے چار مصطلے قائم کیے تھے۔
عالمیہ عمل ۷۰۸ھ کے پس و پیش میں ہوا۔ اس وقت بھی علمائے حق نے اس تفریق کی
مخالفت کی، لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی۔ یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ
علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی۔ حنفی جماعت ہو رہی، دو تو شوافع اور حنابلہ

بے پردا ہو کر بیٹھے رہتے، گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی۔^۱ یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے۔ حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیائے اسلام میں اس کا اثر ہوا۔ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں:

”وہدائے تعالیٰ بے خبر نیست از آنچه در زمان آئندہ عمل خواہید کرد و از راه بدعت یک یک جہت از جہات کعبہ تقسیم خواہید و در ترجیح و تفضیل جہت مختار خود ہر کس خواہد آورد، مثلاً حنفیہ جہت جنوب را اختیار خواہند کرد و امام ایٹاں جانب شمال کعبہ خواہند استاد و در مقام خواہند گفت کہ قبلہ ما قبلہ ابراہیمی است زیر آنکہ آنجناب جانب میزاب متوجہ می شدند، و شافعیہ غرب را اختیار خواہند کرد و امام ایٹاں در شرق کعبہ خواہند استاد و در مقام فخر خواہند گفت با استقبال باب سے نمازیم و قبلہ ما قبلہ مخصوص“

(تفسیر فتح العزیز: ۱/ ۵۴۱)

”اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے۔ احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، وہ فخر کریں گے کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے۔ شوافع مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے، یہی سمت مخصوص ہے۔“

شاہ صاحب ان مصلوٰوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے ہیں اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے ہیں۔

① شکر ہے کہ بیت اللہ کی جدید تعمیر میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے یہ مصلے بالکل ختم کر دیے ہیں۔ اب لوگ ایک ہی امام کی اقتدا کرتے ہیں، مختلف جماعتیں نہیں ہوتیں۔ اب یہ بدعت ختم ہو گئی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ [مولف]

ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے۔ اگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ بڑھم کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ برقوق جیسے سرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی۔ تفریق بین المؤمنین کا مزید بوجھ اس کی گردن پر ہوگا اور اسی طرح ان علما پر جنہوں نے اسے سندِ جواز عطا کی۔

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ۲۲۷]

شاہ صاحب کا مقصد:

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمود غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ شاہ صاحب موجودہ حالات میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ قیاس اور رائے پرستی بھی انہیں پسند نہیں اور ظواہر پرستی بھی ان کی نگاہ میں مہیوب ہے تو پھر وہ کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟

اس معاملے میں شاہ صاحب اپنا عندیہ حلفِ مؤکد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں:

”وأشهد لله بالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطئ ويصيب أن الله كتب علي اتباعه حتماً، وأن الواجب علي هو الذي يوجبه هذا الرجل علي، ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعاهما العلماء، وأداها الرواة، وحكم بها الفقهاء، وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى أنهم رواة الشريعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، وأنهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل، فلذلك قلدوا العلماء، فلو أن حديثاً صح، وشهد بصحته المحدثون، وعمل به طوائف فظهر فيه الأمر، ثم لم يعمل به هو؛ لأن متبوعه لم يقل به، فهذا هو الضلال البعيد“¹

”میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ امت میں کسی ایسے آدمی کے

متعلق، جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت ضروری ہے اور جسے وہ واجب کہے، اسے واجب سمجھنا ضروری ہے، یہ قطعاً کفر ہے، کیونکہ شریعت اس شخص سے مدتوں پہلے سے موجود ہے۔ علمائے اہل سنت نے اسے حفظ اور ضبط کیا اور روایت کرنے سے بیان کیا۔ فقہانے اس کے مطابق فیصلے فرمائے۔ لوگوں نے علماء کی تقلید کو صرف اس لیے مستفاد طور پر قبول کیا کہ وہ درحقیقت شریعت کے آنحضرت ﷺ سے راوی ہیں۔ علم ان کا مشغلہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر حدیث صحیح ہو، محدثین اس کی صحت کے شاہد ہوں، عامۃ المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو، معاملہ واضح ہو چکا ہو، پھر اس پر صرف اس لیے عمل نہ کیا جائے کہ امام یا متبوع نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔“

شاہ صاحب کا ارشاد کسی حاشیہ آرائی کا محتاج نہیں۔ وہ تقلید کے صرف اس حد تک قائل ہیں کہ اہل علم کتاب و سنت سے روایت کرتے ہیں۔ علمی مشاغل کی وجہ سے ان کی معلومات زیادہ ہیں۔ عوام ان کی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے پہنچ جائے تو علماء کے ساتھ تقلیدی وابستگی کا تعلق یکسر ختم ہو جائے گا۔ حدیث صحیح کے ہوتے ہوئے کسی عالم کے لیے تعصب یا اس کی حمایت کے لیے تاویل کے دروازوں کا کھول دینا شاہ صاحب کی نگاہ میں بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس انداز کو وہ کسی طرح بھی پسند نہیں فرماتے۔

اس مقصد کے لیے دوسری راہ:

شاہ صاحب کی تجویز یہ ہے کہ اس فقہی جمود کو توڑنے کے لیے مختلف مسالک کو باہم آمیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ مصالح اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں بعض مسائل میں ضمنی مسلک فکر اختیار کیا جائے اور بعض میں شافعی مسلک کو قبول کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں:

”ونشأ في قلبي داعية من جهة الملا الأعلى، تفصيلها أن
 منذهب أبي حنيفة، و الشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة،
 وهما أكثر المذاهب تبعاً وتصنيفاً، وكان جمهور الفقهاء،
 والمحلثين، والمفسرين، والمتكلمين، والصوفية متمذهبين بذهب
 الشافعي، وجمهور الملوك وعامة اليونان متمذهبين بذهب
 أبي حنيفة، وأن الحق الموافق لعلوم الملا الأعلى اليوم أن
 يجعلها كمنذهب واحد يعرضان على الكتب المدونة في حديث
 النبي -صلى الله عليه وسلم- من الفريقين، فما كان موافقاً بها
 يبقى، وما لم يوجد أصله يسقط“ الخ (تفهيمات: ۱/ ۲۱۲)

”ملائے اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا کہ امام ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ) اور
 امام شافعی (رضی اللہ عنہ) دونوں ائمہ کے مذاہب امت میں مشہور ہیں اور کثرت اتباع
 اور کثرت تصنیف کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ جمہور فقہاء اور محدث، مفسر اور
 متکلم اور صوفی شافعی مذہب کے پابند تھے اور اکثر بادشاہ اور یونان کے
 رہنے والے خفی مسلک کے پابند تھے۔ ملائے اعلیٰ کی نظر میں حق اور صحیح یہ
 ہے کہ ان دونوں مذاہب کی جزئیات کو کتب حدیث پر پیش کیا جائے، اور
 معلوم ہے کہ دونوں مذاہب کے اہل علم نے فن حدیث میں تصنیفات کی
 ہیں۔ جو مسائل حدیث کے موافق ہوں قبول کر لیے جائیں اور جن کا اصل
 حدیث سے نہیں ہے، انہیں کلیتاً ساقط کر دیا جائے۔ نقد و نظر کے بعد جن
 مسائل میں اتفاق پیدا ہو جائے، انہیں دانتوں میں تمام لیا جائے۔ اگر
 اختلاف ہو تو انہیں دو قول تصور کر لیا جائے اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔
 یہ اختلاف قراءت قرآن کی طرح سمجھا جائے یا رخصت اور عزیمت پر
 محمول کیا جائے یا تنگی سے نکلنے کے لیے دوراہیں اختیار کر لی جائیں یا دونوں

کو مباح سمجھا جائے اور معاملہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔“

شاہ صاحب نے حنفیہ کی کثرت ہندوستان میں دیکھی اور شوافع کی اکثریت انھیں حجاز میں نظر آئی، اس لیے انھوں نے ان دونوں میں اتحاد کی ضرورت کو محسوس فرمایا۔ اگر شاہ صاحب نجد اور سوڈان میں حنبلیہ اور مالکیہ کو ملاحظہ فرماتے تو ان ہی وجوہ کی بنا پر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتے اور ان کے ساتھ اتحاد کو ضروری سمجھتے۔ اگر ان مسائل میں اتحاد دین کے کسی تقاضے کو پورا کر سکتا ہے تو مذاہب اربعہ میں اتحاد کی کوشش اور آرزو یقیناً اس تقاضے کو پورا کرے گی، اور شاہ صاحب ان مصالح کو اسلام کی روح تصور فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہی افکار کا جمود شاہ صاحب کے ذہن پر ایک بوجھ ہے جس کے لیے وہ بے حد متفکر ہیں۔

طلباء کو نصیحت اور علوم دین اور علوم دنیا میں تمیز فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”خصتم كالخوض في امتحانات الفقهاء من قبلكم، إن الحكم ما حكمه الله ورسوله، ورب إنسان منكم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم فلا يعمل به، ويقول إنما عملي على مذهب فلان، لا على الحديث، ثم احتال بأن فهم الحديث من شأن الكمل المهرة، وإن الأئمة لم يكونون ممن يخفى عليهم هذا الحديث فما تركوه إلا لوجه ظهر لهم في الدين من نسخ أو مرجوحية“ (تفهيمات: ۱/ ۲۶۴)

”تمھاری توجہ پوری طرح فقہاء کے امتحانات اور تفریعات کی طرف ہے، اور تم نہیں جانتے کہ درحقیقت حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول کا۔ تم میں سے بہت سے لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی حدیث پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اسے اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتا کہ اس کا عمل فلاں مذہب پر ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا تو ماہرین اور اصحاب کمال کا کام

ہے، اور ائمہ پر کوئی چیز مخفی نہ تھی، ان کو اس حدیث کا علم ضرور ہوا ہوگا اور کوئی وجہ از قسم نسخ اور مرجوحیت ضرور ہوگی، ورنہ وہ ضرور اس پر عمل کرتے۔“

شاہ صاحب ائمہ کا احترام فرماتے ہیں، لیکن ان کی علمی وسعت کے باوجود ان پر اس طرح اعتماد اور حسن ظن کو پسند نہیں فرماتے، جس سے صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کی نوبت آجائے۔ مروجہ تقلید میں یہی عیب ہے جو شاہ صاحب کے ذہن میں کھٹک رہا ہے۔ وہ طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں کہ حدیث کے متعلق انھیں اس سطح سے اونچے ہو کر غور کرنا چاہیے۔

شاہ صاحب کا اپنا مسلک:

سابقہ نظریے سے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام علما کی اطاعت و اتباع کریں، لیکن نہ اس میں پیغمبر کی طرح کسی شخص کا تعین ہو اور نہ جمود کی روح سرایت کرنے پائے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور مصنفی میں اہل حدیث اور اہل الرائے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی نظر میں ائمہ کوفہ کے سوا باقی ائمہ اہل حدیث ہیں، وہ اپنے اساطین اور اساتذہ کے قواعد کی بجائے استدلال اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک عوام شوافع، ممالک اور حنابلہ کا تعلق ہے وہ بہر حال وہ کچھ ہیں جو شاہ صاحب کو کسی طرح بھی پسند نہیں، وہاں جمود بھی ہے اور عصیت بھی۔

ابوبکر محمد بن عبداللہ بن محمد (ابن العربی) کے مقام کی رفعت دیکھیے اور امام شافعی کے متعلق ان کے لب و لہجہ کی تلخی دیکھیے (ملاحظہ ہو ان کی احکام القرآن) ^۱ تعصب کے سوا اس کی اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تمام مذاہب میں یہ عصیت اور تلخی تقریباً ملتی ہے۔

اس لیے شاہ صاحب نے سابقہ نظریے پر عمل کے لیے ایک اور راہ اختیار فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کے سوا کوئی دوسری راہ ہے بھی نہیں۔

① احکام القرآن لابن العربی (۱/ ۲۷۴، ۲۸۰)

شاہ صاحب ”المقالة الرضية في النصيحة والوصية“ میں فرماتے ہیں:

”وصیت اول ایس فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوست
بتدبر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاعت خواندن
نہاد و ترجمہ و رتے از ہر دو شنیدن و در عقائد مذہب قدماء اہل سنت
اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش مکررند اعراض نمودن بہ
تفکیرکات معقولیان خام التفات نکرده و در فروع پیروی علمائے محدثین کہ
جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و داعما تفریجات خہیہ را بر کتاب و سنت
عرض نمودن و آنچه موافق باشد در حیز قبول آوردن و الا کالائے بد بریش
خواند دادن، امت را بیج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا
حاصل نیست و سخن متشکلہ فقہا کہ تقلید عالمی را دستاویز ساختہ تتبع سنت را
ترک کردہ اند نشنیدن و بدیشاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری
ایشاں“ (تفہیمات: ۲/ ۲۴۰)

تھوڑا بہت جانتے والوں کے لیے تو فقہاء محدثین ہی کی راہ صحیح ہو سکتی ہے، البتہ
عوام کو ضرورت کے وقت حنفی اور شافعی فقہ کو کم از کم ملا لینا چاہیے، اور کم از کم ان دونوں
فہموں سے جو بھی ”أوفق بالكتاب والسنة“ ہو، اختیار کر لینا چاہیے:

”ونحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء، لا سيما هاتان
الفرقتان العظيمتان الحنفية والشافعية، وخصوصاً في الطهارة
والصلاة فإن لم يتيسر الاتفاق، واختلفوا، فنأخذ بما يشهد له
ظاهر الحديث و معروفه“ (تفہیمات: ۲/ ۲۰۲)

”ہم فروعی مسائل میں ان مسائل پر عمل کی کوشش کرتے ہیں جن پر علما
متفق ہوں، خصوصاً دو بڑے گروہ حنفی اور شافعی۔ طہارت اور نماز کے مسائل
میں یہ طریقہ اور بھی پسندیدہ ہے۔ اگر اس میں اتفاق نہ ہو سکے تو جو ظواہر

حدیث کے موافق ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔“

آج کل کی تلخیوں اور ان کے پس منظر کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہندوستان میں مسلک اہل حدیث کا مقصد اسی نوعیت کا اتفاق تھا، جسے فرقہ وارانہ عصیت نے بہت ناک صورت دے دی، آج ایک آزاد ملک میں تقلید شخصی اور فقہی جزئیات پر زور دیا گیا یا حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ صرف حنفیت کو اسلام کا مرادف سمجھے تو اس کے نتائج اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ قادیانی عالمگیری اپنے وقت کا بہت بڑا دینی اور علمی کارنامہ ہے، جس کی تکمیل اور تائیس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صاحب کے والد حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ صاحب بھی شامل تھے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی دور اندیش نگاہ آنے والے وقتوں کے لیے اسے کافی نہیں سمجھتی۔ وہ ان فقہی استسمانات کو دین اور شریعت کا نام دینا اور اصول فقہ کو شرعی دستاویز قرار دینا پسند نہیں کرتے۔

ان کا منشا یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ فقہاء محدثین کی راہ کو بھی ان کے ساتھ ملا کر ملک میں ایک ایسے فقہی مکتب فکر کی بنیاد رکھی جائے، جس میں نہ حافظ ابن حزم کی ظاہریت ہو جس سے نصوص میں بھدا پن پیدا ہو اور آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی فصاحت و بلاغت اور حسن ادا نظر انداز ہو جائے، اور نہ قیاس اور رائے کو اس قدر اہمیت حاصل ہو کہ قوت فیصلہ علما کی موشگافیوں اور حیل آفرینیوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور نصوص شرعیہ اس حیران کن منظر میں صرف تماشائی ہو کر رہ جائیں، جیسے متاخرین فقہاء نے فرضی صورتوں سے دین کا نیا کل تعمیر فرما دیا۔ قاضی خان، شامی اور الاشبہ والنظائر، ان کے سامنے ان علوم اور ان کی ہمہ گیر تعلیمات انگشت بدنداں ہو کر رہ گئیں۔

ایک بہت بڑا مغالطہ اور اہل حدیث:

کچھ مدت سے عوام میں ایک مغالطے کی اشاعت ہو رہی ہے اور اچھے سنجیدہ اور

پڑھے لکھے حضرات کو اس میں جتلا پایا گیا ہے، وہ یہ ہے:

”اہل حدیث کوئی کتب فکر نہیں، بلکہ حفاظ حدیث اور اس فن کے ماہرین کو

اہل حدیث کا نام دیا گیا ہے۔“

اس مغالطے کی حمایت ہمارے ملک کی بعض تحریکات نے بھی کی ہے اور بعض کم سواد حضرات نے بھی اپنی تحریروں میں اس خیال کا اظہار فرمایا۔ اس کے دو ہی سبب ہیں: قلت مطالعہ یا پھر تعصب کے ساتھ سیاہ دلی!!

اس میں کچھ شک نہیں کہ فن حدیث اور اس کے حفظ و ضبط کا دل پسند مشغلہ مذاہب اربعہ میں رہا ہے اور ان مکاتب فکر کے علما نے فن حدیث اور اس کے خواہم فن رجال، اصول حدیث وغیرہ کی خدمت کی، لیکن یہ حضرات اس خدمت کے باوجود فہم حدیث کے معاملے میں اپنے پیش رو امام ہی کے انداز سے سوچتے ہیں، جیسے حافظ طحاوی، علامہ ترکمانی، حافظ بیہقی، حافظ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ یہ حضرات حدیث کی بہترین خدمت کے باوجود طریق فکر کے لحاظ سے یا حنفی ہیں یا شافعی، اسی طرح موالک اور حنابلہ میں بھی ایسے خدام حدیث موجود ہیں، جو فکر کے لحاظ سے مالکیت یا حنبلیت کے پابند ہیں۔ وہ احادیث کے مفہوم کو سوچتے وقت اپنے ائمہ کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بلکہ ان کے تحقیقی ارشادات پر غور فرمائے تو اپنے مخالفین کے خلاف بعض اوقات خاصا تشدد نظر آئے گا، اس کے باوجود وہ حدیث کے خدام ہیں۔

اہل حدیث مکتب فکر:

لیکن اہل حدیث مکتب فکر اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے انکار میں ان شخص پابندیوں سے آزاد ہے۔ وہ مجتہد ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ شخصی اجتہادات کے پابند نہیں، بلکہ ان بزرگوں کے لیے مواد اور دلائل فراہم فرماتے ہیں۔ خود بھی پیش آمدہ مسائل پر کتاب اللہ اور سنت اور ائمہ سلف کے ارشادات کی روشنی میں

غور فرماتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے اجتہادات سے موافقت ہو یا مخالفت، اس کے لیے وہ چنداں فکر مند نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نظر مصالح پر ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ میں ایک باب کا عنوان ہی یہ رکھا ہے:

”باب الفرق بین اهل الحدیث و اهل الرأي“

عنوان سے ظاہر ہے کہ دو کتب فکر کا تذکرہ ہوگا۔ پھر الحدیث کے چند اصول ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

”فان عجزوا عن ذلك أيضاً، تأملوا في عمومات الكتاب والسنة، وإيماءاتهما و اقتضاءاتهما، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانا متقاربتين بادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول، ولكن على ما يخلص إلى الفهم، ويصلح به الصدر، كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة، ولا حالهم، ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس، كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة“ (حجة الله: ۱/ ۱۶۸)

”اگر سابقہ اصولوں کے مطابق مسئلہ طے نہ ہو سکے تو کتاب و سنت کے ارشادات و اقتضاءات کو دیکھتے اور پیش آمدہ مسئلہ کے نظائر اور ان کے حکم پر غور کرتے اور جواب تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ نظائر صراحتاً متقارب ہوں تو اصول فقہ کے قواعد کو چنداں ملحوظ نہیں رکھتے، بلکہ قلبی سکون اور طمانیت کو ملحوظ رکھتے ہیں، جیسے تواتر میں اصل چیز عدد و رواۃ نہیں، بلکہ اصل چیز یقین اور اطمینان ہے۔“

① ان اصول کا ذکر شروع میں آچکا ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کے ہمدرد حضرات نے گذشتہ ایام میں اس مغالطے کی کافی اشاعت فرمائی تھی۔ ممکن ہے جماعت کے لیے یہ مغالطہ مفید ہو۔ علمی اور تحقیقی طور پر یہ قطعاً غلط ہے۔ تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔ [مؤلف]

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ اہل حدیث محض فن کے حفاظ کا نام نہیں، بلکہ ان کے نزدیک فہم و استدلال کے لیے کچھ اصول ہیں، جو کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہیں اور وہ تقلیدی نہیں، بلکہ ان میں یقین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

”میں نے سنا ہے کہ گروہ صرف دو ہیں: اہل ظاہر اور اہل الرائے۔ تیسرا کوئی گروہ نہیں۔ جو بھی قیاس کرے اور استنباط کرے، وہ اہل الرائے ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ رائے سے مراد عقل اور فہم نہیں، کیونکہ اس کے سوا تو اہل علم کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں اور نہ اس سے وہ رائے مراد ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تو کوئی مسلمان پسند ہی نہیں کر سکتا، اور نہ رائے استنباط اور قیاس پر قدرت ہی کا نام ہے، کیونکہ امام احمد، اسحاق بلکہ امام شافعی قیاس اور استنباط فرماتے ہیں، لیکن وہ بالاتفاق اہل الرائے نہیں ہیں، بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ حضرات ہیں جو ابہرہامی اور جمہور ائمہ میں متفقہ مسائل کے علاوہ متقدمین سے کسی متعین بزرگ کے اصولوں پر استنباط اور تخریج فرماتے ہیں اور نظائر کو نظائر پر محمول فرماتے ہیں اور معینہ اصولوں کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اور اس کے لیے احادیث و آثار کے تتبع کا تکلف نہیں فرماتے۔ ظاہری علما حافظ ابن حزم اور داود ظاہری حضرات قیاس اور آثار دونوں کو حجت نہیں سمجھتے اور محققین اہل سنت، اہل الرائے اور اہل ظاہر کے بین بین ہیں۔“

شاہ صاحب کے اس ارشاد سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں:

① اہل حدیث صرف اہل فن نہیں، بلکہ یہ ایک مکتب فکر ہے۔

② فقہائے کوفہ کے علاوہ باقی ائمہ اجتہاد اہل حدیث ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ان

کے اتباع اور مقلدین کو اہل حدیث نہ کہلا سکیں۔

③ اہل حدیث قیاسِ حلی اور نظائر کے حکم کو مانتے ہیں اور اجتہاد و استنباط کے قائل ہیں۔

④ اہل حدیث اور اہل ظاہر دو مختلف کتبِ فکر ہیں، اور اہل الرائے ان دونوں سے الگ ہیں۔

⑤ اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ اور سلف کے ارشادات کو اصل سمجھتے ہیں

اور اس پر اپنے فہم اور استنباط کی بنیاد رکھتے ہیں۔

⑥ اہل الرائے مسائل کے استنباط میں مخصوص اہل علم کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے

ہیں، کتاب و سنت ان کے پیش نظر نہیں ہوتے۔

⑦ اہل حدیث کتبِ فکر اہل الرائے اور اہل ظاہر کے علاوہ ہے۔

شاہ صاحب نے ان قسم کی تصریحات حجۃ اللہ کے علاوہ تہجیمات، انصاف اور

عقد الجید وغیرہ میں بھی فرمائی ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تاویلی عزیزیہ اور تفسیر فتح العزیز میں اسی موضوع پر

بہت کچھ لکھا ہے۔ صراطِ مستقیم میں حضرت سید احمد شہید نے بھی جمود اور مرجع تقلید کے

متعلق کافی وضاحت فرمائی ہے، ان تصریحات کی تائید شاہ اسماعیل شہید نے بھی فرمائی

ہے۔ علامہ شوکانی نے ”القول المفید“ میں بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ ائمہ حدیث

کے مسلک کی وضاحت فرمائی ہے۔ ”ایفاظ ہمم اولی الابصار“ میں امام یحییٰ فلانی

نے بھی محدثین کے مسلک کی تائید فرمائی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے ”تأویل

مختلف الحدیث فی الرد علی أعداء أهل الحدیث“ میں فرمایا۔ ابن عبدالبر

نے ”جامع بیان العلم وفضله“ میں اہل الرائے اور اہل الحدیث کا تذکرہ فرمایا ہے اور

مسلک اہل حدیث کو رائج اور صحیح تصور کیا ہے۔ ان تصریحات کے لیے وقت اور کسی

دوسری صحبت کی ضرورت ہے۔ حقیقت پسند آدمی ان تصریحات کا مطالعہ کرے تو اسے

یقین ہوگا کہ اہل حدیث محض حفاظِ حدیث کا نام نہیں، بلکہ ان حضرات کا طریقِ فکر ہے

جس میں تفقہ اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت اور سلف امت کے ارشادات پر رکھی گئی ہے۔ تقلید شخصی اور جمود کے لیے اس مسلک میں کوئی کام نہیں۔

شہرستانی (۵۳۸ھ) دور جمود کے آغاز سے بہت قریب ہیں۔ فرق اور مذاہب کے اجتماع اور انتراق پر ان کی نظر غائر اور وسیع ہے، ان کی کتاب ”الملل والنحل“ اس موضوع کی مستند دستاویز میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی تصریحات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک مکتب فکر ہے، جسے فقہی مکاتب میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ شخص حدیث کی خدمت کا نام نہیں:

”ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفين لا يعدوان إلى ثالث: أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. أصحاب الحديث هم أهل الحجاز، وأصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن يدریس الشافعي، وأصحاب سفیان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي ابن محمد الأصفهاني، وإنما سمو أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على المنصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً“

(الملل والنحل: ۲/ ۲۵ بر حاشیہ کتاب الفصل لابن حزم)

”ائمہ مجتہدین کی دو ہی قسمیں ہیں: اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے۔ اصحاب الحدیث کا مسکن حجاز ہے۔ امام مالک اور ان کے تلامذہ، امام شافعی اور ان کے شاگرد، سفیان ثوری اور ان کے رفقاء، امام احمد کے ساتھی اور امام داؤد ظاہری کے خدام۔ انھیں اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ حدیث اور اخبار کی طرف ہے اور احکام کی بنیاد نصوص پر رکھتے ہیں، جب تک حدیث موجود ہو، وہ قیاس جلی اور خفی کی پروا نہیں کرتے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”أصحاب الرأي وهم أهل العراق، هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومن أصحابه: محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن محمد القاضي، وزفر بن هذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن سماعة، وعافية القاضي، وأبو مطيع البلخي، وبشر المريسي، وإنما سمو أصحاب الرأي؛ لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على أخبار الأحاد“
(شہرستانی: ۲/۴۲)

”اہل عراق کو اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں۔ انہی میں امام محمد، امام ابو یوسف قاضی، زفر، حسن بن زیاد، ابن سماعہ، قاضی عافیہ، ابو مطیع بلخی اور بشر مرسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں۔ انہیں اصحاب الرائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ قیاس اور معانی کے استنباط کی طرف ہے۔ وہ احکام کی بنا قیاس پر رکھتے ہیں اور بسا اوقات قیاس جلی کے سامنے خبر واحد کی بھی پروا نہیں کرتے۔“

حجتہ اللہ کا مقام ”باب الفرق بین اهل الحديث وأهل الرأي“ شہرستانی کے اسی مقام کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت اس جہالت آمیز غلط فہمی کی اصلاح ہے، جو بعض علمی حلقوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہے کہ ”اہل حدیث محض فنی خدمت کا نام ہے۔“ شہرستانی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں قدیم کتب فکر ہیں، جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے استفادہ کرتے، ان کا باہم رد و تردید کا مشغلہ تو رہا ہے، مگر کسی نے ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی۔

شہرستانی کے دونوں اقتباسات سے ظاہر ہے کہ اصحاب الحدیث ایک مکتب فکر ہے، جس نے احادیث کے متون اور اسانید کی حفاظت فرمائی، پھر اس پر فقہی تبویب فرمائی۔ فروع اور عقائد کی صحت پر استدلال فرمایا۔ شخص آراتوان کے ہاں کوئی قیمتی چیز نہیں، اس لیے فقہائے عراق یا دوسرے فقہاء کی طرح ان لوگوں نے اپنی فقہ ایجاد نہیں فرمائی، تاکہ لوگ اس پر تقلیدی انداز میں اعتماد نہ کرنے لگیں، لیکن کتاب و سنت سے استنباط کی راہیں اور قیاس صحیح کے استعمال کی راہ کھولی۔ شخص آرا پر نصوص شرعیہ کی برتری کو واضح کیا اور فقہ الحدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اہل علم کے سامنے رکھ دیا۔

تاریخ کے امام اور تنقید کے مؤسس علامہ عبدالرحمان ابن خلدون (۷۸۰ھ) کا ایک اقتباس قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں:

”وانقسم الفقہ فیہم إلی طریقین: طریق أهل الرأي والقیاس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحدیث، وهم أهل الحجاز، وكان الحدیث قلیلاً فی أهل العراق لما قدمناہ، فاستکثروا من القیاس، ومہروا فیہ، فلذلك قیل: أهل الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فیہ وفي أصحابہ: أبو حنیفۃ“

(مقدمہ ابن خلدون، ص: ۳۸۹)

”فقہ کی دو قسمیں ہو گئیں، فقہ اہل الرائے جن کا مرکز عراق ہے اور فقہ اہل حدیث جن کا مرکز حجاز ہے۔ اہل عراق میں حدیث کا چرچا کم تھا اور وہ قیاس میں ماہر تھے، ان کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔“

ابن خلدون کا تاریخی مقام پڑھے لکھے لوگوں سے مخفی نہیں۔ ان کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ اہل حدیث کو محض حفظ حدیث تک محدود رکھنا تاریخ سے بہت بڑی بے خبری ہے یا عصبیت کی وجہ سے دیانت میں نقص!

اسی طرح ایک اقتباس علامہ ابوالمصور عبدالقادر البغدادی (۳۲۹ھ) کا گزر چکا ہے۔

علامہ کاتب چلبلی کی نظر اصحاب مذاہب اور ان کی تصنیف پر جس قدر ہے، وہ ان کی کتاب ”کشف الظنون“ سے ظاہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع“
(كشف الظنون، ص: ۸۹، أبعاد العلوم: ۱/۳۲۵)

معلوم ہے جو لوگ اصول فقہ میں اصحاب التصانیف ہیں، وہ محض الفاظ کے حافظ نہیں۔ وہ فہم الفاظ میں بھی تحقیقی نظر رکھتے ہیں، ان کی اصول فقہ پر دقیق نظر ہے، اس لیے انھیں فن کار کہنا کسی فنکار ہی کا کام ہے، کوئی عالم یہ جرأت نہیں کر سکتا۔
اہلحدیث اور متکلمین:

دوسری صدی میں صفات باری کے متعلق فلاسفہ اور متکلمین نے جو دھاندلی مچائی، تاریخ مذاہب کے غواص اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس دور میں اہل حدیث نے جس پامردی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ قید و بند کے مصائب اہل حدیث نے جس طرح برداشت کیے، وہ ایسی داستان نہیں جسے بھلایا جاسکے۔ یہ ہنگامہ دوسری صدی سے شروع ہو کر تقریباً آٹھویں صدی تک رہا۔ اس دور کے متکلمین اور فقہا محدثین کی تصانیف میں اہل حدیث کا تذکرہ بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ارباب تاویل کے سامنے ظواہر نصوص پر اڑنا اور مخالفین سے تمٹنا آسان نہ تھا، لیکن اس وقت اہل حدیث نے یہ جنگ بڑی جواں مردی سے لڑی۔ مامون الرشید سے شروع ہو کر متوکل علی اللہ کی حکومت تک ان پر کیا گزری؟ اسے تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں، اس دور کی ان کتابوں میں یہ مباحث موجود ہیں۔ اہلحدیث کا تذکرہ جس انداز سے آیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ محض الفاظ کے حافظ اور فنکار نہیں، بلکہ ان کی نظر معانی کی روح اور ان کے ذور رس عواقب پر رہی۔

حافظ ابن قیم اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معرکہ کرسٹیز اور اس میدان کارزار کے بہادر سپاہی ہیں۔ اپنی تصانیف میں ان مباحث کا ذکر فرماتے ہوئے اہل حدیث کا ذکر جس عقیدت سے کرتے ہیں، وہ صرف حفظ الفاظ کی وجہ سے نہیں۔ انترال و حجم اور تشبیہ و تعطیل کے خازن میں ظواہر نصوص کا ساتھ دینا معمولی بات نہیں۔ حافظ ابن قیم کی کتاب ”الکافیۃ الشافیۃ فی الانتصار للفرقة الناجیۃ“ اس معرکہ کارزار کا رجز ہے، جس میں وہ بار بار اہل حدیث کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں، جنہوں نے فلاسفہ اور مشکلمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنت کی حمایت فرمائی، تاویل کی دھاندلیوں سے عامۃ المسلمین کو بچایا۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیے:

* لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبا لذي البهتان
 ”اہل حدیث پر بہتان مت لگاؤ، بہتان لگانے والوں کی حالت قابل افسوس ہے۔“

* هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان
 ”حشوی دراصل یہ لوگ ہیں۔ اہل حدیث تو اسلام اور ایمان کے امام ہیں۔“
 * أسماء سميت بها أهل الحديث وناصري القرآن والإيمان
 ”تم نے اہل حدیث کے کئی نام رکھے ہیں اور وہ صرف قرآن اور ایمان کے معاون ہیں۔“

* من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان
 ”یہ اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کا مذہب حدیث ہے اور اقوالی رجال کو ترک کرتا۔“

① القصيدة التونية (ص: ۱۴۵)

② القصيدة التونية (ص: ۱۴۶)

③ القصيدة التونية (ص: ۱۵۲)

❖ وكذلك أصحاب الحديث فإنهم ضرب لهم ولكم بذا مثلاً
 ”اسی طرح اہل حدیث کی اور تمہاری دو الگ الگ مثالیں ہیں۔“

❖ وإلى أولى العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان
 ”اور اہل حدیث اصحاب معرفت ہیں اور انسانیت کا خلاصہ ہیں۔“

قصیدہ نونیہ کا شاید ہی کوئی ورق ہو جس میں کسی نہ کسی طریق سے اہل حدیث
 مکتب فکر کا تذکرہ نہ آیا ہو۔

علامہ بزدوی خیر واحد کے تذکرے میں فرماتے ہیں:

”قال بعض أهل الحديث: يوجب علم اليقين“

”خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔“

أصول بزدوی کے شارح علامہ عبدالعزیز بخاری فرماتے ہیں:

”ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل
 الصنعة بصحتها، توجب علم اليقين“

”اکثر اصحاب الحدیث کا خیال ہے کہ جن خبروں کو اصحاب فن نے صحیح فرمایا
 ہے، ان سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔“

علامہ عبدالعزیز بخاری مرسل کی حجیت کا ذکر کرتے ہوئے اہل حدیث پر طعن فرماتے ہیں:

”إنهم سموا أنفسهم أصحاب الحديث، وانتصوا أنفسهم
 لحيازة الأحاديث والعمل بها، ثم ردوا منها ما هو أقوى أقسامها“

”یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور حدیث پر عمل اور اس کی حفاظت
 کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کی قوی ترین اقسام کا انکار کرتے ہیں۔“

❶ أصول البزدوي (ص: ۱۵۴)

❷ كشف الأسرار (۲/ ۱۹۱)

❸ كشف الأسرار (۳/ ۲۲۵)

یہ تلخ نوائی محض حفظ الفاظ پر نہیں۔ یہ تحقیقی مسئلہ ہے جس میں اہلحدیث کی رائے قدامتے احناف کے خلاف ہے۔

دوسرے مقام پر اسی کشف الاسرار میں انبیاء کے لیے رائے اور اجتہاد کے جواز کا تذکرہ فرماتے ہیں:

”هو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحديث“^①

”انبیاء کے لیے اجتہاد کی اجازت ہے۔ امام ابو یوسف، مالک، شافعی اور اکثر اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔“

اس میں مذہب اہل حدیث کا تذکرہ بیسیوں مقامات پر آیا ہے۔ حسامی کی شرح غایۃ التفتیح میں اکثر مقامات پر اہل حدیث کا ذکر موجود ہے۔

اس لیے اہل حدیث سے مراد صرف حفاظ الفاظ حدیث مراد لینا انتہائی لاعلمی اور بے خبری ہے۔ قدامت کی کتابوں میں دوسرے مکاتب فکر کی طرح اہلحدیث کا بھی ذکر آتا ہے۔ اصول فقہ میں یہ تذکرہ خاص طور پر ملتا ہے، کیونکہ حسب ارشاد علامہ کاتب چلبی اس فن کے توبانی ہی معتزلہ ہیں اور اصحاب الحدیث۔ البتہ متاخرین میں عصیت بڑھتی گئی اور اقتدار بھی اہل تعصب کے ہاتھوں میں آ گیا تو حکومت اور اقتدار کے نشے میں اہلحدیث کا ذکر کم ہوتا گیا اور نفرت بڑھتی گئی۔

تیسری صدی تک تو پورے فارس پر مسلک اہل حدیث کا اقتدار تھا۔ مصنفین صحاح اور دوسرے علم حدیث کے مدون زیادہ تر اسی علاقے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی حضرات کو توفیق بخشی کہ علوم کو آئندہ آنے والے لوگوں تک پہنچائیں اور انھوں نے یہ فرض ادا فرمایا۔ فجزاہم عن المسلمین أحسن الجزاء۔

ان حضرات کی علوم پر نظر کا یہ حال تھا کہ تجوید میں بھی ان کی رائے کا تذکرہ ایک

① کشف الاسرار (۳/ ۹۲۵)

کتب فکر کے لحاظ سے ہوا ہے۔ ائمہ قراءت میں اختلاف ہے کہ آیت: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ پر وقف ہے یا نہیں؟ تجوید اور قراءت کے متعلق مستند کتاب "النشر في القراءات العشر" للعلامة محمد بن محمد الدمشقي (۸۳۳ھ) میں فرماتے ہیں کہ "إلا الله" پر وقف تام ہے: "وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث" (۱/۲۲۷)۔
 قدما اہل حدیث ان تمام راہوں سے آگاہ تھے، جن پر فقہائے متاخرین کو ناز ہے۔

فقہ اور اہلحدیث:

بچپن میں سنتے تھے:

"اہلحدیث کی مثال عطار کی ہے اور فقہا کی مثال طبیب کی۔"

اس کا اثر ذہن پر یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ دو گروہ ہیں، فقہا عطار کی نہیں کرتے اور اہل حدیث، حدیث کے طبیب نہیں ہوتے، لیکن جب علوم حدیث اور دفا تر سنت دیکھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ یہ دو فرقے نہیں بلکہ عملی زندگی میں طبعی رجحانات کے مطابق ایک خاص طریق ہے جسے پسند کر لیا گیا۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محدثین فقہ نہیں جانتے، نہ یہ درست ہے کہ فقہا حدیث نہیں جانتے۔ قدرت نے سب کو استعداد عطا فرمائی ہے، جس کام کے لیے کسی نے اس استعداد کو استعمال کیا، وہ چیز اسے عطا کر دی گئی۔

ائمہ حدیث کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کے حلقہ درس میں موجود تھے۔ حدیث کی کتابت اور حفظ و ضبط اور اس میں تفقہ کا مشغلہ اس وقت موجود تھا۔ صحابہ حدیث کا دور اور حفظ اسی طرح فرماتے تھے، جس طرح حفاظ قرآن کرتے ہیں۔ فہم کے لیے بھی اسی طرح محنت کرتے تھے، لیکن اس وقت اس کی شکل تذکرے اور نوٹ کی تھی، کتاب کی طرح مدون نہ تھی۔ صحابہ اس کے غوامض کو سمجھتے تھے، لیکن مروجہ کتب فقہ یا شروح حدیث کی طرح لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی، اہل حدیث بھی تھے اور

اصحابِ فقہ بھی، کسی چیز کی فنی تدوین دوسری چیز ہے اور اس کا صحیح فہم دوسری چیز۔

صحابہ کے ان تذکروں میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده کا پورا تذکرہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل فرمایا ہے۔^۱ حضرت ابو ہریرہ کی مسند بواسطہ ہمام بن منبہ مطبوع موجود ہے۔ تابعین کا یہ سلسلہ اور بڑھ گیا اور یہ نوٹ اور ضخیم ہو گئے۔ زہری، ابن عیینہ، عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے اب بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ مسند احمد میں یہی نوٹ بصورتِ مسانید موجود ہیں اور یہ ضخیم چھ جلدوں میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ صدیوں سے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دور فقہاء اور محدثین کا ہے، وہ احادیث کو حفظ بھی کرتے ہیں، اس کے مضمون کو سمجھ کر اس کی روشنی میں فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اس کے مواد کے لیے محلی ابن حزم، معنی ابن قدامہ، مصنف ابن ابی شیبہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس میں آثار کی بڑی مقدار موجود ہے۔ اسے فقہ کہیے یا آثار، ان لوگوں نے قرآن اور سنت سے سمجھ کر یہ فتوے دیے، بلکہ محدثین کی فقہ کے لیے تو قرآن و سنت کے بعد یہی آثار اجتہاد اور استنباط کی اساس اور بنیاد ہیں۔ (حجۃ اللہ: ۱/۱۱۹)

تدوین حدیث کا دور:

اس کے بعد تدوین حدیث کا دور شروع ہوتا ہے، اس وقت کی مصنفات میں احادیث پر تبویب کی گئی ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، موطاء، ابن ماجہ وغیرہ کے مصنفین نے تبویب کی ہے۔ احادیث سے مسائل استنباط فرمائے ہیں، جس سے انسان میں قوتِ استنباط پیدا ہوتی ہے۔ مذاہبِ اربعہ کی کتبِ فقہ تو مسائل کی نقل ہے، ان کتابوں سے استنباط کا ملکہ مشکل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان ضخیم کتابوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ فقیہ نہیں؟ ان کا کام الفاظِ حدیث کا حفظ تھا؟ یہ صرف فن کار تھے؟ ایک پڑھا لکھا شخص جسے حدیث کی کتابوں پر سرسری عبور بھی ہو،

۱ مسند احمد (۲/۳۱۲-۳۱۹/۲)

اسے یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ ائمہ حدیث کو غیر فقیہ کہے۔

امام بخاری کی تہویب نے بڑے بڑے ارباب فقہ و بصیرت کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ باقی محدثین ابو داؤد، نسائی، ترمذی، موطاء، ابن ماجہ کی تہویب نے ان کے تفقہ اور فقہی بصیرت کو واضح کر دیا ہے۔ جہاں تک احادیث سے مسائل کے استخراج اور فہم کا تعلق ہے، ائمہ حدیث کی تہویب میں صحیح اور معیاری فقہ پائی جاتی ہے۔

اگر فقہ فرضی صورتوں کا نام ہے اور اس سے غیر موجود بلکہ ناممکن الوقوع معاملات اور احکام کا تعلق ہے تو واقعی اہل حدیث کی فقہ یا فقہ الحدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ یہ خوبی فقہ العراق میں ہوگی، لیکن یہ دراصل فقہ نہیں۔ ائمہ حدیث کا مقام تو مصطلح فقہاء سے کہیں زیادہ ہے۔

فرضی صورتوں پر احکام مرتب کرنا بھی کوئی مشکل چیز نہیں، لیکن ”علم ما لم یقع والجهل عما وقع“ اہل حدیث کے نزدیک اسے فقہ کہنا ہی درست نہیں۔

شاہ ولی اللہ چاہتے ہیں کہ مروجہ فقہ کو حدیث اور آثارِ سلف کی تائید حاصل ہو اور ظاہریتِ خالصہ کو تعلق اور قیاسِ جلی سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا مقصد صرف اسی قدر ہے، جسے مستقل طور پر گھبراہٹ کا پیغام سمجھ لیا گیا ہے اور حضرات دیوبند اور ارباب بریلی دونوں اس مکتبِ فکر سے گھبرانے لگے۔

حضرات بریلی سے تو کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ وہاں پورا انحصار ہی جذبات اور چند نعروں پر ہے۔ عوام کی پیدا کی ہوئی رسوم اور چند بدعات کا نام شریعت رکھ لیا گیا اور غلط قسم کے رکھ رکھاؤ کو ادب سے تعبیر کر لیا گیا ہے، ان حضرات کے نزدیک یہی چیزیں کتاب و سنت کا نعم البدل ہیں۔ یہ حضرات توحید و سنت کی ٹھوس آواز سے ڈریں تو بجا ہے، لیکن تعجب حضرات دیوبند سے ہے، وہ بھی وہابی کے لفظ سے اس قدر گھبرائے کہ میدان چھوڑ گئے !!

سانحہ بالا کوٹ کے بعد ان حضرات کی رمی تصوف کے ساتھ کچھ ایسی وابستگی ہوئی

اور بیعت و ارادت ان میں کچھ اس انداز سے آئی کہ یہ حضرات بریلی سے بہت قریب پہنچ گئے۔ اذکار و اوراد میں بھی سنت کا معیاری مقام قائم نہ رہ سکا۔ نماز کے وقت اور بیعت میں بھی تسکین اور اطمینان قرباً ختم ہو گیا، اور خشوع، انابت، ذوق اور اطمینان برائے نام رہ گیا۔ یہ گراؤ شاہ اسحاق رطانی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن بتدریج بڑھتی گئی۔ توحید کا صحیح موقف بعض حضرات میں تو بے شک نمایاں رہا، لیکن اکثر اہل علم نے دیوبند نے قریباً بریلویت کی چوکھٹ پر گھٹنے ٹیک دیے، اور جو قافلہ اقامت دین اور توحید و سنت کی سرپرستی کے لیے بالا کوٹ کے میدان میں فروکش ہوا تھا، جس نے عہد کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے تجدیدی عوامل اور مقاصد کی روشنی میں دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، وہ بریلویت سے ڈر کر اور وہابیت کی تہمت سے گھبرا کر دم توڑ گیا اور اپنے موحد ساتھیوں کو چھوڑ کر بریلوی حضرات سے صلح کی راہیں تلاش کرنے لگا۔

۶ مئی ۱۸۴۱ء کے بعد یہ گروہ بدستور پسپا ہوتا گیا اور نہ صرف یہ کہ میدان وفا سے پیچھے ہٹ گیا، بلکہ تحریک کی روح جمود اور آزادی فکر سے بھی دست کش ہو گیا۔ میں نے سابقہ گزارشات میں شاہ صاحب کی تحریک کے مقاصد کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کی زبان اور حضرت ہی کے ملفوظات سے عرض کیا ہے۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں گے کہ شاہ صاحب کے ساتھ انتہائی عقیدت کے باوجود یہ امانت محفوظ نہیں رکھی جاسکی، بلکہ شاہ اسحاق کے تلامذہ سے اس کی سرپرستی صرف شیخ الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب اور ان کے تلامذہ نے فرمائی۔

جب تحریک کے سیاسی مقاصد کی تکمیل بظاہر مشکل ہو گئی تو اسے زیر زمین لے جا کر اپنی بساط کے مطابق زندہ رکھا گیا۔ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی صاحب سے شروع ہو کر مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی اور اس کے بعد مولوی ولی محمد اور مولوی فضل الہی مرحوم اور محمد حسین مجاہد کوٹ بھوانیہ اس

وغیر ہم نے اس کے لیے سردھڑکی بازی لگائی۔ رہے حضرات دیوبند سو وہ ملک کی فنی جلی تحریکات میں کام کرتے رہے، لیکن یہ خالص دینی تحریک ان کے فیوض سے محروم رہی، تا آنکہ ملک کی تقسیم نے صورت حال کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔

یہ تو سیاسی صورت حال تھی، لیکن دینی پہلو سے یہ حضرات شاہ صاحب کے پروگرام سے کافی الگ ہو گئے۔ جس جمود کو شاہ صاحب ختم کرنا چاہتے تھے، دیوبند نے پورے زور سے اس کے احیا کی دعوت دی، پوری قوت سے اس کی سرپرستی کی۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریک کے مقاصد کو سیاسی، علمی، معاشی اور فقہی طور پر اپنی بساط کے مطابق جماعت اہل حدیث نے پورا کیا اور ان شاء اللہ کرتے رہیں گے۔

مراد در عہد یست با جاناں کہ تا جاں در بدن دارم

ہوا در آں کولش را چو جان خویشتم دارم^۱

ارباب دیوبند کی اس مصلحت اندیشی کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ ان میں توحید کے داعی حضرات کو خارجی کا خطاب دیا جا رہا ہے اور عوام کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دیوبندی نہیں ہیں۔ اس انتہائی جذبے کی تسکین کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، جو اس اہمیت کے ساتھ پہلے کبھی سامنے نہیں آئے۔

شاہ صاحب سے علیحدگی:

اب ایک اور نوجوان گروہ پیدا ہو رہا ہے جسے شاہ صاحب کے مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ شاہ صاحب کے متعلق عجیب انداز سے بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے۔ یہ حضرات علامہ سید محمد زاہد کوثری مصری سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا سب

۱ میرا محبوب کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب تک بدن میں جان ہے، اس کا عشق دل میں رہے گا۔

سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ رجال کے تذکروں میں قطع و برید کر کے ائمہ حدیث کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کے موجودہ گروہ سے ایک قابل احترام بزرگ ابن ماجہ کے مقدمے میں شاہ صاحب کے متعلق فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا مَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنْ شِئْتَ حَقِيقَةَ مَا قَلْنَا فَلَخْصَ أَقْوَالِ
إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِ الْآثَارِ لِمُحَمَّدٍ وَجَامِعِ عَبْدِ الرَّزَاقِ... الخ. فِهَذَا
دَأْبُهُ فِي تَصَانِيفِهِ، إِذَا نَسِيَ بَدْعِي يَأْتِي بِكَلَامٍ يَلْهَسُ النَّاضِرَ. الخ.“
(ما تمس إليه الحاجة، ص: ۱۴)

یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ عموماً حضرت ابراہیم نخعی کے خیالات کا تتبع فرماتے ہیں، ان کے اجتہاد اور فقہ پر حضرت امام نخعی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی عادت ہے کہ جب وہ کسی معاطے کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ ہشت پھیلا دیتے ہیں (حالانکہ بات فی الحقیقت اس طرح نہیں ہوتی) اس کے بعد فرماتے ہیں:

”فَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ طَالَعْنَا كِتَابَ الْآثَارِ، وَلَخَصْنَا أَقْوَالِ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَابَلْنَا بِمَنْهَبِ الْإِمَامِ،
فَوَجَدْنَا الْإِمَامَ يَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهِدَ النَّخَعِيُّ وَأَقْرَانَهُ، وَنَرَاهُ فِي
كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ يَتْرُكُ رَأْيَ إِبْرَاهِيمَ وَرَأْيَ ظَهْرِيًّا“ (ص: ۱۴)
”ہم نے کتاب الآثار امام محمد کا مطالعہ کر کے امام نخعی اور حضرت امام
ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما کے اقوال کی تخصیص کی ہے، امام کئی مقام پر حضرت ابراہیم کی
رائے کو ترک فرما دیتے ہیں۔“

یہ محض حب علی کے انداز سے فرمایا گیا ہے، حقیقت وہی ہے جو حضرت شاہ صاحب
نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف خود بخود زبانِ قلم پر آ گیا اور فرمایا:
”وَإِنْ كَانَ لَا يَنْكُرُ أَنْ لَأَرَاهُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَثْرًا خَاصًّا فِي

تفقیہ الإمام اُبی حنیفۃ واجتہادہ“ (حوالہ مذکورہ)

”لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا حضرت

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد اور تفہم پر خاصا اثر ہے۔“

شاہ صاحب نے حجۃ اللہ میں جہاں یہ تقابلی فرمایا ہے، ان کا مقصد قلت و کثرت

عددی اور حساب کے قواعد کے لحاظ سے نہیں، ان کا مقصد یہی تاثر ہے۔ آخر آپ

حضرات صاحبین کو دو تہائی مذہب میں اختلاف کے باوجود حضرت امام والا مقام کے

مقلد مانتے ہیں، حضرت امام بھی امام نخعی سے متاثر ہوں تو اس میں جرم کیا ہے؟ اگر

تقلید کا مطلب یہی تاثر ہے تو یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے۔

میرا خیال ہے کہ دیوبندی ذہن یا حضرات احناف سے توحید پسند گروہ پر یہ تیسرا

انقلاب رونما ہو رہا ہے۔ ۶ مئی ۱۸۳۱ء سے پہلے یہ حضرات اہلحدیث سے قریب تھے

اور حنفیت کے باوجود فقہی جمود کو نہ صرف یہ کہ پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسے کلی طور پر

ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کا اصلی تجدیدی کارنامہ تھا۔

۱۸۳۱ء کے بعد ان میں اکثر حضرات تحریک توحید اور اقامتِ دین سے بالکل الگ

ہو گئے اور اسلام کی خدمت کے لیے صرف اسی حد تک مطمئن ہو گئے جو اشاعتِ حنفیت اور

فقہی جمود کے مرادف ہو۔ یہ لوگ شاہ صاحب کے خلفا کے ساتھ نہ چل سکے، اس لیے کہ

وہ جامہ تقلید کے حامی نہ تھے۔ دیوبند کی تائیس حنفیتِ خالصہ کی اشاعت کے لیے عمل میں

آئی، لیکن محدثین کا احترام شاہ صاحب کی تحریک سے ان کو وراثت میں ملا تھا۔

لیکن جو حضرات علامہ کوثری سے متاثر ہیں، یہ حضرات جمود کے داعی ہیں اور

ائمہ حدیث سے بغض ان حضرات کو علامہ کوثری سے وراثت میں ملا ہے اور اس کے

ساتھ ہی حدیث کو حجت شرعی سمجھتے ہیں۔ یہ ہلکا سا تضاد ہے، جسے علم اور مطالعہ کے زور

سے اہمیان قلب کی حد تک یہ حضرات حل فرما لیتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اذہان

میں شاہ صاحب کے تجدیدی کارناموں کا وہ احترام نہیں جو قدمائے دیوبند میں تھا۔ خدا کرے کہ یہ حضرات وسعتِ مطالعہ سے لگری جمود کو توڑیں اور اپنے نظریات کی بنیاد تقلید کی بجائے علم اور تحقیق پر رکھیں۔ ظاہری تنقیص کے باوجود اس میں محدثین کے مسلک کی تائید اور توثیق ہوگی۔ ہماری دلی دلچسپیاں اس نئی تحریک کے ساتھ ہیں۔

خدا تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق مرحمت فرمائے۔

(نعت روزہ الاعتصام لاہور، ۲۳ نومبر ۱۹۶۱ء، جلد: ۱۳، شمارہ: ۱۷ تا ۱۹ فروری ۱۹۶۲ء، جلد: ۱۳، شمارہ: ۲۸)

2

اہلحدیث کا تاریخی موقف
اور
اس کی خدمات

تحریک اہلحدیث

کا

تاریخی موقف اور اس کی خدمات

دنیا میں اچھی اور بُری تحریکیں پیدا ہوتی اور مٹی رہی ہیں۔ بعض تحریکات کی قوت سے حکومتیں تک متزلزل ہو گئیں۔ حسن بن صباح اور شیشین کا اتنا زعب تھا کہ بادشاہ رات کو اپنی آرام گاہوں میں سو نہیں سکتے تھے۔

صالح تحریکوں کا اثر بھی صدیوں تک دلوں کو متاثر کرتا رہا۔ طوعاً و کرہاً لوگ ان تحریکوں سے بہر حال تعاون کرتے۔

تحریک معتزلہ نے مامون الرشید جیسے دانشمند بادشاہ کو بُری طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور یہ فتنہ متوکل علی اللہ کے زمانے تک ائمہ سنت کے لیے وبالِ جان بنا رہا۔ امام احمد اور عبدالعزیز کنانی جیسے اہل حق حضرات حق گوئی کی وجہ سے مصائب میں مبتلا رہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے ”فاز أحمد و خسارنا“ کہہ کر حالات کی ناہمواری کا اعتراف فرمایا۔ رحمہم اللہ۔

تحریک اہلحدیث:

یہ بھی اپنے وقت کی ایک تحریک ہے جس کا مقصد:

- ① اسلام میں اعتقادی اور عملی سادگی کو قائم رکھنا اور افراط و تفریط میں اعتدال کی راہ کا تعین اور اس کی پابندی کرنا۔
- ② محبت اور بغض میں عموماً انسان اعتدال کی حدوں کو پھاند جاتا ہے، ائمہ حدیث ایسے موقع پر ہمیشہ نقطہ اعتدال کی تلاش فرماتے اور لوگوں کو اس سے آگاہ فرماتے۔

۳ قرآن و سنت اور ان کے متعلقہ علوم کی تدوین و اشاعت۔

۴ زندگی کے تمام شعبوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔

روافض کو اہل بیت کی محبت میں غلو تھا اور خوارج کو ان کے بغض میں، اہل سنت نے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح مجسم مانتے تھے اور بعض اس کی صفات کو ایک مفہوم کی حد تک سمجھتے اور ان کی حقیقت سے صاف انکار کرتے۔ ائمہ حدیث نے صفات کی حقیقت کو تسلیم فرمایا اور تشبیہ اور مماثلت کی نفی فرمائی، یہی معتدل راہ تھی۔

قیاس کے ہمہ گیر اثر نے نصوص اور صحیح احادیث کو بے کار کر کے رکھ دیا اور ظاہریت کی طغیانی نے قیاس کا سرے ہی سے انکار کر دیا، حالانکہ نظائر اور ملتی جلتی چیزوں کے احکام بھی باہم متشابہ رہنے چاہئیں، عقل سلیم کا یہی فتویٰ ہے۔ قرآن حکیم نے ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ فرما کر قیاس کے اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ”محلّی“ کے بعض قیمتی مباحث اہل حق کی آنکھوں کے لیے نور ہیں، لیکن بعض مستحکم خیز توجیہات بھی اہل علم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، جہاں وہ رُکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کو تو منع فرماتے ہیں، لیکن پاخانہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔^۱

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں اہل حق کے موقف کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ قیاس کی سمیت کا یہ اثر تھا کہ مسکرات اور محرّمات کی جزوی رخصت دے کر حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی گئی، چنانچہ نبیذ اور طلا وغیرہ کے مباحث فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کی مستندات میں مرقوم ہیں۔ مفکرین قیاس نے پاخانے کی نجاست کو پیشاب سے بھی کم تصور فرمایا ہے، اس لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ میزان الامم حدیث کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے نبیذ اور طلا کا فیصلہ ”کل مسکر حرام“^۲ کی روشنی میں کیا۔ مسکر کا استعمال تو کہیں

۱ دیکھیں: المحلّی (۱/۱۶۶)

۲ صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۰۸۷) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۳۳)

رہا، اس کی صورت کو بدل کر سرکہ بنانے کی بھی ممانعت فرمادی، اور نجاست کے معاملے میں پیشاب وغیرہ اور نجاستوں کا ایک ہی حکم تصور فرمایا۔ قیاس صحیح کا بھی یہی تقاضا تھا اور نصوص کا بھی یہی مفاد۔

الجدیث اور باقی تحریکات:

عموماً تحریکات وقتی تقاضوں کی پیداوار ہوتی ہیں، اس لیے وقتی اور مخصوص مقاصد کی تحصیل کے بعد ان تحریکوں کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مثلاً خاندان نبوت کے یہی خواہوں نے سمجھا کہ خلافت کا حق موروثی طور پر اسی خاندان کو ملنا چاہیے، اس لیے اہل بیت کی طہارت و عصمت میں غلو کیا گیا۔ حضرت علیؑ کو آنحضرت ﷺ کا وصی قرار دیا گیا۔ نماز اور اذان تک اسی مقصد کے مطابق تبدیل کر دی گئیں، لیکن جب اموی اقتدار نے محمد بن الحنفیہ جیسے خاندانی لوگوں کو یزید کی دوستی پر مجبور کر دیا تو تحریک کی معنویت ختم ہو گئی اور اس کے انقلابی ارادے عدم کی نظر ہو گئے۔ تحریک کے ناکام لیڈروں نے تحریک کو عقیدے اور مذہب کا رنگ دے دیا اور اس طرح یہ وقتی مسئلہ ہمیشہ کی تفریق اور دشمنی کا موجب ہو گیا۔ لیڈروں کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی یہی صورت تھی، جس کے نتیجے میں اہل بیت کا تقدس بڑھ چڑھ کر بیان کیا گیا، ان کی قبریں پجئے لگیں۔ مجلس عزائے ایک جشن کی سی صورت اختیار کر لی اور ماتمی جلسہ تقریب شامی کی نمائش کرنے لگا۔ تحریک مقصد حیات کے لحاظ سے ختم ہو گئی، لیکن لازوال دشمنی اور تفریق کی ایک بیماری سی اُمت میں چھوڑ گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان میں ایک نوع کا بعد سا پیدا ہو گیا۔

خوارج نے اس غلو کو توڑنا چاہا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت بشری تقاضوں سے بالائیں ہیں، نہ وہ معصوم اور بے گناہ ہیں اور نہ غلطیوں سے محفوظ، بلکہ فی الواقع ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اس اظہار بیان نے غلو کی صورت اختیار کی اور اہل بیت

کی تکفیر تک نوبت پہنچ گئی۔ اہل بیت کے اقتدار کے خاتمے کے ساتھ تحریک کی عملی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ تحریک کے ناکام لیڈروں نے اسے بھی مذہب اور فلسفے کا رنگ دے کر ایک جدید مذہب کی بنیاد رکھ دی، جس کا اسلام سے بہت کم تعلق ہے۔

متکلمین و مبتدعین:

اسی طرح بعض عقل پرست حضرات نے اسلام کو اصطلاحی عقل اور عرفانی فلسفے کے ساتھ آمیز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اعتزال اور جہمیت پیدا ہوئی۔ خلقِ قرآن اور صفتِ باری کی عینیت اور غیریت کے بے ضرورت مباحث پیدا ہو گئے۔ اسلام کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اسلام کے بعض اساسی اور بنیادی مسائل کا انکار کیا جانے لگا۔ ہمارے متکلمین پر حافظ ابن قیمؒ کی یہ پھٹی کس قدر صحیح ہے:

”لا للإسلام نصروا، ولا للفلسفة كروا“^۱

”نہ اسلام کی مدد کر سکے اور نہ فلاسفہ ہی کی پورش کا مقابلہ کر سکے۔“

آخر علمائے اسلام اور ائمہ حدیث نے جب یونانی فلسفے کا تار پود بکھیر کر رکھ دیا، یونانی فلسفے کے وکیل مقدمہ ہار گئے اور ائمہ سنت نے مدافعت کی بجائے فلسفے پر براہِ راست حملے شروع کیے تو اعتزال و جہمیت جیسی تحریکیں اور متکلمین کی موٹھ گانیاں ہی ختم ہو گئیں اور یہ تحریک بھی صرف کتابوں کے اوراق کی زینت بن کر رہ گئی۔ غرض ہر وقتی تحریک کا یہی حشر ہوا اور وہ اپنا کام کر کے یا ناسازگاری حالات کے اثر سے بے اثر ہو گئی۔

معمر ترین تحریک:

اس سارے عرصے میں تحریکِ الحمدیث بدستور کام کرتی رہی، اس میں جامعیت تھی کہ اس کے خدمت گزاروں کو دنیا کے ہر گوشے میں کام ملتا رہا اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ پہلی صدی ہجری میں حفظ اور کتابتِ حدیث، دوسری میں تدوین

① الصواعق المرملة (۳/ ۹۷۳)

حدیث اور تصنیف و تالیف کی تائیس کے کام، اس کے علاوہ اعتقادی اور عملی بدعات سے دست بدست لڑائی، ان بدعات نے جن چور دروازوں کو تخریبِ اسلام کے لیے کھولا تھا، ان کی نگرانی، اس کے ساتھ مسلمانوں کے جماعتی شیرازہ کی حفاظت، تاکہ ہر دنی حُملوں سے اسلام کی سیاسی قوت تباہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ دور اندیشیاں ہیں جن کے نتائج فکر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بحر زخار کو بار بار جیل جانے پر مجبور کیا، پھر بوقتِ ضرورت اسی حکومت کی حمایت میں، جس نے شیخ کو جیل بھیجا، ایک سیاسی کی طرح میدانِ کارزار میں داؤ شجاعت دیتے نظر آئے اور ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں سے برسوں سینہ سپر رہے۔ یہ اعتدالِ مزاج اور حفظِ مراتب کے وہ عظیم الشان کارنامے اور فوق العادت کام ہیں، جو شاید ائمہ سنت اور اربابِ حدیث ہی کا حصہ تھا، اور یہ تحریک سب سے معمر اور قدیم ترین تحریک ہے، جو ان فتنوں سے عہدہ برآ ہو کر زندہ رہی، کیونکہ یہ تحریک نہ وقتی تھی نہ ظروف و احوال کی پیداوار، بلکہ اس کا مقصد پورے اسلام کی خدمت تھا۔

فتح ہند اور اہلحدیث:

سب سے پہلا قافلہ جو فاتحانہ حیثیت میں ساحلِ ہند پر وارد ہوا، وہ اہلحدیث کا تھا۔ آج بھی سندھ میں شیخ بدیع الدین، ان کا خاندان اور ایک عظیم الشان مکتبہ ہے، جس میں حدیث اور رجال کا بے نظیر ذخیرہ موجود ہے، جو قرونِ ماضیہ کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اس وقت گو سندھ میں الملّی توحید کو وہ قوت حاصل نہیں، لیکن تاریخ کے اوراق ان کی خدمات کو نہیں بھول سکتے۔ اسی طرح مغل فاتحین بھی اسلامی سادگی اور دینِ فطرت کی روشنی سے زیادہ فارسی تہذیب سے آشنا تھے۔

اس لیے ہندوستان میں اسلامی سادگی اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا زور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور نہ خدامِ حدیث کی اس قدر کثرت ہو سکی، جس قدر بعض دوسرے ممالک میں تھی۔ شیخ علی التتقی صاحب کنز العمال اور شیخ محمد طاہر مؤلف مجمع البحار،

شیخ مجدد احمد سرہندی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اس وقت منقہات میں سے تھے۔ اکبری فتنوں کے سامنے کوئی طوطی کی آواز کو سنے یا نہ سنے، مگر طوطی نے اپنا فرض ادا کرنے میں کمی نہیں کی۔ اس وقت اہل حق کس قدر کمزور تھے؟ شیطانی طاقتیں کس قدر جمع ہو رہی تھیں؟ فتنوں کا سیلاب کتنا جاہی خیز تھا؟ حکومت کا لادینی جذبہ اہل حق کے لیے کتنی مصیبت کا باعث تھا؟ اعراس اور مولید کو بعض لوگوں نے اسلام کا بنیادی مسئلہ سمجھ رکھا تھا، تاہم ان بزرگوں نے ان بدعات پر کڑی نکتہ چینی کی۔ غیر اسلامی رسوم اور غیر اسلامی نظریوں کے خلاف ان مجددین وقت کی پُر شکوہ آواز فضاے دہر میں گونجتی رہی۔ رضی اللہ عنہم وأرضاه۔

بدی استیلا:

اس ناخوشگوار ماحول نے اکبر جیسے لُہ انسان پیدا کر کے اہل حق کے لیے فضا کو اور بھی مکدر کر دیا۔ ملّا مبارک کا خانوادہ اسی ظلمت کدہ میں ”ظلمتات بعضہا فوق بعض“ کا حکم رکھتا ہے۔ یہ ایک بدی استیلا تھا، جس کے لیے ایک تیز مسہل کی ضرورت تھی، جس کا نفع تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا اور آخری تدبیر کار کے لیے کارکنان قضا و قدر نے صاحبِ سیف و قلم حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو منتخب فرمایا، جن کی مساعی نے مریض کو موت و حیات کی کش مکش سے نکال کر صحت کے آثار نمایاں فرمادیے۔

اس وقت جماعت کے سامنے سب سے اہم اور پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان میں ایک دینی حکومت قائم کرے، جس کے ارباب اقتدار صحابہ کرام کی سیرت رکھتے ہوں، جن کے اسلام پر غیر مسلم اقلیتیں مطمئن ہوں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ظالم کا بدلہ مظلوم سے لیا جائے۔ ایسی سفاکانہ حرکتیں غیر مسلم تہذیب گوارا کر سکتی ہے، اسلام اسے قطعاً برداشت نہیں کرتا۔

دوسرا مقصد عملی بدعات کے خلاف جہاد تھا۔ اس وقت کے سنی بھی عجیب و غریب

تھے، اہل سنت کے گھروں سے تعزیر کے جلوس نکلتے تھے۔ عشرہ محرم میں سستی بھی سوغوار رہے، حالانکہ ہمارے ہاں ایسے سوگ تین دن سے زیادہ نہیں۔ سالہا سال تک سوگ اسلام کا طریقہ نہیں۔ محرم کی نیاز، اس ماہ میں نکاح کی ممانعت اسلامی حکم نہیں۔

اعتقادی خرابیاں، قبر پرستی، مزار پرستی کا عام رواج تھا۔ اخلاق کا یہ حال تھا بازاری عورتیں گانے بجانے کے لیے اچھے اچھے شریف گھرانوں میں آتی تھیں اور پورے معاشرے میں اسے کبھی بُرا نہیں منایا جاتا تھا۔

ارکان اسلام عموماً متروک تھے۔ قبور اور مشاہد کے طواف حج کعبہ کا نعم البدل تھے۔ تعلیمی اداروں کا زیادہ زور منطق اور یونانی فلسفے پر تھا۔ علوم سنت قطعاً متروک تھے، ربیع مشکوٰۃ تمبر کا طلبہ دیکھ لیتے۔ اصلاح حال کا سارا بوجھ صرف شاہ ولی اللہ صاحب روضۃ کے خاندان پر تھا۔ قرآن کے ترجمے نے شاہ صاحب روضۃ پر مصیبت برپا کر دی۔ خانغوی طاقتیں سارے معمورہ میں پھیل رہی تھیں، شیطان ننگا ناچ رہا تھا۔ اہل حق مجبور تھے کہ مصلحت اندیشی سے کام لیں۔

نتائج و عواقب:

نظام حق کی اشاعت کے لیے سنت نبوی کے مطابق سید شہید نے حضور میں آخری جنگ لڑی، جس میں بظاہر ناکامی ہوئی اور بقیۃ السیف پنجاب اور پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ انگریز نے عیارانہ طور پر تحریک کا تعاقب کیا۔ تحریک خفیہ (انڈر گراؤنڈ) ہونے پر مجبور ہو گئی اور جماعت کے کام میں خلفشار سا ہو گیا۔ پنجاب میں مولانا محمد حسین صاحب بنالوی انگریزی حکومت سے تعاون کے حق میں تھے اور بظاہر انگریزی نظام کے شاخو، جس کا سبب انگریزی حکومت کا تشدد اور سخت گیری تھا، اور بعض لادینی تحریکوں کا نشوونما۔ قادیانی اور آریہ سماجی تحریکات کا انگریز کے سہارے زندگی بسر کرنا اور اس کے ساتھ ہی اہل حق کی چغل خوری ان لوگوں کا شیوہ تھا۔ اس لیے مجھے یہ ناخوشگوار اعتراف کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ مرحوم مولانا محمد حسین صاحب

جید عالم اور دُور اندیش مفکر ہونے کے باوجود اپنے دوسرے رفقا کی طرح مقامِ عزیمت پر قائم نہ رہ سکے۔ حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الاستاذ حافظ عبد المنان صاحب مرحوم و مغفور وزیر آبادی، لکھنوی علمائے کرام اور بعض دوسرے اہل فکر صرف قرآن عزیز اور حدیث شریف کی نشر و اشاعت پر قانع ہو گئے، ان بزرگوں کے اثر سے قرآن و حدیث کے درس جا بجا کھل گئے۔ اعتقادی و عملی بدعات ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔

مصائب و آلام کے جس سیلاب سے تحریک اہلحدیث کو اس وقت گزرنا پڑا، دریائے شور کی سیر جس طرح ہمارے اکابر نے کی، جو جیل کی اذیتیں ان بزرگوں نے سہیں، آج لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

مجاہدین کا گروہ:

حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری، صوفی دلی محمد صاحب فیروز پوری، مولوی اکبر شاہ سخا نوی، مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدستور نظام اسلامی کی اقامت کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ یہ کوششیں خفیہ طور پر جاری رہیں اور عام حریت پرور تحریکات میں جماعت کی اکثریت کام کرتی رہی۔ خلافت، کانگریس، احرار، مسلم لیگ وغیرہ جماعتوں میں اہلحدیث نے صرف اسی نقطہ نگاہ سے کام کیا کہ اس ملک میں کلمۃ اللہ کو بلند کیا جائے۔ اس مجاہدانہ تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یورپ کے مدبر پوری کوشش سے سرگرم تھے، اور یہاں اقامتِ دین اور کلمۃ اللہ کی سر بلندی کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی مساعی کار فرما تھیں۔ اصلاحِ حال کا سارا بوجھ اسی مختصر جماعت پر تھا جن کے پاس دولتِ ایمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا اور اس کے علاوہ ملک کے شکست خوردہ ذہن ”وہابی“ کے لفظ سے اس قدر بدکتے تھے: ﴿كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّتَنَفِرَةً﴾ ﴿فَرَّتْ مِنْ قَبْرَةٍ﴾ (المدثر: ۵۱)

مناظرانہ سرگرمیاں:

بعض بزرگوں نے مناظرات کی راہ اختیار کی۔ وقتی خطرات کے لیے یہ ایک مفید علاج تھا۔ ممکن ہے ان کی افادیت میں کسی دوست کو اختلاف ہو، لیکن وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ان کے مفید ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ قادیانیت اور بعض دوسرے فرقوں نے عوام میں جس طرح بدی خیالات کی اشاعت کرنی شروع کی تھی، اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جاتا تو آج پانی سر سے گزر گیا ہوتا۔ اگر صورت حال کو جلد از جلد درست نہ کیا جاتا تو قادیانیت ایک عظیم فتنے کی صورت اختیار کر لیتی۔

نصف صدی کی یہ کوشش یقیناً ان فتنوں کے دفاع میں کافی مفید ثابت ہوئی، ورنہ انگریز بہادر کی عطا کردہ نبوت آج ایک مصیبت بن چکی ہوتی۔

میرا مقصد ان گزارشات سے جماعت کی ان خدمات کا مختصر سا جائزہ لینا تھا، جو جماعت نے مختلف طریقوں سے ادا کیں، تاکہ عامۃ المسلمین اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اس تحریک نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا اور ماضی اور مستقبل کی تحریکات اور اس تحریک میں کیا فرق ہے؟

اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق، خلوص اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسلام اور اہل اسلام کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور، ۱۹ اگست، ۱۹۴۹ء)

3

برصغیر پاک و ہند
میں
اہلِ توحید کی سرگرمیاں

برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں

پاکستان میں کچھ عرصے سے اہل بدعت نے انگڑائیاں لینی شروع کی ہیں۔ ادب کے نام سے شرک، توسل کے بہانے سے ماسوی اللہ کی پرستش، شفاعت کے عنوان سے غیر اللہ کی پکار، عرب و عجم میں اہل بدعت اور ارباب شرک کا شیوہ رہا ہے۔ یہی صورت حال پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔

آباء کی جامد تقلید کے سہارے اور عوام کی جہالت کے کھونٹے پر ہمیشہ مشرکانہ رسوم اور بدعات کو زندگی کا بہانہ ملا۔ خاندانی رسوم اور عادات سے عوام کو عموماً اور عورتوں کو خصوصاً جو تعلق ہوتا ہے، اسے اللہ کی یہ مخلوق توڑنا نہیں چاہتی۔ ان عادات کو دراصل عوام آباء و اجداد کی یادگار اور ان کے نام کی زندگی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ دانتوں کی پوری قوت سے انھیں تھامنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب و سنت اور انبیاء علیہم السلام کے گرامی قدر ارشادات بھی انھیں روکنے میں بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی تقلید جامد ہے، جسے ائمہ اسلام اور قائدین سلف نے شرک کہنے میں بھی حجاب محسوس نہیں فرمایا۔ آنحضرت ﷺ، فداہ ابی و امی، نے جب سے شرک کی بستیوں کو ویران فرمایا، مشرکین کی جمعیتوں کو پارہ پارہ کیا اور تقلید آباء اور مشرکانہ جمود کی کمر کو توڑا، اس وقت سے بدعی رسوم اور مشرکانہ عادات کے لشکروں میں انتشار رونما رہا اور ان کے حامیوں کو جمعیت نصیب نہ ہو سکی۔

اسلام سے قبل اور اسلام سے بعد شرک اور بدعت کو فروغ ہوتا رہا۔ اجماع و انصار

بھی کم و بیش ملتے رہے، مگر اہل حق کے مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی اور نہ استدلال و براہین سے مقابلے کا حوصلہ ہو سکا۔

مغل سلاطین کے آخری دور میں محل سرائے میں ہندو رسوم اور شرک و بدعت کے لیے ماحول بے حد سازگار کر دیا گیا تھا۔ رفض و برہمیت کے جوڑ توڑ سے قرآن و سنت اور سلف کے مکتب فکر کی مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ فتنہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ علما کی معمولی کوششیں کچھ بھی کارگر نہیں ہو سکتی تھیں۔ وقت کسی بہت بڑی قربانی کا متقاضی تھا۔ رفض کا سازشی مزاج نمایاں ہو چکا تھا اور شرک و بدعت کی سرپرستی کے لیے ولایت سے انگریزی فوجیں کلکتہ کے ساحل سے اتر کر دہلی تک پھیل چکی تھیں۔ اس جوڑ توڑ سے اولیاء الشیطان اور اساطین شرک و بدعت کو جس قدر مدد مل سکتی تھی اور جس حد تک وہ مضبوط ہو سکتے تھے، ظاہر ہے یہاں معمولی علما کی دال نہ گلے تو تعجب نہیں۔ ایسے وقت میں اہل حق کو یا تو پوری قوت سے میدان میں اترنا چاہیے یا پھر قوتِ اعجاز کا انتظار کرنا چاہیے۔

ایک قرشی خاندان:

سوت و حیات کی اس کارگاہ میں وقت کی آواز کے مطابق ایک نجیب الطرفین قرشی خاندان مقتل کی پوری فضا پر قابض ہو گیا۔ اس قربانی کی داغ بیل گیارہویں صدی کے آغاز میں ایک المعری فاروقی نے ڈالی تھی، جس نے تجدید کی شان سے شیطان کے لشکروں کو للکارا۔ اس نے اپنی بے پناہ قوت سے شاہ جہان اور جہانگیر کے تاج کو جھنجھوڑا، اس نے حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا کہ یہ تخت و تاج تمہارے آبا کی میراث نہیں، یہ میرے رحمان اور قہار رب کا عطیہ ہے۔ اگر تم اس کی ذمے داریوں کو پورا نہیں کرو گے تو یہ تخت و تاج تم سے بزور واپس لے کر کسی اور کے سپرد کیا جائے گا۔ ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَنْتَبِذْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا

أَمَّا لَكُمْ [محمد: ۳۸] رحمانی طاقتیں تہاریت کے رنگ میں ظاہر ہوں گی۔

اس مقدس انسان نے پوری سنجیدگی سے کہا کہ تخت و تاج عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، اللہ کی کتاب اور محمد عربی ﷺ کی سنت کی نگہداشت کے لیے ہے۔ جو یہ خدمت نہیں کر سکتا، اسے خود بخود یہ کرسی خالی کر دینی چاہیے۔ اس تخت و تاج کا مقصد خدمت ہے، ریاست نہیں۔ یہاں غلامی مطلوب ہے، شہزادگی مقصود نہیں۔ اس بادشاہت کا یہ فٹنہ نہیں کہ اللہ کی مخلوق تمہاری تعظیم کے لیے سر بسجود ہو اور تمہاری گروئیں رعوت سے تنی رہیں، تم رقص و سرود اور فسق و فجور میں زندگی بسر کرو اور مخلوق تمہارے سامنے کورٹش بجالائے۔

اس اخلاص بھری آواز کا جواب قلعہ گوالیار میں قید اور کئی سال تک نظر بندی کی صورت میں دیا گیا، لیکن یہ استبداد دیر تک نہ رہ سکا۔ آخر جیل کے دروازے کھولنے پڑے، نظر بندیوں کے تار، تار تار ہو کر رہے اور سچائی کے سامنے جھکنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ امام ربانی کے مکتوبات اور مجدد اعظم کی تعلیمات نے جو صور پھونکا تھا، اس نے بدرتج حشر کی صورت اختیار کر لی اور ایک پورا خاندان اصلاح حال کے لیے میدان میں آ گیا۔ اس نے ایلئس کو چیلنج کیا کہ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائے، خدا سے جنگ کا نتیجہ اچھا نہیں۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ:

اس کارزار کے معرکہ میں اسلامی عساکر کی رہنمائی کا ذمہ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے لیا۔ انھوں نے حکیمانہ انداز سے پورے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ انھوں نے مغل بادشاہوں کی عیاشیوں کو دیکھا اور انھیں اس سے ڈکھ ہوا ان کے مخلوں کی بدعات کو دیکھا تو انھیں رنج ہوا۔ انھیں خواجہ سراؤں کی بد معاشیاں اور داشتہ عورتوں کی عصمت ریزیاں معلوم تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مغل خاندان اپنی زندگی کا

حق کھو چکا ہے، اس کی بساط کو زود یا بدیر پلٹنا ہے۔

انھوں نے ان جاہل بادشاہوں کی معذوریوں کو بھی دیکھا۔ انھیں محسوس ہو رہا تھا کہ رفض نے حسب اہل بیت کے نام سے کتنا وسیع جال پھیلا رکھا ہے اور یہ ناخواندہ بے خبر شہزادے کس طرح اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ حسینی برہمنوں نے کیسے ڈھونگ رچا رکھے ہیں اور یہی حال اس وقت عام علما اور پیشہ ور فقرا کا تھا۔

پھر گیارھویں صدی کے آغاز میں جہاں گنتی کے چند اہلیس تھے، اب پڑھے لکھے شیطان ہزاروں کی تعداد میں پھیل رہے ہیں، جو برائی کو پھیلانے کے لیے پرانے لوگوں کی جگہ سنبھالنے کو منتظر بیٹھے تھے۔ یعنی اس وقت ہزاروں فتنے صرف لمحوں اور گھڑیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ صاحب کو دکھ بھی ہوا اور ان لوگوں پر رحم بھی آیا، اس لیے اس وقت کے مجدد کی آواز میں کڑک کی بجائے ایک لوج تھی۔ اب لکار نہیں، بلکہ ایک سنبھلی ہوئی پکار تھی۔ اسے اس بھنگی دنیا پر رحم آیا، اس نے پورے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ کبھی تصوف کی زبان میں بولا اور کبھی لوگوں نے سمجھا کہ چھٹی صدی کا غزالی تزکیہ قلب کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کبھی وہ پانچویں یا چوتھی صدی کے فقہی جمود کی زبان سے بولا، لوگوں نے جانا فقہی فروع کا ماہر اور ائمہ فقہ کے اجتہاد و استنباط کا بہترین ترجمان دنیا سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ کبھی وہ یوں گویا ہوا: ”وئی اہلجملہ مسلک فقہاء محدثین پسند افتاد“ دور اندیش لوگوں نے جانا کہ مسلک سلف کا داعی، فقہی جمود کا محقق و نقاد قرون خیر کا پیغام لے کر دنیا کی راہنمائی کے لیے آ پہنچا ہے۔ غرض ہر گروہ نے اسے اپنا سمجھا اور اسی سے استفادہ کی کوشش کی۔ وہ صحیح معنی میں حکیم الامت تھا۔

شاہ صاحب افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسی کوشش فرمائیں جس سے کسی ہنگامے کے بغیر اپنے مقصد میں فائز ہو سکیں۔ لوگ امن کے ساتھ دین حق کو قبول کریں۔

دین حق پورے سکون کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں پر قابض ہو جائے۔ شیطان کا لشکر پوری خاموشی سے اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے۔

یعنی تصوف اعتدال پر آئے، نقیبی جمود ذرا ڈھیلا ہو اور ”ما انا علیہ وأصحابی“ کے لیے صلح و آشتی سے راستہ صاف ہو جائے۔ دین کا اصل سرچشمہ بہر کیف اللہ کی کتاب اور آنحضرت ﷺ کی سنت ہی کو رہنا چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کے مکاتب فکر راہنمائی کے فرائض انجام دیں گے، خود راہ نہیں بنیں گے۔ حجۃ اللہ البالغہ، مصطفیٰ اور مسویٰ، ازالۃ الخفاء، وغیرہ صحف اس حکمتِ بالغہ، اس رصانتِ فکر، اس اعتدالِ فکر کا پتا دیتے ہیں جو حکیم وقت کو عطا فرمائے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ انقلابِ علم و حکمت اور کتاب و سنت کے احیا اور اقامتِ دین کا مدرسہ قرار پائے اور سر زمینِ ہند اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔

ابلیس کی فوجیں:

وقت کا حکیم امن کا خواہشمند ہو، درست ہے، لیکن شر پسند طاقتیں اسے کیوں کامیاب ہونے دیں؟ ان کے پروگرام کی کاسیابی بد امنی میں ہے، کشت و خون میں ہے، ہنگامہ آرائی میں ہے۔ یہ حضرات قرآن عزیز کے ترجمہ پر ناراض ہو گئے۔ قبر پرستی کی مخالفت سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تعزیر داری کو اسلام کا شعار ظاہر کیا جانے لگا، دنیا کو باور کرایا گیا کہ خدا کی کتاب کو ولی اللہ نہیں سمجھ سکتا، اس نے ترجمہ نہیں کیا،

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۶۴۱) اس کی سند میں عبدالرحمن بن زیاد افریقی راوی ضعیف ہے۔ نیز یہ الفاظ ”المعجم الکبیر للطبرانی“ (۸ / ۱۵۲) کی ایک روایت میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ تحت ضعیف اور موضوع ہے۔ دیکھیں: الجرح والتعديل (۵ / ۱۹۷)

تنبیہ: مذکورہ بالا جملہ ایک طویل حدیث ”افتراق امت“ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ طویل حدیث تو صحیح ہے، دیکھیں: اللؤلؤ الصحیحہ (۲۰۴) لیکن یہ مذکورہ بالا جملہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: مجلہ ”الحدیث“، مہرہ (دسمبر ۲۰۰۸، شمارہ نمبر: ۵۵، ص: ۴)

بلکہ بے ادبی کی ہے۔ انسان کا کہاں مقدور کہ وہ کتاب اللہ کے مقاصد کو پا سکے؟ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے مدرسہ رحیمیہ کی مسند سے کام لیا، اس مدرسے میں اساتذہ کی حیثیت مشین کی نہ تھی، نہ طلبہ و سادہ کا مال تھا کہ منڈی سے نکلے اور بازار میں مہنگے ستے بک گئے۔ یہ مدرسہ ایک مکتب فکر تھا، جس میں تصوف کے ساتھ سنت کو آمیز کرنے کی مشق ہوتی تھی۔ فقہ العراق کے ساتھ فقہ الحدیث کا امتزاج کیا جاتا تھا۔

یہ ظاہر یہ فقہ العراق کی ایک درسگاہ تھی، لیکن اس طرح کہ اس پر شیخ علی طاہر المدنی نے حدیث سے اس میں جلا پیدا کر دیا تھا۔ وہاں بدعات کے خلاف خاموش جہاد تھا۔ فقہی جمود میں استنباط اور اجتہاد کی خوشگوار آمیزش ہو رہی تھی۔ یہ مدرسہ فکر بڑی سنجیدگی سے سنت اور فقہائے محدثین کے مسلک کی طرف ترقی کر رہا تھا۔ اس کے نامور تلامذہ میں صاحب "دراسات اللیب" تھے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی صاحب جیسے فحول اہل علم اس مدرسے سے فیض یاب ہوئے۔ پھر ہر ایک اپنی اپنی جگہ امت واحدہ تھا، وہ اسی مسلک کے مبلغ تھے جو انھیں اپنے استاد محترم سے ملا تھا:

”بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ و اصول فقہ اور احادیث کہ متمسک است
قرار داد خاطر بہد و نور نبی روشنی فقہا محدثین افتاد؟“

(نفت روزہ الاعتصام لاہور، ۱۱۔ ۱۸ اکتوبر ۱۹۶۳ء)

① مذاہب اربعہ، اصول اور احادیث کی کتب ملاحظہ کرنے کے بعد نور نبی کی مدد سے دل فقہائے محدثین پر مطمئن ہوا۔

4

ترکِ تقلید
اور
اہلِ حدیث

ترکِ تقلید اور اہلِ حدیث

مدت سے یہ دونوں لفظ عوام کی زبان پر استعمال ہو رہے ہیں اور انہیں عموماً مرادف سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دونوں لفظ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اور ان کی طرف منسوب مسالک کی پابندی کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں، حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ جمود کی مخالفت ان ائمہ کرام اور ان کے اتباع نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد محقق اہل علم ائمہ اربعہ کے ساتھ عقیدت اور ان کے علوم سے استفادہ کے باوجود بعض فروعی مسائل میں ائمہ اجتہاد سے اختلاف کا اظہار بھی فرماتے رہے۔

امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ (۳۲۱ھ) امام ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ المرونی (۲۶۳ھ) شیخ الاسلام محمد بن قدامہ حنبلی (۶۰۷ھ) حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) وغیرہم ائمہ اربعہ سے بعض کی طرف انتساب کے باوجود ان سے اختلاف فرماتے ہیں اور اس سے ان بزرگوں اور ان کے متوسلین میں کوئی ذہنی ٹکدر نہیں پیدا ہوتا، نہ ان کے علم اور دین میں کوئی حرف آتا ہے۔

علامہ ابو زید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ الدبوسی (۴۳۰ھ) کی کتاب "تأمیس

النظر" میں حضرات ائمہ اجتہاد رحمۃ اللہ علیہم کے اختلافات کی متعدد صورتیں مرقوم ہیں:

❖ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین میں اختلاف۔

❖ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

❖ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

❖ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

۵ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن زیاد اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

۶ احناف اور امام رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

۷ احناف اور امام مالک اور ابن ابی لیلیٰ میں اختلاف۔

۸ احناف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف۔

علامہ دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصول کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ مجتہدین میں باہم اصولی اختلاف تھے۔ پھر یہ خیال کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم میں تو اصولی اختلاف ہے، لیکن ان کے تلامذہ میں اصولی اختلاف نہیں، سطحی معلوم ہوتا ہے۔ یہ کسی تحقیق پر مبنی نہیں، بلکہ محض خوش فہمی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تلامذہ اپنے اساتذہ سے اسی طرح اختلاف فرماتے جس طرح اساتذہ میں باہم اختلاف موجود تھا۔ حضرات ائمہ اور ان کے تلامذہ کے اختلافات بھی اسی طرح اصولی ہیں، جیسے خود ائمہ مجتہدین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نوعیت میں فرق نہیں۔

لفظ غیر مقلد کی ایجاد:

معلوم ہوتا ہے اس وقت غیر مقلد کا لفظ یا تو ایجاد ہی نہیں ہوا ہوگا یا پھر بطور طعن اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ائمہ اسلام، صلحاء امت میں مروج نہیں ہوا تھا یا کوئی سیاسی ضرورت ہی نہ تھی جس کے لیے یہ لفظ ایجاد کیا جاتا۔

اسی طرح تقلید بھی کوئی قابل فخر لقب نہیں تھا، جس کے ترک کو عیب سمجھا جائے یا اس کے ترک پر کم از کم افسوس ہی کا اظہار کیا جائے، بلکہ ائمہ معقول فلاسفہ و متکلمین کے نزدیک چونکہ منقولات کا مقام کسی طرح بھی ظن سے اونچا نہیں، اس لیے وہ ائمہ سست کو فقیہ ہوں یا فقیہ، مجتہد ہوں یا غیر مجتہد، ”مقلد“ کہتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں دلیل کا انحصار صرف عقلیات پر ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ”فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة“ میں معتزلہ اور

اشاعرہ کے خیالات میں الزامی تقابل اور باہم اِکفار و کھفیر کے تذکرے میں فرماتے ہیں:

”فإن تخبط في جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه
فاعلم أنه ليس من أهل النظر، وإنما هو مقلد، وشرط المقلد
أن يسكت ويسكت عنه“ (ص: ۱۸)

”مگر کوئی ان الزامات کے جواب سے عاجز آجائے تو وہ مقلد ہے اور
مقلد سے گفتگو کی بجائے خاموشی بہتر ہے۔“

قرون خیر کے بعد عمل اور اعتقاد کی دنیا میں عجیب اضطراب معلوم ہوتا ہے۔
تقلید یا جمود تو کیا ہوگا، اعتقاد اور فروع کے معاملے میں لگرو نظر اور فقہ و اجتہاد کی مختلف
گوشوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ مثلاً غسان کوئی مرجیہ اور فرقہ غسانتہ کے پیشوا اور
امام ہیں، اور امام محمد بن حسن الہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ (الخطط للمقریزی: ۴/ ۱۷۱) ایمان کی زیادت
اور نقصان کے مسئلے میں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمنوا ہیں، یعنی ایمان کی
زیادتی اور نقصان کے قائل نہیں۔

فرقہ مرہیہ کے امام بشر بن غیاث مرہی کے متعلق مقریزی لکھتے ہیں:

”كان عراقي المذهب في الفقه تلميذا للقاضي أبي يوسف
يعقوب الحضرمي“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مناظرہ ہوا، امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خیالات کا مذاق
آزایا اور فرمایا:

”نصفك كافر لقولك بخلق القرآن ونفي الصفات، و نصفك
مؤمن لقولك بالقضاء والقدر وخلق اكتساب العباد“
(خطط مقریزی: ۴/ ۱۷۱)

① الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۲۰)

② المواضع والاعتبار بذكر الخطط والأثار للمقریزی (۴/ ۱۷۱)

”امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بشر مرسی سے کہا کہ تم آدھے کافر ہو کہ تم قرآن کو مخلوق سمجھتے ہو اور صفاتِ باری کی نفی کرتے ہو، اور آدھے مومن ہو، کیونکہ تم قضا و قدر کو مانتے ہو اور انسانی اعمال کا خالق خدا کو سمجھتے ہو۔“

مقلد اور غیر مقلد کی اصطلاح:

عقیدت کی اس تقسیم اور عقائد و فروع میں عقیدت کے اس تضاد کے باوجود غیر مقلد یا مستقل کی اصطلاح اس وقت استعمال نہیں ہوئی، بلکہ دونوں عقیدتیں معا ملتی رہیں۔ مسائل پر بحث ہوتی اور مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بھی شاید استعمال ہوئے، لیکن اشخاص سے عقیدت اور اس کے تغیر کی بنا پر نہ باہم نفرت پیدا ہوئی نہ ان جوہری اختلافات کے باوجود تباہ بالالقباب کا شیوہ ہی اختیار کیا گیا۔

”وَعَادَتِ الْفِتْيَا إِلَيْهِ، وَانْتَهَى السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ إِلَى بَابِهِ، فَلَمْ يُقْلَدْ فِي سَائِرِ أَعْمَالِ أُنْدَلُسِ قَاضٍ إِلَّا بِإِشَارَتِهِ وَاعْتِنَائِهِ، فَصَارُوا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَى رَأْيِ الْأَوْزَاعِيِّ“
(خطط: ۴/۷۴)

”فتوے کا مدار یحییٰ پر تھا۔ سلطان اور عوام ان کے محتاج تھے، ان کے خلاف منشا کوئی قاضی مقرر نہ ہوتا تھا، اس سے پہلے لوگ امام اوزاعی کے عقیدت مند تھے، اب سب مالکی ہو گئے۔“

حکومت اور مذاہب کی ترویج:

تقلید کے رواج پا جانے کے بعد مروجہ مذاہب محض علم و تہذیب یا تعلیم و تلمذ کی بنا ہی پر اختیار نہیں کیے گئے، بلکہ اس میں حکومت کے رجحان اور وقت کے سیاسی عوامل کو بھی کافی دخل رہا۔ عہدہ قضا کا بھی ان عقائد و خیالات کی ترویج میں کافی حصہ ہے۔ افریقہ میں عموماً سنت اور آثار کی پابندی کا رواج تھا۔ عام لوگ مسلک اہل حدیث

کے پابند تھے، لیکن خلیفہ مرتضیٰ بن ہشام بن عبدالرحمن ۱۸۰ھ میں افریقہ کے حاکم مقرر ہوئے تو انھوں نے یحییٰ بن یحییٰ کو افریقہ کا قاضی مقرر کیا۔ یہ امام مالک کے شاگرد اور ابن وہب (۱۹۷ھ) اور ابن قاسم سے بھی ان کو تلمذ حاصل تھا۔ اندلس میں ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، ان کے حکم کے بغیر کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا اور یہ انھیں علما کو منتخب فرماتے، جو امام مالک کے عقیدت مند ہوتے۔

مقریزی فرماتے ہیں:

اسی طرح جب ہارون الرشید بغداد میں مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے تو انھوں نے حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو ۷۰ھ میں پوری قلمرو کا قاضی مقرر کیا۔

”فلم یقلد ببلاد العراق، وخراسان، والشام، ومصر إلا من أشار به

القاضي أبو يوسف - رحمه الله - واعتنى به“ (مقریزی: ۱/۱۴۴)

یعنی ہارون الرشید نے ۷۰ھ میں حاکم قضا کے تمام اختیارات قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی قاضی نہیں بن سکتا تھا۔

اس کا اثر یہ ہوا کہ عراق اور اس طرف سے آنے والے تمام فاتح اور مبلغ فقہ العراق سے متاثر ہو گئے اور فقہی مسائل میں امام ابو یوسف وغیرہم سے وابستہ رہے۔

یہ سیاسی اور معاشی اثرات ہیں، جو دلائل کے علاوہ ان مذاہب کی اشاعت میں موثر رہے اور عوام کا تاثر علی العموم انہی وجوہات کا مرہون ہے، ورنہ عوام فہم و بصیرت اور دلائل کی قوت و ضعف سے چنداں آشنا نہیں ہوتے، نہ وہ مختلف قیہ امور میں ترجیح دے سکتے ہیں، نہ دلائل میں توازن ہی قائم رکھ سکتے ہیں۔ علما گو دلائل کی قوت اور ضعف کو سمجھتے ہیں، لیکن بیرونی اثرات سے وہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مدارس اور مساجد کی تاسیس اسرا اور ملوک کی کوششوں سے ہوتی اور علما کو وہاں کام کرنے کے لیے ارباب اقتدار سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہوتا۔

مقریزی فرماتے ہیں:

”فلما انقرضت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، أبطل مذاهب الشيعة من ديار مصر، وأقام بها مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام مالك، واقتدى بالملك العادل محمود بن زنگي فإنه بنى بدمشق، وحلب وأعمالها عدة مدارس للشافعية والحنفية“ (عظمت: ۱/۱۹۲)

”سلطان صلاح الدين الیوبی رضی اللہ عنہ نے سرزمین مصر سے شیعی مذاہب کو ختم کر کے وہاں شوافع اور مالکی مکتب فکر کے مدارس جاری کر دیے، جس طرح نور الدین محمود زنگی نے دمشق اور حلب میں شافعی اور حنفی مدارس قائم کر دیے تھے۔“

اس تاریخی پس منظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہی مکاتب فکر اور عقائد کے اختلافات میں جو فرقے نمودار ہوئے، ان میں مختلف موثرات کار فرما تھے۔ بعض اوقات ان کی تبدیلیاں استدلال اور حجت کی وجہ سے ہوئیں۔ کبھی ان تبدیلیوں کی محرک معاشی مشکلات تھیں۔ کبھی اقتدار اور ارباب اقتدار کے ساتھ تعلق نے مسلک اور خیالات میں تبدیلی کی صورت اختیار کر لی، اور ابتدائی زمانوں میں یہ تبدیلیاں اس کثرت اور اس غلبت سے ہوتی رہیں کہ ان سے کوئی ہنگامہ پانہیں ہوا، بلکہ قدرتی یا طبعی معمول تصور ہوتا رہا۔

عقائد کی تبدیلیاں بعض اوقات غیر معمولی صورت اختیار کرتی رہیں، خصوصاً جب حکومت نے کسی فرقے کی سرپرستی اور حکومتی سطح پر اس فرقے کی حمایت کی، جیسے مامون الرشید کا طبعی رجحان تشیع اور اعتزال کی طرف ہو گیا، اس کے بعد واثق باللہ اور معصم باللہ نے بھی ائمہ ملت اور علمائے حدیث پر زعمی کی راہیں تنگ کر دیں۔ کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے اور بعض نے ظاہراً ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی اور بعض کھل

کر سامنے آگئے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت سے مقابلہ کیا اور قید و بند کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ائمہ حدیث پر یہ مصیبت متوکل علی اللہ کے وقت تک قائم رہی۔ متوکل پہلا آدمی ہے جس نے ائمہ حدیث اور داعیان سنت سے پابندیاں اٹھائیں، اپنا رجحان بھی بظاہر ائمہ حدیث کی طرف رکھا، لیکن اس کے باوجود کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ان رجحانات کو ضرور قبول کرے۔

ان اضطرابات میں بھی تہلیل یا ترک تہلیل کے الفاظ کو محبت اور بغض کا معیار نہیں قرار دیا گیا۔ اسے وہ اہمیت دی جو آج کل کے اہم علمی حلقوں میں اسے دی جا رہی ہے۔

صداقت کا معیار:

عقول کی طغیانوں اور درایت کی ان بے قرار یوں میں صداقت کا معیار ائمہ حدیث اور علمائے سنت ہی تھے۔ جس قدر یہ گروہ حدیث اور علمائے حدیث سے قریب ہو سکتا اسی قدر وہ اپنی صداقت پر ناز کرتے اور نقل روایت میں ان ائمہ فن پر پورا پورا اعتماد فرماتے۔ جاحظ معتزلی اور ائمہ معتزلی کے امام ہیں، لیکن اس وقت کے حادث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی اور انہی کو حق پر سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس کا نام ”العثمانیۃ“ ہے، اس کتاب میں علمائے اہلحدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

”وأصحاب الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم عليهم

كان، أو لهم“ (العثمانیۃ، ص: ۱۰۲)

یعنی اہل حدیث ہر صحیح چیز کو بیان کر دیتے ہیں، ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف۔ عقائد اور فروع کے اختلاف اور آراء و افکار کی تبدیلیوں کے باوجود مقلد یا غیر مقلد جیسے القاب کا استعمال بطور واقع ہوتا رہا ہے، لیکن بطور عیب اور طعن یا تعریف و توصیف بالکل نہیں ہوا، غالباً اس لیے کہ اس وقت وہ سیاسی وجوہ موجود نہ تھے، جو آج کل اس تنازعہ بالالقاب کا سبب بن رہے ہیں۔ عوام تو عوام ہیں۔ اچھے علماء اور اصحاب اہلحدیث بھی

ان القاب کا استعمال مدح اور ذم کی نیت سے فرماتے ہیں۔ قدما اہل علم میں یہ انتساب بھی ہوتا رہا ہے اور ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں رہے جو کتاب و سنت سے براہ راست اپنی بساط کے مطابق استدلال فرماتے اور ان نسبتوں سے بالکل بے نیاز ہوتے۔

امام ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے تجویز پیش کی کہ موطا کو پوری قلمرو میں دستور کی حیثیت دے دی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ تجویز مسترد کر دی اور فرمایا:

”إن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تفرقوا في البلاد، فأنتى كل في مصره بما رأى، فلاهل المدينة قول، ولاهل العراق، تعدو فيه طورهم“ (الديباج المذهب، ص: ۲۵)

یعنی صحابہ کرام مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ ہر ایک نے ہر شہر میں اپنی صواب دید کے مطابق فتویٰ دیا۔ اہل مدینہ کا بھی قول ہے اور اہل عراق کی بھی ایک رائے، جو ان کے حالات کے مطابق نافذ ہو رہا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے شخصی آراء و افکار کی قانونی پابندی سے انکار فرما دیا اور مختلف اقوال کی مختلف ممالک میں اجازت دے دی اور جمود اور شخصی آراء کی پابندی کو پسند نہیں فرمایا۔ خلیفہ ابو جعفر نے اسے معقول سمجھ کر اپنا ارادہ بدل لیا۔

❁ شیخ ابواسحاق ابراہیم بن حسین بن خالد (۲۳۰ھ) بڑے عالم اور فقیہ تھے:

”وكان يذهب إلى النظر وترك التقليد“ (ديباج، ص: ۸۴)

❁ شیخ اسماعیل بن اسحاق بن ابراہیم (۲۸۴ھ) کے متعلق مرقوم ہے:

”كان من أهل الفقه والحديث، وغلب عليه الحديث، وكان فتياه بما ظهر من الحديث“ (ديباج، ص: ۹۵)

”یعنی شیخ اسماعیل بن اسحاق فقیہ تھے۔ حدیث کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا، اور ظاہر الفاظ حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔“

❁ شیخ قاسم بن محمد بن قاسم (۲۰۷ھ) کے متعلق مرقوم ہے:

”کان یذهب مذهب الحجة“ (یعنی دلیل کے پابند تھے)

وقت کے بعض مشاہیر کے خلاف کتاب لکھی، اس کا نام ”رد علی المقلدہ“ رکھا۔

(دیباچہ، ص: ۲۲۲)

● ابو عبد اللہ بن محمد بشکوال پہلے شافعی تھے، پھر اسے ترک کر دیا۔ ان کے متعلق مشہور ہے:

”كانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه، خالف فيها أهل

قطره“ (دیباچہ، ص: ۲۷۲)

”ان کے کچھ تفردات تھے، جن میں وہ اپنے ”ہم وطن علما“ کے خلاف

تزوئی دیتے تھے۔“

● شیخ ابو محمد عبد اللہ الاصلی (۳۹۲ھ) امام دارقطنی کے استاد تھے، امام مالک رضی اللہ

کے مذہب کے حافظ تھے:

”ترك التقليد، وكان من أعلم الناس بالحديث، وأبصرهم“

(دیباچہ، ص: ۱۳۹)

یعنی انھوں نے تقلید ترک کر دی تھی، حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔

طبقات کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے

لوگ کثرت سے ملتے ہیں جو مرجع تقلید کے پابند نہ تھے۔ دلائل سے تمسک کرتے تھے

اور اپنے وقت میں قیادت اور امامت کے مقام پر فائز تھے، علما اور عوام میں عزت کی

نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آج کی طرح تشغیر اور تنازع بالاللقاب کا رواج اس وقت

موجود نہ تھا۔ اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اصحاب الآثار وغیرہ ناموں سے بوقت

ضرورت ان کا ذکر ہوتا تھا۔

جمود اور تقلید کے متعلق اجماع کا دعویٰ جس کا ذکر عام سطحی قسم کے لوگ بلا تحقیق

کر دیتے ہیں، درست نہیں۔ یہ درست ہے کہ دونوں رحمان موجود رہے اور علم و نظر

کی کثرت یا قلت کے سبب ان میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ طعن و تشنیع کے بغیر لوگ اپنے

اپنے حالات کے مطابق عمل کرتے رہے۔ علمائے تحقیق بحث و نظر سے مسائل پر گفتگو فرماتے رہے اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرتے رہے۔

اس طرزِ عمل کا سبب:

اس طرزِ عمل کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرونِ خیر میں کوئی اعتقادی فتنہ نہ تھا۔ باہمی رنجشوں سے بعض اوقات اختلافات ہوئے، لڑائی اور نزاع تک بھی نوبت آئی، لیکن اعتقاد میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ شیعہ سنی نزاع میں تفصیل یا طبیعت کے رجحان کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض واقعات سے مختلف طبائع نے مختلف اثر لیے اور ان اثرات کی وجہ سے کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاموشی سے کسی نتیجے پر پہنچا۔ کوئی حادثہ کر بلا اور اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل سے متاثر ہوا، اسلام و کفر یا اعتقاد کے بگاڑ کی حد تک معاملہ نہیں پہنچا، ان مجادلات کی، جو اس وقت ہوئے، ہر ایک نے اپنی معلومات اور اپنے نقطہ نظر سے توجیہ کی۔

دوسری صدی میں جب یونانی علوم سے مسلمان واقف ہوئے، ان سے صفاتِ باری اور اس کی وحدانیت میں شبہات پیدا ہوئے، ائمہ سنت نے ان پر کڑی تنقید فرمائی۔ مصائب میں مبتلا ہوئے، حکومت اور بعض اربابِ اقتدار بھی اس رو میں بہہ نکلے۔ ائمہ سنت نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ قید و بند اور کوزوں کی سزا سے بھی نہ گھبرائے۔ ہر ایک نے فکر و نظر کی ان بدعات سے بچ نکلنے کی کوشش کی۔ ائمہ حدیث اور اربابِ سنت کے پاس تو قرآن و سنت موجود تھے، وہ ان اضطرابات سے بہت کم گھبرائے، بلکہ مقابلے کے لیے میدان میں آگئے اور قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق راہنمائی فرمائی۔ ائمہ بدعت کے خلاف مجاہدانہ اقدامات فرمائے۔ ذات اور صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق جو ہنگامہ پھا گیا تھا، کتاب و سنت کی ہدایات کے مطابق اہل بدعت پر تنقید فرمائی۔ عوام کو بھی سمجھایا کہ وہ ان غلط کار لوگوں سے بچیں۔

جو لوگ کتاب و سنت پر صحیح عبور نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ان بدعات سے ائمہ سنت اور بعض مخصوص علما کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کیا، ان کے ساتھ اخلاص و محبت کی بنا پر ان کے خیالات کو اپنا راہنما بنایا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اعتقادی مسائل میں یہ سب حضرات ائمہ دہشتم متفق تھے۔ اصولی عقائد کے سبب سے ان بزرگوں میں کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن فروع میں یہ حضرات مختلف تھے۔ عوام ان اختلافات سے متاثر ہوئے، اپنے اپنے بزرگوں سے عقیدت کی بنا پر ان فردی مسائل کا اتباع کرتے رہے۔

بتدریج اس محبت نے جمود اور تقلید کی صورت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف تلخ اور تیز الفاظ کا استعمال ہونے لگا اور نوبت سوئے ادب تک بھی پہنچ گئی۔ مقلدین ائمہ سے متاخرین کی کتابیں اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اس بے ادبی کی بڑی مثالیں ملیں گی اور یہ تمام حوالے ائمہ کے اتباع میں آپ کو ملیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو جاہل تک کہا گیا ہے۔^① (نور الانوار)

اس تقلید سے اتنا تو فائدہ ہوا کہ لوگ علمائے بدعت معتزلہ، جہمیہ، معتزلہ، مشبہ، مجسمہ، خوارج اور روافض سے بچ گئے، لیکن آپس میں جس محبت کی ضرورت تھی، وہ نہ رہی۔ اتباع ائمہ آخری ادوار میں اس طرح الجھ گئے: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ متاخرین کے جمود کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ابتدا میں ائمہ کی اقتدا سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا، اس دور میں عقیدت کے باوجود ان ائمہ سے اختلاف بھی ہوتا تھا۔ اس دور کے اہل علم تصوف سے گھبراتے تھے نہ تلقین کی آڑ میں جمود کی دعوت دیتے تھے اور نہ اس فقہ اور تحقیق یا تلقین کو تجاویز بالالقباب کا موجب بناتے تھے، اس تقلید سے اس وقت کے ائمہ تحقیق کو چنداں اعتراض نہ تھا۔

ائمہ حدیث اس وقت بھی اپنی روش پر قائم تھے اور اس نوع کی تقلید کو بھی اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ ان بدعات سے بچنے کے لیے ائمہ سلف کی روش کو کافی

① نور الانوار (ص: ۲۲۸) نیز دیکھیں: کشف الاستار (۴/ ۴۷۳)

سمجھتے تھے۔ اشخاص سے عقیدت، ان کے اجتہادات کی انفراداً اور شخصاً پابندی کی بجائے انھوں نے دور صحابہؓ کے فکر اور انداز فکر کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنایا، اس کھلی فضا میں رہ کر وہ وقت کی بدعات، عقیدہ اور عمل کی محدثات سے محفوظ رہے۔ جمود کی مضرتوں سے بھی انھیں کوئی دکھ نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ حدیث سے براہِ راست وابستہ رہے۔ نصوص کے فہم میں صحابہؓ اور تابعین کے مقدس دور پر اعتماد فرما کر متاخرین کی فقہی مویشگانوں سے مستغنی ہو گئے۔ اس روش کو غالباً نہ ان کے مخالفین نے غیر مقلدیت کہا نہ انھوں نے اس عنوان کے اختیار میں کوئی فخر محسوس فرمایا۔ دونوں اسے اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر وغیرہ عنوانات سے تعبیر فرماتے۔ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھتے۔ درس کی مجالس میں اپنی تحقیق سے طلبہ کو متاثر فرماتے، بنا بر دلائل خود مسلک بدلنے میں تامل نہ فرماتے۔ اس تبدیلی کے باوجود نہ ایک دوسرے کے متعلق آنکھیں بدلتیں نہ دلوں میں بغض پیدا ہوتا، اور اختلافات قائم بھی رہتے، گوارا بھی ہوتے، اختلاف میں بھی اعتدال قائم رہتا۔

اہلحدیث اور غیر مقلد میں تراوف نہیں!

اس وقت عموماً مخالف حلقوں میں اہل حدیث اور غیر مقلد دو ہم معنی لفظ سمجھے جاتے ہیں اور اہل حدیث حضرات بھی اسے گوارا کرتے ہیں، لیکن واقعتاً یہ درست نہیں، اعتقادی بدعات کے دور میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ وہ حنفی بھی ہیں، معتزلی بھی، شافعی، مالکی حتیٰ کہ حنابلہ بھی کلام اور فلسفہ سے متاثر ہونے کے باوجود فروع میں اپنے ائمہ سے وابستہ رہے۔ اشعریت، ماتریدیت کا بھی ان فرعی مسائل سے بنیادی فرق تھا، لیکن اس وقت بھی اہل حدیث مروج تقلید سے انحراف کے باوجود کلام کی جدید راہوں سے چنداں متاثر نہیں ہوئے، بلکہ یہ لوگ ان جدید اعتقادات اور نئی نئی ایجادی تعبیرات سے برسرِ پیکار رہے۔

عقائد اور فروع میں ان کی راہ قدیم اور جدید تشریحات اور تصریحات سے مختلف رہی۔ وہ مثبت طور پر اصول اور فروع میں ائمہ سلف کی روش، ان کے ارشادات اور ان کی تصریحات کے پابند رہے، اور منفی طور پر وہ کسی خاص فرد امام یا مجتہد، اس کی آرا کی جاہ اور کھلی پابندی نہیں فرماتے تھے، اس لیے ہر غیر مقلد کو اہلحدیث نہیں کہا جاسکتا، البتہ ہر اہل حدیث کے لیے ضروری ہے کہ جمود اور تقلید سے الگ رہے۔ ہمارے قریبی دور کے کچھ ایسے افراد اور طبقات ہیں جن کو ترک تقلید کے باوجود اہل حدیث نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اہل حدیث نے ان کے خلاف تنقید میں قیادت فرمائی، اس لیے کہ ان کا تعلق ائمہ سلف سے قائم نہ رہ سکا اور فہم میں خیر القرون کے طریقے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی آرا کو بعض دفعہ ترجیح دیتے تھے۔ مثلاً:

□ سرسید احمد خان (بانی جامعہ علی گڑھ) بڑے آزاد خیال تھے۔ رفیع الیدین اور آئین بالجمہر بھی سنا ہے التزام سے کرتے تھے، لیکن مستشرقین اور غیر مسلم مشنریوں اور سماجیوں سے مرعوب تھے۔ وہ اسلامی حقائق کی وضاحت میں تقلیدی افکار و نظریات کے پابند تو نہ تھے، لیکن معجزات اور بعض دوسرے مسائل میں ان کی آزادی آوارگی کی حد تک تھی، اس لیے وہ غیر مقلد تو ہونگے، لیکن وہ اور ان کے ہم خیال ساتھی اہلحدیث نہیں تھے۔ غالباً وہ بھی اس لقب کو پسند نہیں کرتے تھے اور اہل حدیث نے بھی ان کو کبھی نہیں اپنایا، بلکہ ”إشاعة السنة“، ”ضیاء السنة“ اور اخبار ”اہلحدیث“ میں ان کے خیالات پر مسلسل تنقید ہوتی رہی۔ اس سے قبل حضرت مولانا سید محمد صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متعدد تالیفات (مثلاً: حدیث الغاشیہ و حج المکرامہ) میں بھی موصوف کی گمراہیوں اور کج رویوں پر آگاہ کر دیا تھا۔

□ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بریلوی حنفی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حنفی بھی نہ تھے، اہلحدیث تو کیا ہوئے، البتہ غیر مقلد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ

فقہ حنفی کے پابند تھے نہ وہ صحابہ اور تابعین، ائمہ سلف کی روش پر چلنا پسند کرتے تھے۔ تنقید حدیث کے متعلق وہ ائمہ حدیث کی بجائے اپنی ذات کو معیار سمجھتے ہیں، اس لیے ترک تہلیل کے باوجود اہل حدیث نہیں ہیں۔

مولوی عبداللہ چکڑالوی سنا ہے پہلے رکھی حنفی تھی، پھر ترک تہلیل کے ساتھ حدیث کی طرف جھکے، لیکن انھیں جلد ہی معلوم ہوا کہ ان کا مزاج حدیث پر مطمئن نہیں ہوگا۔ سنا ہے طبیعت میں غلو اور تعسف تھا اور ذہن بھی نہیں تھے۔ ایسے آدمی کے لیے اہل حدیث ہونا ممکن ہی نہ تھا، چنانچہ وہ اور مولوی حسرت علی، مولوی رمضان گوجرانوال، رشید احمد وغیرہم، گجرات، ملتان اور ڈیرہ غازی خاں کے منکرین حدیث اور ہمارے ہم عصر غلام احمد پرویز؛ یہ حضرات آوارہ مزاجی کے لحاظ سے صرف غیر مقلد ہو سکتے ہیں، بلکہ نفس اسلام کی پابندی سے بھی کافی حد تک آزاد ہیں۔ اس لیے وہ احادیث اور ائمہ سلف کی پابندی خود ہی پسند نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی مرمت اور ترمیم بھی اپنی خواہش سے فرماتے ہیں۔ ہم بھی انھیں غیر مقلد سمجھنے کے باوجود اہل حدیث نہیں سمجھتے۔ انکار حدیث کے بعد اہل حدیث ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ہمارے پرانے ساتھی حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب لائل پوری جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد ”اہل حدیث“ سے بھی الگ ہو رہے ہیں اور مروجہ تہلیل مسالک سے بھی ان کا کچھ نمایاں تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ وہ آج کل تقریباً ملائے اعلیٰ کے قریب تشریف رکھتے ہیں۔ وہ کسی ہائی قسم کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، جو موجودہ اسلام پسند اور دین پرور جماعتوں میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ اصل اسلام کے لیے آج کل کافی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی راہنمائی فرمائے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے وہ اہل حدیث سے کافی چڑے ہوئے ہیں اور اس غریب جماعت سے خاص طور پر آج کل ناراض ہیں، لیکن ہمیں ان

سے کوئی بحث نہیں، البتہ خطرہ ضرور ہے، ان کی اس تلقین سے نہ مقلد پیدا ہوں گے نہ اہلحدیث، البتہ غیر مقلد شاید پیدا ہو جائیں۔ ہماری دانست میں وہ اب بھی اہلحدیث ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں: ”میں نہیں۔“ ہم انھیں مجبور نہیں کرتے، البتہ اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ تفریق عنوان سے نہیں ہوتی، معنون سے ہوتی ہے اور یہ تفریق غالباً آپ کی موجودہ دعوت میں بھی موجود ہے۔

ہمارے ایک مخلص اور پرانے رفیق ہجرات میں تشریف رکھتے ہیں، وہ اپنے اسم گرامی کے ساتھ ہمیشہ ”اثری“ لکھا کرتے تھے۔ توحید و سنت کی حمایت میں بڑی موثر تقریریں فرماتے تھے۔ اہل حدیث مجالس میں بڑے شوق سے شامل ہوتے تھے۔ کچھ عرصے سے انھیں جدت پسندی کا عارضہ ہوا۔ بعض غیر معروف مسائل میں انھوں نے تفرّد ظاہر فرمایا۔ عوام نے ان پر خاموشی کا اظہار کیا۔ اب انھوں نے بعض متواتر اور منصوص مسائل میں جمہور ائمہ اہلحدیث اور اکابر اہل سنت کے خلاف راہ ”اجتہاد“ اختیار فرمائی اور محنت کر کے حضرت مسیح کا باپ تلاش کر لیا۔ احباب نے کئی دفعہ مطالبہ کیا کہ جماعت اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ شخصی تفردات کتنے ہی گمراہ کن کیوں نہ ہوں، اس سے کوئی جماعتی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے حضرات غیر مقلد تو کہلا سکتے ہیں لیکن اہلحدیث قطعاً نہیں ہو سکتے۔ متعارف اور مسلمہ مسائل سے اگر انحراف کی کبھی ضرورت محسوس ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک کیا جائے اور اس کے لیے بھی طریقہ سلف یعنی صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین ہی قائم کا اختیار کیا جائے، جیسا کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو لکھا تھا:

”أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتداء بهم وترك البدع... وترك الجلوس مع أهل الأهواء... والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل

القرآن... ومن لم يعرف تفسير الحديث وبلغه عقله، فقد كفى ذلك، وأحكم له فعلية بالإيمان به والتسليم له^①

(طبقات الحنابلة: ۱/ ۲۴۱)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس جماعت کا تعارف ان لفظوں سے دیا ہے:

”هم الآخذون في العقيدة والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنة، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين.“ الخ^②

ہر آدمی جو چاہے اس کا نام ”تحقیق“ رکھ لے تو ساری دنیا کے اہل بدعت اور ملاحظہ ارباب تحقیق قرار پائیں گے۔ اپنے رکھا اور مخالفین دونوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ترک تقلید دوسری چیز ہے اور اہل حدیث دوسری چیز، انھیں مرادف اور ہم معنی نہیں سمجھنا چاہیے۔

(ملت روزہ الاعتصام لاہور، ۲-۹-۱۶ جولائی ۱۹۶۵ء)

① ہمارے نزدیک سنت کے اصول صحابہ کرام کے صحیح کی پابندی کرنا، ان کی اقتدا کرنا، بدعات کو چھوڑنا اور اہل بدعت کے ساتھ عدم مجالست ہے۔ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور وہ قرآن کے دلائل ہیں، جو شخص حدیث کی تفسیر نہیں جانتا اور نہ اس کی عقل کی وہاں تک رسائی ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پس اس پر لازم ہے کہ حدیث پر ایمان لائے اور اسے تسلیم کرے۔

② حجة الله البالغة (۱/ ۳۵۹)

مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر

مئی ۱۹۶۵ء کے فاران میں مولانا محمد تقی صاحب عثمانی نے مروجہ تقلید کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا تھا، حضرت الامیر المرکز یہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی شیخ الحدیث گوجرانوالہ۔ مدظلہ۔ نے اس کے پیش نظر مسئلہ تقلید کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مقالہ سپرد قلم کیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقلید کہاں؟

مئی ۱۹۶۵ء کے ”فاران“ میں مولانا محمد تقی صاحب عثمانی نے مروجہ تقلید کے متعلق اپنے گرامی قدر خیالات کا اظہار فرمایا۔ مولانا نے اس موضوع پر تلخی اور طنز سے بچ کر اپنا نقطہ نگاہ پیش فرمایا ہے، ہم مولانا کے شکر گزار ہیں۔

مولانا نے تقلید کے لغوی مفہوم سے براءت کا اظہار فرمایا ہے۔ امید ہے کہ تقلید کے عرفی اور اصطلاحی مفہوم پر بھی غور فرمائیں گے۔ اہل علم اور دانشمند علماء کو اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دراصل یہ مسئلہ اتنا مجھا گیا ہے کہ انجام کار یہ ایک لفظی نزاع بن کر رہ گیا۔ اصطلاحی مفہوم بھی چنداں دلچسپ نہیں، جسے علمی ذہن خوشی سے قبول کریں۔ ایک بحث ضرور ہے، معلوم نہیں کب تک رہے؟ جہاں تک نظریے کا تعلق ہے، کسی حلقے میں بھی اسے قبولیت کا مقام حاصل نہیں۔ دنیا ہر معاملے میں تحقیق اور بحث و نظر کی طلبگار ہے، محض سنی سنائی بات کو قبول کرنا سنجیدہ اذہان پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

مولانا نے فرمایا ہے: اس کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔ میری ادبا گزارش ہے اسے ختم فرمائیے، اب اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اتباع، اطاعت کے الفاظ ایسے مواقع میں انسانی نظرت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ کافی ہیں۔ تقلید کے اصطلاحی مفہوم کو آپ لغوی مفہوم سے کہاں تک الگ رکھ سکیں گے؟ اس میں لاعلمی یا قلت علم تو بہر حال ملحوظ رہے گی۔

تقلید کی تعریف:

۱ ”التقلید: العمل بقول الغير من غير حجة“ (مسلم الشوری: ۳/۲۵۰)

۲ ”التقلید: العمل بقول غيرك من غير حجة“

(مختصر ابن حاجب، ص: ۲۲۱)

۴ "التقليد: هو قبول قول بلا حجة، وليس من طريق العلم، لا في

الأصول ولا في الفروع" (أصول فقه، حضري، ص: ۴۵۷)

۴ "التقليد: اعتقاد الشيء، لأن فلانا قاله مما لم يقم على صحة

قوله برهان" (احكام ابن حزم، ص: ۴۰)

مذکورہ تعریضات سے فوائد، قیود یا تحلیل نحوی مقصود نہیں۔ مطلوب صرف اس قدر

ہے کہ تمام تعریضات میں قدر مشترک یہ ہے کہ تقلید بلا دلیل اطاعت اور اقتدا کا نام ہے، جس میں علم و استدلال، نظر و فکر کی جگہ صرف حسن ظن کو دی گئی ہے، اور یہ کہ علماء کی نظر میں یہ علم نہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان کے توام میں علم و تحقیق سویا گیا ہے۔ لاعلمی اور بلا سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح غیر معلوم مسائل میں علماء کی طرف رجوع اور تحقیق اسے کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا۔ شرک اور اس قسم کے الفاظ اسی وقت استعمال ہوں گے جب دلائل سے صرف نظر کر کے محض حسن ظن پر اعتماد کیا جائے اور ایسی باتوں کو دلیل سمجھا جائے، جو حقیقت میں دلیل نہیں۔ اگر یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اشتراک نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے؟

مروجہ مذاہب کی تہمیت میں ایسے مسائل رواج پا گئے ہیں، جن کی دلائل سے تائید نہیں ہوتی۔ حسن ظن یا مفروضہ پابندی کی وجہ سے وہ مسائل مسلمہ اور معمول بہا ہو گئے ہیں۔ مثلاً سواک کے نزدیک نماز میں کھلے ہاتھ چھوڑنا۔ شوافع کے نزدیک ایسی لڑکی سے نکاح جو ناک کی اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ احناف کے نزدیک قنوت وتر کا وجوب، غمر سے سرکہ بنانے کی اجازت، رضاع کی مدت اڑھائی سال۔ ان جزئیات میں ہر فریق کی موٹھکانیاں معلوم ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ ان کے متعلق کوئی نص موجود نہیں۔ دینی علماء کے خود ساختہ قواعد یا ان پر حسن ظن ہی کی بنا پر یہ مسائل مروج ہو گئے ہیں۔ الزامات اور مناظرانہ لطائف ضرور کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن دلائل نہیں۔

تقلید کا لفظ کب استعمال ہوا؟

مولانا نے فرمایا کہ معلوم نہیں تقلید کا لفظ کب استعمال ہوا؟ آج جو غلط فہمیاں اس کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، اگر علم ہوتا تو یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ ملخصاً سنن دارمی، عقد الجمد، تجید اللہ، دراسات الملیب، میزان شعرانی، جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبدالبر^① وغیرہ کتب میں اس کا استعمال ائمہ اربعہ اور صحابہ کے زمانے میں موجود ہے۔

❖ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”لا یقلدن رجل رجلاً دینہ إن آمن آمن وإن کفر کفر“^②

❖ امام احمد نے فرمایا:

”لا یقلدن رجل رجلاً دینہ، إن آمن آمن وإن کفر کفر“

یعنی کوئی آدمی اپنے دین میں کسی کی تقلید نہ کرے۔

❖ نیز فرمایا:

لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الأوزاعی، وخذ الأحکام من

حیث أخذوا“ (عقد الجمد، ص: ۵۳، طبع مصر)

یعنی کوئی آدمی کسی کی تقلید نہ کرے، اوزاعی کی نہ مالک کی۔

ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید کا لفظ اس وقت کسی خوشگوار انداز سے استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح غیر مقلد کا لفظ شتر بے مہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دونوں لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہو رہے۔

❖ تفصیل کے لیے دیکھیں: جامع بیان العلم باب فساد التقليد و نفيه (۱۵۸/۲)

❖ المعجم الكبير للطبرانی (۱۵۲/۹) سنن البيهقي (۱۱۶/۱۰) حلیة الأولیاء (۱۳۶/۱) علاوہ ازیں

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی سند مستحضر مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”وإما زلة عالم فإن اهتدى

فلا نفلده، دینکم“ کتاب الزهد لوكيع بن الجراح (۲۰۱/۱) جامع بیان العلم (۱۶۳/۲)

تحقیق کا فطری ذوق:

ائمہ اجتہاد رحمۃ اللہ علیہم کی طرف انتساب اور اس میں غایت درجہ تھلب کے باوجود اتباعِ ائمہ میں ایسے اہل علم موجود ہیں، جو ہر مسئلے میں تقلیدی پابندی نہیں کرتے، بلکہ تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے۔ مختصر الطحاوی میں ایسے مسائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں جن میں طحاوی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف فرمایا ہے۔ معانی الآثار میں بھی اس کے کافی نظائر موجود ہیں۔ تقلید کی مصطلح تعریف کے مطابق ایسے بزرگوں کو مقلد کہنا صحیح معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ رجحان تقلید سے بے اعتنائی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔^①

علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ، علامہ کاسانی مؤلف البدائع والصنائع، علامہ سرخسی، قاضی خان، نسبی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، علامہ ابواسحاق، امیراجیم بن علی بن یوسف صاحب مہذب، اسی طرح زرقاتی اور باجی، ابن رشد، شاطبی وغیرہم سب اپنے ائمہ کے مذاہب کو روایت اور درایت کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ ان کے طریق استدلال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر ان کے محقق ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس روش کے بعد انھیں اصطلاحاً مقلد کیسے کہا جائے؟ یہ تعریف ان پر کیسے صادق آتی ہے؟ محترم مضمون نگار مولانا عثمانی نے تقلید ثابت کرنے کے لیے ترک تقلید کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کہاں ہے؟

الحدیث یا مخالفین تقلید:

جو لوگ ترک تقلید کے مدعی ہیں یا انھیں غیر مقلد، لاندھب یا وہابی کہا جاتا ہے، آپ حضرات اور ان کی روش میں قطعاً فرق نہیں۔ وہ اپنے موقف کی حمایت روایت اور درایت سے فرماتے ہیں، آپ کے اور ان کے موقف میں عملاً کوئی امتیاز نہیں۔

① بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "عل یقلد بلا عصبی أو غیبی" (لسان المیزان: ۱/ ۲۸۰) یعنی صرف کوئی متعصب اور بے وقوف انسان ہی تقلید کر سکتا ہے۔

فقہائے محدثین، ائمہِ درایت، حفاظِ حدیث، ائمہِ اصول؛ سب ان کے خوشہ چمن ہیں، ان کے علوم سے استفادہ کے سوا کسی کو بھی چارہ نہیں۔ پھر آپ مقلد ہیں اور وہ غیر مقلد! معاملہ ”مگر سے بدون وہم رنگِ مستانِ زیستن“ کا ہے۔ ایک عقیدت مند دریافت کرتا ہے کہ یہ تقلید کہاں ہے؟

آپ نے لفظِ تقلید کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کا استعمال برعکس نہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری اصطلاح ہی بے عمل ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف میں تو عدمِ علم بطورِ جزو موجود ہے، جس کی تصریح ائمہ کے ارشادات میں موجود ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال أبو عمرو وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وإن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمرو -رحمه الله- فإن الناس لا يختلفون أن العلم المعرفة الحاصلة عن الدليل، أما بدون الدليل فإنما هو تقليد“ (إعلام الموقعين: ٤/١، طبع دہلی)

یعنی حافظ ابن عبدالبر وغیرہ اہل علم کے نزدیک علما کا اجماع ہے کہ مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا۔ علم معرفتہ الحق مع الدلیل کا نام ہے۔ ابن عبدالبر کی بات درست ہے۔ علم اس معرفت کا نام ہے جو دلیل سے حاصل ہو اور دلیل کے بغیر تقلید ہے۔

جمہور شوافع کا خیال ہے کہ مقلد کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ عالم نہیں۔ ”لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه لفظ العالم، وهو قول أكثر الأصحاب، وقول
 ① میں سبک ہوں۔ لیکن دیوانوں کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہوں۔

جمہور الشافعیۃ“ (إعلام الموقعین: ۱/ ۱۶)

”اکثر شوافع کا خیال ہے کہ تقلید سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ فتویٰ کے لیے علم ضروری ہے اور مقلد عالم نہیں ہوتا۔ اکثر اصحاب شافعی اور حنابلہ کا یہی خیال ہے کہ مقلد فتویٰ نہیں دے سکتا۔“

ابن القیم نے اس ضمن میں اور مسالک کا بھی ذکر کیا ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں:

”إنما شأن المقلد أن يسكت أو يسكت عنه“ (فصل التفرقة)

”والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم“ (إعلام الموقعین: ۱/ ۲۳۴)

نیز دیکھیے: الشافعية الكافية لابن قيم

العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان

إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان

”اہل علم کا اجماع ہے کہ تقلید علم نہیں۔ علم ہدایت مع الدلائل کا نام ہے، نہ

تقلید علم ہے نہ مقلد عالم۔“

آپ حضرات بجز اللہ عالم ہیں اور احساس کتری سے مرعوب! جناب اگر تقلید زمانہ صحابہ

یا تابعین میں ثابت فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زمانہ بھی نظر و فکر اور علم و بصیرت

سے خالی تھا۔ یہ کون سا شخص ہے جو جناب صحابہ، تابعین اور ائمہ ہدیٰ کو دس رہے ہیں؟ اپنی

نارسائیوں کا اعتراف مناسب تھا، اپنی علمی کمزوریاں بھی کچھ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہ

ساری دنیا اور اکابر امت بھی تقلید کرتے تھے، ائمہ سلف کے متعلق یہ انداز فکر اچھا نہیں!

محققین اور علما کا حال:

ایک طرف تقلید کے متعلق پہلے اور پچھلے علما کی یہ تصریحات موجود ہیں، دوسری

① فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص: ۷۸)

② الفصيدة التونية لابن القيم (ص: ۹۹)

طرف اہل علم کا یہ حال ہے کہ وہ متون اور شروح میں اپنے مسلک کی حمایت کرتے ہوئے قرآن اور سنت سے استدلال فرماتے ہیں۔ بعض مقامات پر جب ائمہ کی بعض تصریحات کو قرآن یا سنت کے خلاف پاتے ہیں تو پوری جرأت سے تصریحات ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام محمد، امام ابو یوسف، حسن بن زیاد وغیرہ تلامذہ حضرت امام، سرحسی، طحاوی رحمہم کی کتابوں میں ایسا مواد بکثرت موجود ہے جس میں اختلاف کر کے اپنی راہ الگ اختیار کی گئی ہے۔ کہیں نصوص کے فہم میں اپنے امام کی رائے کو معیار سمجھتے ہیں، اس کے بالتقابل دوسرے امام کی رائے کی کچھ پروا نہیں کرتے، حالانکہ وہ مجتہد ہیں۔ یہ جرأت تو تحقیق ہی کی بنا پر ہو سکتی ہے۔

شروع حدیث اور متون فقہ کی شروح میں وہ پوری تحقیق کی داد دیتے ہیں۔ فریق مخالف پر الزامات اور معارضات کی بھرمار کرتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے یا تقلید؟

اس کا تو یہی مطلب ہوگا کہ ان حضرات کو عالم ہونے کے باوجود اپنے علم پر بدگمانی ہے۔ وہ تقلید کی دلدل سے نکلنے کی جرأت نہیں فرماتے یا علم و فہم کو تقلید کا نام دے کر عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ غرض تقلید مصطلح کے لحاظ سے تو ان حضرات کو مقلد کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

تقلید کہاں؟

ائمہ اجتہاد کو تقلید کی ضرورت نہ تھی، ان کا مقام تقلید کے بندھنوں سے بہت اونچا ہے۔ عامی ویسے تقلید سے محروم ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے: "العامی لا مذہب لہ" شامی فرماتے ہیں:

"قلت: وأيضاً قالوا: العامي لا مذہب لہ، بل مذہب مذہب مفتیہ،
وعلله صاحب التحرير بأن المذہب إنما يكون لمن له نوع نظر
واستدلال وبصر بالمذہب علی حسبہ" الخ (رد المحتار: ۲/۲۹۴)

یعنی عامی کا کوئی مذہب نہیں، اس کا مذہب اپنے مفتی یا شہر کے امام کا مذہب ہوگا۔ دراصل تقلید تو وہ کرے گا جسے تھوڑی بہت بصیرت ہو، مذہب کی چھوٹی

بڑی کتاب پڑھا ہوا ہو۔

کم علم طبقہ جسے قہمیات ائمہ سے واقفیت ہو، وہ فقہ ائمہ کی معمولی واقفیت رکھتے ہوں، متون اور بعض متعارف مسائل کو جانتا ہو یا مدرسین کی مختصر سی تعداد جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان کو مناسب استعداد بھی ہے، لیکن ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد تم کو ماخذ دین سے استدلال اور اخذ کا حق نہیں۔ تم اپنے علم کو لائسنس سے تعبیر کرو اور مقلد کہلاؤ۔ ان کی تعداد پانچ فی ہزار بھی شاید نہ ہو، یہی ہمارے تقلید کی تجربہ گاہ ہوں گے۔ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ یہ چند سو یا چند ہزار آدمی مقلد کہلا سکیں گے۔

ایک طالب علم ادب سے دریافت کرے گا کہ تقلید پر اجماع کب ہوا؟ کس نے کیا؟ کہاں کیا؟ ایک ایسی چیز جس کا خارجی وجود ہی عدم کی سرحدوں سے مل رہا ہے، جس سے علماء اور عامی دونوں محروم ہوں، کہاں ہے؟ یہ علم و عرفان کا ایسا گوشہ ہے جس کی نچول اہل علم کو تو ضرورت ہی نہیں، عوام کی رسائی سے اس کا مقام ویسے ہی الگ ہے۔ اجماعی و جب کا اثر کونسی مخلوق پر پڑے گا؟ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو لوگ اس سے کہاں تک متاثر ہوں گے؟ مجتہد اور عامی اگر اس کے اثر سے بچ سکیں تو اس کا حلقہ اثر کہاں تک وسیع ہوتا ہے؟ اور پھر یہ وجوب شرعی ہوگا یا اضطراری؟

معنی میں چلک:

خیال تھا کہ مولانا نے لفظ تقلید میں جس طرح چلک پیدا فرمائی ہے، ان کا ذہن بھی کچھ اپنی جگہ سے سرک کر حالات کی سازگاری میں تعاون کرے گا۔ مولانا کے ارشادات میں وہی مناظرانہ تشدد ہے جو عموماً ہمارے علما کا شیوہ ہے۔ علما کا ایک طبقہ تقلید کو بدعت کہتا ہے، مولانا اسے واجب فرماتے ہیں۔ اتفاق کہاں ہوگا؟

آسان اور مشکل:

اس کے بعد کئی صفحات میں مولانا نے فرمایا ہے کہ آسان مسائل میں تو تقلید کی

ضرورت نہیں، لیکن مشکل ذوالوجہ مسائل میں تقلید کے سوا چارہ نہیں۔

اسی ضمن میں مولانا کا ایک فقرہ عجیب ہے:

”ان تمام معاملات میں اطاعت خالصۃً اللہ اور رسول کی کرنی ہے، اور جو رسول کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہو اور اس کو مستقل بالذات مطاع سمجھتا ہو تو وہ یقیناً دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔“

یہ بالکل اسی قسم کا فقرہ ہے جو ہمارے بریلوی حضرات فرماتے ہیں۔ ہم اہل قہور اور خانقاہوں کو مستقل بالذات خدا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو خدا کے نائب یا مجاز سمجھتے ہیں۔ پھر ادب، وسیلہ، شفاعت وغیرہ عنوانات کے ماتحت شرک کی شاہراہیں کھول دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے دروس میں دیکھیں، آپ حضرات ہمیشہ نصوص کی تاویل فرماتے ہیں، ائمہ کے ارشادات اپنے مقام سے کبھی نہیں ہٹتے، اطاعت دراصل ائمہ کی ہوئی۔ پیغمبر تو قیامت کے دن سوچیں گے کہ نصوص کی ان حضرات نے کس طرح مرمت فرمائی؟ اور اس تکلف میں امام کے ارشادات تو اپنی جگہ پر رہے، تاویل کا خنجر احادیث اور نصوص پر چلا۔ اس لیے مستقل بالذات کا تکلف نہ فرماتے تو بہتر ہوتا۔

زمین بر صوفی و مثلاً سلائے کہ پیغام خدا گفتند مارا
دلے تاویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را^۱

رہا آسان اور مشکل کا مسئلہ تو یہ دونوں چیزیں اضافی ہیں۔ ہر مشکل میں نسبتاً آسانی پائی جاتی ہے اور ہر آسانی میں مشکل کے پہلو پائے جا سکتے ہیں، اس لیے اس تقسیم کا تقلید پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی اس قسم کی تشکیک کسی حقیقت کے لیے معیار بن سکتی ہے۔ بقول مولانا کے ”قرء“ کے معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی۔ زمین کی بنائی کو بعض ائمہ جائز سمجھتے ہیں، بعض اسے نادرست فرماتے ہیں۔ فاتحہ کے متعلق دو احادیث کا محل صحیح ملنا

۱ میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام ہو کہ وہ مجھے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ان کی تاویل و تعبیر میں خدا، جبریل اور مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔

مشکل ہے۔ حدیث «من كان له إمام فقراءه الإمام له قراءه»¹ کا مفاد یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے اور «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»² کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ ضرور پڑھی جائے۔ اس میں اختلاف ہے۔

حدیث کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تقلید نے کیا سہولت پیدا کی؟ ”قرء“ کے دو سحانی سے اپنی لاعلمی اور دوسرے بزرگ پر اعتماد کر کے آپ نے اس کا سحنی حیض سمجھ لیا۔ شوافع نے امام شافعی پر اعتماد فرما کر اپنی لاعلمی کے بہانے سے اس کا معنی طہر سمجھ لیا۔ اس سے نہ آیت کا سحنی صاف ہوا نہ کوئی لغوی مشکل حل ہوئی، بلکہ حضرات احناف اور شوافع دونوں مضبوط مورچوں میں بیٹھ گئے اور ہمیشہ کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ کتب فقہ، ان کے شروع اور حواشی میدان کارزار بن گئے۔ قرآن کی خدمت، نہ سنت کی توضیحات میں کچھ اضافہ ہوا، نہ لغت کو اضداد کے متعلق کوئی اصول مل سکا۔ آسان مقامات میں تقلید کی ضرورت نہ تھی، یہ لسنہ بیکار تھا، مشکل میں جنگ بدستور جاری رہی، اس کو کئی وکاہ برآری سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اگر انصاف اور حق پسندی سے کام لیا جائے تو ساری کوشش اکارت اور محنت بیکار گئی۔ جنگ بدستور رہی اور میدان وفا میں صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ بالکل یہی حال اس جنگ کا ہوا اور سورت فاتحہ کے وجود اور فرضیت کی نزاع وہیں کی وہیں رہی۔ تقلید اور ترک تقلید نتائج کے لحاظ سے یکساں اور برابر رہے۔ اگر تقلید سے اختلاف ختم ہو سکتا تھا تو پھر آپ حضرات ان مورچوں میں کیوں تن گئے؟

رشتہ اُلفت میں اگر ان کو پروا نہ تھی تو
منتشر کیوں پھر تری تسبیح کے دانے رہے

1 یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ سخت ضعیف اور معلول ہے۔ دیکھیں: التلخیص الحبیر (۱/۲۳۲)

2 صحیح البخاری، رقم الحدیث (۷۲۲۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۹۴)

مولانا یقین فرمائیں، محض علما سے استصواب اور ان کی آرا کو نصوص کی روشنی میں قبول کرنے کو نہ کوئی شرک کہتا ہے نہ گناہ۔ بحث اس وقت ہوتی ہے جب کسی عالم کے فہم کو واجب الاجاب قرار دیا جائے اور اس سے اختلاف کو شرعاً حرام قرار دیا جائے، حتیٰ کہ اگر عالم اور مجتہد سے تعلق توڑ دیا جائے تو موجب ملامت ٹھہرے۔ عملاً مرتبہ رسالت سے کون سی کمی رہ جاتی ہے؟

تقلید مطلق اور شخصی:

مولانا نے یہاں تقلید کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ہر قسم کو ثابت کرنے کے لیے تقلید کی حدود سے عبور فرمانا پڑا ہے۔ ہم حضرت مولانا کی اس جرأت پر ان کے شکر گزار ہیں اور سوچتے ہیں کہ تقلید کہاں ہے؟ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جناب جسے تقلید مطلق یا تقلید عام فرماتے ہیں، یہ قطعاً متنازع فیہ نہیں، جس کے لیے جناب فکر و نظر کی تکلیف فرماتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر شاگرد استاد سے متاثر ہوتا ہے اور ہر بے علم یا کم علم کو کسی عالم کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہر عالم کی طرف اور مفضول افضل کی طرف بوقت ضرورت رجوع کرے گا۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور قرآن عزیز کا ارشاد بھی، اس حقیقت سے نہ کسی نے انکار کیا نہ اس کا انکار ممکن ہے، بلکہ متاخرین کے علم کی تو بنیاد ہی حقدمین کے علوم پر ہے۔ ہم لوگ اسے تقلید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ علمی استفادہ ہے۔ ہر ایک ذہن علمی طور پر دوسرے کو مطمئن کرتا ہے، دوسرا ذہن تقلید انہیں، بلکہ تحقیقی طور پر علم و فکر سے متاثر ہوتا ہے۔

اسے تقلید کہنا غلط ہے۔ اگر آپ اس اصطلاح پر مصر ہوں تو ہم اسے خارج از بحث سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نہ ابو یوسف اور محمد بن حنفیہ، امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے نہ معرانی شافعی کے مقلد، یہ ایک تلمیذ کا اپنے شیخ سے تاثر ہے، جس کے نتیجے میں بعض مسائل میں وہ اپنے شیخ سے متفق رہے اور بعض مسائل میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا۔ اس کا جو نام آپ رکھیں، یہ علمی استفادہ ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

مولانا کا ارشاد:

”تقلید کی ان دونوں قسموں کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایک شخص براہ راست قرآن و سنت سے مسائل مستہلک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ جسے قرآن و سنت کا ماہر سمجھتا ہے، اس کے فہم و بصیرت اور فقہ پر اعتماد اور اس کی تشریحات پر عمل کرتا ہے۔“ (ص: ۱۴)

یہ ”کلمۃ حق اُرید بہ التمویہ“ [صحیح بات کے ساتھ دھوکا دہی اور تشویش] کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مستفید جاہل ہے تو وہ امام یا مسؤل کی مہارت کیسے معلوم کرے گا؟ اگر مہارت علمی کا جائزہ لے سکتا ہے تو وہ اس کی فقہ پر کیوں اعتماد کرے؟ اس کے باوجود حاصل تو یہی ہوگا کہ یہ اعتماد وہی لوگ کریں گے جن کو ذاتی بصیرت اور تفقہ سے حصہ نہ ملا ہو۔

اس کے بعد مولانا نے تقلید مطلق کے اثبات پر جن آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کا اتباع اور اطاعت تو طبعاً درست ہے، مگر ایک آیت بھی اس کی تائید نہ کرے، لیکن یہاں پہنچ کر مولانا کے انداز میں ضیق سا پیدا ہو گیا ہے۔ مزاج میں وہ وسعت نہیں رہی، جو ابتدائی سطور میں تھی۔ مولانا اسی سطح پر اتر آئے جس پر مرحوم مولانا مرتضیٰ حسن صاحب دیوبندی رہے اور اسی انداز کے لوگ اس موضوع پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

آیت (۱): ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ﴾ [نساء: ۸۳]

اگر وہ خوف و امن کی مصنوعی اطلاعات کو آنحضرت ﷺ اور دوسرے با اختیار صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو وہ اس سے صحیح نتائج اخذ فرماتے۔

بصا و غیرہ نے نقل اقوال کے سلسلے میں علماء و فقہاء وغیرہ کا ذکر کیا ہے،^۱ لیکن سیاق اس عموم اور شمول سے إباء کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں مرجع اور ارباب نفاق کی

① احکام القرآن للجصاص الرازی (۳/۱۸۲)

ایک خاصی تعداد موجود تھی جو امن اور خوف کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے، اس سے بد مرگی اور بد امنی کا خطرہ ہو جاتا۔ اس حرکت سے اہل ایمان کو روکا گیا اور ہدایت فرمائی کہ ایسی باتوں کو آنحضرت ﷺ اور اولی الامر صحابہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔

اولی الامر کے معنی میں علامہ بھصام کے رجحان کے لیے واقعی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن سورت نساء کی آیت میں قرآن کا تقاضا شرعی مسائل اور فقہی موٹکانوں کی بجائے سیاسی افواہوں اور ارجاف کی مساعی کو ناکام کرنا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مصطلح تقلید کی کسی قسم سے بھی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ غایت یہ کہ اس میں استنباط احکام کی اجازت دی گئی ہے اور اسے اولی الامر اور ارباب اختیار کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے بعد دور تک جنگ کے اثرات اور اہل نفاق کی شر پسندیوں کا تذکرہ چلا گیا ہے، اس لیے اولی الامر سے فقہاء و علماء مراد لینا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ بھصام نے مناظرانہ اعزاز سے دفاع فرمایا ہے، جو چنداں وزنی نہیں۔ مولانا اگر اس کے آگے دو تین رکوع ملاحظہ فرمائیں گے تو یقیناً میری گزارش کو صحیح تصور فرمائیں گے، لیکن ایام جنگ کے مخصوص حالات کو مولانا اشاعت دین کے ہر امن حالات پر مسلط فرمانا چاہیں تو وہ مختار ہیں!۔

آیت (۲): ﴿قُلُوا لَا تَقْرَبُوا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لَا يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ...﴾ میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، ملک میں جنگ ہو یا صلح، تبلیغ اور اشاعت دین، تعلیم و تدریس اور تفسیر فی الدین کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ اہل علم جنگ وغیرہ مشاغل سے واپس آنے والوں کو دین اور اسلام کی باتیں سکھانی چاہئیں، اس میں تقلید مردج کی کوئی گنجائش نہیں، البتہ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، تاکہ جنگوں کے مشاغل اور کاروبار کے جھیلیوں میں دینی علوم ضائع نہ ہو جائیں اور علم و دانش کی محفلیں ویران نہ ہو جائیں۔ تقسیم کار کے طور پر کچھ لوگ اسلامی لٹریچر کی حفاظت کریں اور کچھ قرآن و سنت میں تفسیر اور ضبط کے لیے اوقات عزیز وقف کریں۔ جنگ سے واپسی پر عسکری حضرات بھی اپنی وسعت

اور استعداد کے مطابق ان علوم سے استفادہ کریں۔ آپ ان تذکیر اور تدریس کی مجلسوں کو تقلید کا عنوان دینا چاہتے ہیں تو اس اصطلاح کی وضع میں آپ مختار ہیں، حقیقتاً اس میں تقلید کا شائبہ بھی نہیں۔ کند ذہن آدمی اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔
بصا ص فرماتے ہیں:

”وفي هذه الآية دلالة على وجوب طلب العلم، وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لما تضمنت من الأمر بنظر الطائفة“ (۱۹۸/۳)
یعنی اس آیت سے طلب علم کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔

علامہ بصا ص کی نظر میں بھی اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ پورا طائفہ مجتہد ہو؟ اس لیے کوئی سمجھدار آدمی اس سے مصطلح تقلید نہیں سمجھ سکتا!

آیت (۳): ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [نساء: ۵۹] سے تقلید عام یا تقلید مطلق کا اثبات سبب زوری اور علمی طفیانی کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک ”من“ کے مفہوم میں عموم ہے، لیکن صلہ میں انابت الی اللہ موجب اتباع سمجھا گیا ہے، جس سے مصطلح اجتہاد تو بڑی بات ہے، عربی علوم کا جاننا بھی ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ پھر جناب اسے تقلید مروج کے لیے کیسے مفید سمجھتے ہیں؟
علیکم بالفقہ والدراية والینابة إلى الله والابتهاال إليه فی مثل هذه

المسائل التي قد انشقت بسبها عصا الأمة المرحومة، وصاروا أشتاتا.
(۳): ﴿اقتدوا بالذین من بعدي أبي بکر و عمر﴾ (حذیفہ) اس حدیث سے تقلید عام پر استدلال نرا ہی تکلف ہے۔ اگر مفت میں اجتہاد کی جرأت فرما کر حضرت اقتدا کے معنی تقلید مصطلح فرما سکتے ہیں تو اسی سے تقلید شخص ثابت فرمائیں، پھر دو ائمہ اجتہاد کا نام تو صراحتاً موجود ہے۔ اگر اس قدر جرأت نہیں تو یہ تکلف بھی چھوڑیے، آپ جیسے اکابر

① حسن. سنن الترمذی، رقم الحدیث (۳۶۶۲) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۹۷) مسند أحمد (۲۸۲/۵) اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور امام ابن حبان، ذہبی اور البانی بیئتہ نے صحیح کہا ہے۔

رجال سے ایسا استدلال مذاق سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ارشاد درست ہے، یہاں اقتدا سے مراد صرف انتظامی اور دینی دونوں مراد ہیں۔ ”اقتدی بفلان: تسنن بہ و فعل فعلہ“ یعنی اطوار و عادات اور افعال میں بلا تقلید اتباع اور تتبع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح مقتدی افعال نماز میں امام کا اتباع بھی کرتا ہے، لیکن اگر امام طے شدہ راہ سے انحراف کرے تو اسے تسبیح اور تصفیق سے ٹوک بھی سکتا ہے۔

آپ جیسے اہل علم قطعاً جانتے ہیں، یہ مصطلح تقلید سے بالکل مختلف ہے۔ اس تقلید میں ایک عامی مجتہد پر تقلید اور اس کی روش پر اسے ٹوک سکتا ہے۔ کاش! جناب نے اصلاح کے لیے جب قدم اٹھایا ہے تو پرانی مناظرانہ راہوں سے مختلف راہ اختیار فرماتے۔ وہی پرانی اور روندی ہوئی راہیں، وہی لقمے.. جو بار بار چبائے جا چکے ہیں.. چبائے جا رہے ہیں!!

تقلید مطلق کی مثالیں:

جناب کا یہ ارشاد درست ہے، تقلید عام کی ایسی مثالوں سے جناب مستقل کتاب تیار فرما سکتے ہیں، مگر ادباً گزارش ہے کہ ایسی کتاب کی بازار میں دو کوڑی قیمت نہیں ہوگی۔ جناب کے ارشاد فرمودہ چار دلائل کا تفصیلاً علمی محاسبہ کیا جائے تو آخر اس میں کیا ہے؟

فقیہ اور غیر فقیہ صحابی:

اسی طرح صحابہ میں فقیہ اور غیر فقیہ کی تقسیم شرمناک ہے اور صحابہ کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار رض اور تشیع کا بقیہ ہے۔ ائمہ اصول نے قاضی عیسیٰ بن ابان کے اسی نظریے کی تائید فرما کر اعتزال اور رض کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے بالتقابل علامہ سرحسی کی رائے محقق اور درست ہے۔ ”کشف الاسرار“ اور ”غایۃ التحقیق شرح حسامی“ میں اس مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ اصول کے طلبہ کو اس سوسے اوب پر متنبہ فرمائیں۔ آپ حضرات اپنے مصارف پر مدارس میں اعتزال اور رض کی آبیاری فرماتے ہیں!!

قرآن عزیز کا یہ ارشاد درست ہے: ﴿وَقَوْلِي كُنْ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ [یوسف: ۱۷۶]

صحابہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، وہ حضرات بلا تخصیص عالمِ اُعلم کی طرف اور مفضول اُفضل کی طرف رجوع فرماتے۔ بعض اوقات بحث و نظر میں محض توجہ سے ذہن صاف ہو جاتا ہے، ذہول دور ہو جاتا، بات طویل نہ ہونے پاتی۔ بعض اوقات بحث و نظر کی نوبت آتی، حوالہ دینے کے بغیر مسئلہ صاف نہ ہوتا۔ آپ نے کس قدر غلط فرمایا:

”اور شاید کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جس میں انہوں نے مسئلہ کی دلیل پوچھی ہو۔“

کوئی پڑھا لکھا طالب علم، جس کی دوادین سنت پر نظر ہو، یہ جرات نہیں کر سکتا جو جناب نے فرمائی۔ فاطمہ بنت قیس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تنقید کا یہ حال ہے کہ حوالہ دینے پر بھی اطمینان نہیں: ”لاندری أحفظت أم نسبت؟“^① حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تنہم جنابت پر گفتگو، حضرت عمار اپنا حوالہ دیتے ہیں، حضرت عمر کی معیت بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوتے، نہ ان کو اظہار حق سے روکتے ہیں۔ اس تحقیق و تفقہ کے دور میں آپ تقلید کی تلاش فرماتے ہیں۔ انا للہ!۔

حدیث الحج کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے سے جمہور صحابہ کا اختلاف،^② حوالے سن لینے کے بعد بھی ہر مجتہد اپنی رائے پر قائم رہا۔ آپ فرماتے ہیں: حوالہ پوچھنے کا ایک واقعہ بھی نہیں پایا جاتا!۔ ح

ایں چہ می بینم بہ بیداری است یا رب خواب^③

آپ جیسے اکابر سے اس ذہول کی امید نہ تھی!

استاذان کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری سے شہادت طلب کی۔ ابو موسیٰ اشعری

مسجد پہنچے، وہاں سے ابی بن کعب ان کے ساتھ تشریف لائے۔ جب حوالے کے ذریعے

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۰۱۶) سنن أبی داود، رقم الحدیث (۲۲۹۱)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۴۰) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۶۸)

③ تفصیل کے لیے دیکھیں: زاد المعاد (۲/۱۶۵)

④ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اے رب! خواب ہے یا بیداری!۔

ابوموسیٰ کی تصدیق ہوئی تو معاملہ ختم ہوا۔^① (دیکھو: صحیح مسلم: ۲/۴۱۱)

آپ حضرات کے ہاں حدیث کا چونکہ صرف دورہ ہوتا ہے، سوچنے کا موقع کم ملتا ہے، ورنہ آپ کے قلم سے یہ فقرہ نہ نکلتا۔ امید ہے آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں گے۔ تمام صحابہ جس طرح عدول تھے، اسی طرح وہ سب فقہا بھی تھے۔ آنحضرت ﷺ کی مجلس میں نہ کوئی غیر فقیہ تھا، نہ غیر عادل۔ قاضی عیسیٰ بن ابان بچارہ کون ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو غیر فقیہ کہے؟ یہ حضرت خود معتزلہ کے بچے میں پھنس گئے۔ اصول فقہ میں اعتزال کے جراثیم سب بشر مرسی اور قاضی عیسیٰ بن ابان وغیرہ کی معرفت آئے۔ اہل علم کے قلم سے صحابہ کے متعلق ایسے الفاظ سن کر دل لرز جاتا ہے۔

آپ نے موطا امام مالک سے عبید ابوصالح کا قول نقل فرمایا ہے کہ انھوں نے دارمخلد کے لوگوں کے پاس ادھار گندم فروخت کی، پھر انھوں نے خواہش کی کہ اگر وہ متعین قیمت میں کی کر دیں تو رقم نقد لے لیں۔ زید بن ثابت نے روک دیا، وہ رُک گئے۔ لیکن حضرت! ایک عالم جب دوسرے عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے، اس کا مقصد یا طمانیت ہوتا ہے یا ذہول کا علاج یا مزید تحقیق۔ صحیح بات معلوم ہونے پر ذہن اسے قبول کر لیتا ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے تقلید سمجھنا آپ جیسے عالم کی زبان سے بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ آخر تقلید جسے آپ نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی: ”جو قرآن و سنت سے احکام مستحب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔“ یہ کونسا مقدس تقہ ہے جسے آپ صحابہ کے لیے ثابت فرما رہے ہیں؟ ابن القیم کی زبان میں اس کی نوعیت جہالت کی ہے۔

العالم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان^②

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۱۱۴)

② القصيدة التونية لابن القيم (ص: ۹۹)

عہدِ صحابہ میں تقلیدِ شخصی:

مولانا نے اس عنوان کے تحت تین دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان دلائل پر تنقیداً گزارشات سے پہلے تقلیدِ شخصی کا مفہوم مولانا کے لفظوں میں سامنے رکھیں اور غور فرمائیں کہ یہ دلائل مولانا کے مقصد کے لیے کہاں تک مفید ہیں:

”اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک عالم یا مجتہد کو معین کر لیا جائے اور ہر ایک مسئلے میں اس کی رائے اختیار کی جائے۔“

پہلی دلیل:

”إن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفرو. قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد“

(بخاری مطبوعہ انصاری: ۱۷۰/۲)

اہلِ مدینہ نے حضرت ابن عباس سے دریافت فرمایا کہ طوافِ افاضہ کے بعد اگر عورت کو ماہواری ایام آجائیں، آیا طوافِ وداع کے لیے بیت اللہ میں ٹھہرے یا وطن واپس چلی جائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے انتظار کی ضرورت نہیں، وہ واپس چلی جائے۔ اہلِ مدینہ زید بن ثابت کے فتوے کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ اسے طوافِ وداع تک ٹھہرنا چاہیے، انہوں نے اس پر اصرار کیا کہ زید کا فتویٰ درست ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے، حضرت ابن عباس نے فرمایا: مدینے کے اہلِ علم سے دریافت کرو۔

ان لوگوں نے حضرت ام سلیم والدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہلِ علم سے دریافت کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں: «فكان فيمن سألوا أم سليم» جن اہلِ علم سے دریافت کیا گیا، ان میں حضرت ام سلیم بھی تھیں۔ ام سلیم نے حضرت صفیہ کی حدیث کا حوالہ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا طوافِ وداع واپسی کی اجازت مرحمت فرمادی تھی۔

بعض روایات میں ان سے حضرت ابن عباس اور زید بن ثابت کی نزاع کا ذکر

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۶۷)

فرمایا، جس میں زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس کو اپنے رجوع کی اطلاع دی۔¹
 تعجب ہے ایک دارالعلوم کے صدر مدرس اسے تقلید شخصی کی دلیل سمجھیں، حالانکہ یہ
 تحقیق کا ایک شاہکار ہے۔ اختلاف سے پہلے وہ لوگ زید کے فتوے پر مطمئن تھے۔ اپنی
 معلومات پر اصرار اور اعتماد قدرتی بات ہے، لیکن یہ اصرار مقلدانہ نہ تھا، بلکہ وہ تحقیق کے
 لیے آمادہ ہوئے۔ حضرت ام سلیم اور دیگر فقہاء صحابہ سے ان حضرات نے تحقیق کی۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلیم، صفیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے فقہائے حدیث کے فتوؤں سے اس
 میں تحقیقی استفادہ کیا گیا۔ اپنے علم پر اعتماد کا نام مولانا تقلید رکھتے ہیں۔ اگر وہ حضرات
 مقلد ہوتے تو اپنے امام کے سوا کسی کی بات نہ سنتے۔ وہ تو پختہ کار محقق ٹھہرے، شبہ
 ہوتے ہی تحقیق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کئی مجتہدین کے آثار کی تلاش کی، بلا فرزید
 کا قول غلط نکلا۔ تمام حضرات نے حضرت ابن عباس کا فتویٰ قبول فرمایا۔ زید بن ثابت
 نے خود اپنے رجوع کی اطلاع حضرت ابن عباس کو دی۔ آپ اسی مقام سے عمدۃ القاری
 بھی ملاحظہ فرمائیے، وہاں حافظ ابن حجر کی عبارات کے توارد کے بعد مزید بعض چیزیں لکھی
 ہیں، جس سے سُننے کے فہم میں سہولت ہوتی ہے۔ حافظ یعنی کو وہ دور کی بات نہیں سوچھی جو
 ہمارے دارالعلوم کے صدر صاحب کو سوچھی!!

پھر یہاں تلاش اور ٹٹول کسی رائے کی نہیں، تاکہ تقلید کی جائے، بلکہ یہ تمام مجتہدین
 نص کی تلاش فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یعنی، ثقفی کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں:

”فرجعوا إلی ابن عباس، قالوا: وجدنا الحدیث كما حدثتنا“²

(عمدۃ القاری: ۴ / ۷۷۷)

1 دیکھیں: فتح الباری (۲ / ۵۸۷) عمدۃ القاری (۱۰ / ۹۷)

2 ضعیف. المعجم الكبير للطبرانی (۲۵ / ۱۲۹) اس کی سند میں ”محمد بن صالح بن ولید
 الترمسی“ راوی مہجول ہے۔ دیکھیں: إرشاد القاصی والدانی، إلی تراجم شیوخ الطبرانی
 (ص: ۵۶۲) السلسلة الضعیفة (۷ / ۱۱۰)

حدیث واقعی اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس وقت کے مجتہد خود اس تحقیق میں مشغول ہو گئے اور اس کے نتیجے کی اطلاع مسکراتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی کہ آپ کے فتویٰ کے مطابق نص مل گئی۔^۱ زید بن ثابت کے فتوے کی اہمیت ختم ہو گئی۔
متنازع زیہ تقلید کے متعلق خود جناب نے فرمایا:

”کسی ایک عالم کو معین کر لیا جائے اور ہر ایک مسئلے میں اس کی رائے اختیار کی جائے۔“ (فاران، ص: ۱۳، مئی ۱۹۶۵ء)

ایک مسئلہ میں آپ نے زید بن ثابت کی تقلید اور پھر شخصی ثابت فرمادی۔ سبحان اللہ! جب معاملہ نص کی تلاش کا ہے تو ”گناہ“ یا ”شُرک“ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اوباً گزارش:

ایسا ذہین آدمی جو تقلید کو کسی ایسی جگہ سے کشید کرتا ہے، جہاں اس کا نام و نشان نہیں، جہاں حافظ ابن حجر اور حافظ بدر الدین یعنی خاموش ہو گئے اور ان کو بھی تقلید کی نہیں سوجھی۔ معلوم نہیں آپ حضرات صدیوں پہلے گزرے ہوئے مجتہدوں کے کیوں منت کش ہوتے ہیں اور اپنے متعلق آپ کو بدگمانی کیوں ہے کہ آپ میں کوئی صلاحیت نہیں؟ ہمت فرمائیے اور اپنے فہم و فراست پر بدگمانی نہ فرمائیے۔ اگر مجتہد مطلق نہ بن سکے تقلید سے توجیح سکیں گے۔ ان شاء اللہ!

وكم من عائب قولاً صحيحاً و آفته من الفهم السقيم^۲
ہاں! تو حضرت زید بن ثابت کے فتوے پر اہل مدینہ کے اصرار کی وجہ پر بھی غور فرمائیے! اس وقت زید بن ثابت کے علم کی شہرت حضرت ابن عباس سے زیادہ تھی اور اس کے کئی وجوہ تھے:

① فتح الباری (ص: ۱۷۱) [مؤلفاً]

② کتنے لوگ درست بات کی عیب جوئی کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل مصیبت ناقص فہم ہوتا ہے۔

① آنحضرت ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، زید بن ثابت کی عمر گیارہ سال کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے یہ معر تھے۔ حضرت ابن عباس آنحضرت ﷺ کے انتقال کے وقت آٹھ نو سال کے تھے۔^①

② حضرت زید بن ثابت کا تب وحی تھے اور عدت العرا آنحضرت ﷺ کے ساتھ مستندِ عمومی کے طور پر کام کرتے رہے۔ عموماً بیرونی خط کتابت ان کی معرفت ہوتی تھی۔ آنحضرت ﷺ کے حکم سے انھوں نے عبرانی زبان پڑھی، تاکہ یہود کی دھوکا بازیوں کا خطرہ نہ رہے۔^②

③ ان کی علمی قابلیت، دینی تجربہ اور علمی شجر کی بنا پر اکابر صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے انھیں قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا۔^③

④ حضرت زید آنحضرت ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے براہ راست شاگرد تھے۔

⑤ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، ابو سعید خدری، سمیل بن حنیف رضی اللہ عنہما، عطاء ابن یسار جیسے صحابہ اور تابعی ان کے شاگرد تھے۔^⑤

⑥ سعید بن مسیب فرماتے ہیں: زید بن ثابت کے جنازے میں حاضر ہوا۔ جب انھیں قبر میں رکھا گیا تو ابن عباس نے فرمایا: جو علم کے فقدان کا منظر دیکھنا چاہے، وہ یہ نظارہ دیکھ لے۔ آج علم کی کثیر مقدار دفن کر دی گئی۔ ان کی موت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آج اس وقت کا عالم فوت ہو گیا، ممکن ہے اس خلا کو ابن عباس رضی اللہ عنہ پورا کر سکیں۔ (تہذیب التہذیب: ۳/۳۹۹)

① الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۴/۱۴۱)

② صحيح، سنن أبي داود، رقم الحديث (۳۶۴۵) سنن الترمذي، رقم الحديث (۲۷۱۵) اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، ذہبی اور البانی رحمہم اللہ نے صحیح کہا ہے۔

③ صحيح البخاري، رقم الحديث (۴۷۰۱)

④ تہذیب الکمال (۱۰/۲۴)

زید بن ثابت کے ہوتے ہوئے اہل مدینہ کا ابن عباس کے متعلق تامل قدرتی تھا،
آپ نے اسے تظہیر بنا دیا!!

دوسری دلیل:

مولانا نے تظہیرِ شخصی کی دلیل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ارشاد ذکر کیا ہے، جو
انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا:
”لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم“
ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

”جب تک عبداللہ بن مسعود موجود ہوں، مجھ سے کوئی مسئلہ مت پوچھو۔“

مولانا نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ ”انہوں نے ہر مسئلہ میں عبداللہ بن مسعود
کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔“

مولانا! مکرر غور فرمائیں، عبارت سے یہ مفہوم بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔

یہ تو درست ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے
نہ پوچھا جائے، لیکن ہر مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے پوچھا جائے، بڑی سلیبی بات ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایسا فرمانے کی امید ہی نہیں کی جاسکتی، اس وقت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم
موجود تھے، وہ ان کی طرف رجوع سے کیسے روک سکتے تھے؟ غایت یہی ہو سکتی ہے کہ افضل
کے ہوتے مفضول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ ہر مسئلہ اور صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی
تفصیص، پوری عبارت میں قطعاً نہیں۔ مولانا کا اجتہاد ہو سکتا ہے۔ جب تک ہر مسئلہ اور
ابن مسعود کی علی الاطلاق تفصیص ثابت نہ ہو، تظہیرِ شخصی کا اثبات مشکل ہے۔

پھر اس وقت کی روش یہ معلوم ہوتی ہے کہ بلا تظہیرِ علما سے مسائل دریافت فرمائے
جاتے، چنانچہ انہوں نے حسبِ عادت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی رجوع فرمایا اور حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف بھی، اور یہی عامی کا فرض ہے کہ وہ بلا تخصیص علما کی طرف رجوع کرے اور علما بلا تعین انھیں اعلم اور افضل کے پاس بھیج دیں۔ پھر یہاں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ انھوں نے حدیث ذکر فرمائی، رائے کا سوال ہی نہیں۔

فرمائیے! یہ تقلید کے لیے کیسے دلیل بنی؟

مولانا! آپ ایک دارالعلوم کے مدرس ہیں، آپ کو ایسی کچی باتیں نہیں چاہئیں۔ نیز اس پر بھی غور فرمائیں کہ اگر زمانہ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت جیسے ائمہ اجتہاد موجود ہیں تو پھر انھیں ان کے اس مقام سے کس نے معزول کیا اور ان کی جگہ ائمہ اربعہ کو کس پیغمبر نے دی؟ صحابہ کا مقام تو ہر لحاظ سے اونچا سمجھنا چاہیے۔ کیا مجتہدین صحابہ کا مقام ائمہ اربعہ سے کم ہے؟

تیسری دلیل:

حضرت مولانا نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے استدلال فرمایا، جو انھوں نے یمن جاتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ یقیناً اس میں قاضی کے لیے بہترین راہنمائی ہے۔ حکام اور قضاة کے لیے یہ عظیم الشان اساس ہے، لیکن تقلید کے لیے اس میں کوئی مقام نہیں۔ آپ غور فرمائیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس لیے یمن بھیجے کہ اہل یمن انھیں مجتہد سمجھ کر ان کی تقلید کریں تو ان سے اس دریافت کی ضرورت نہ تھی کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ بلکہ حضرت معاذ کو ایک سرکاری دستاویز عنایت فرماتے کہ مجتہد صاحب تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں، تم سب ان کی تقلید کرنا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سے بالکل مختلف ہے۔

حضرت فرماتے ہیں:

”عن معاذ أن رسول الله ﷺ: لما بعثه إلى اليمن قال: كيف

تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟ قال: أجتهد برأبي ولا آلو. قاله فضرب رسول الله ﷺ على صدره، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى رسول الله ﷺ (إعلام الموقعين، ص: ۷۳ طبع ہند) یعنی آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ سے دریافت فرمایا: تم پیش آئدہ جھگڑوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ انھوں نے اپنا طریق کار بتایا کہ میں پہلے قرآن عزیز کی طرف رجوع کروں گا، پھر سنت کی طرف، پھر اپنی رائے سے فیصلہ دوں گا۔

اس کا تعلق حکم اور قضا سے ہے، افتاء سے نہیں۔ تقلید کا تعلق بظاہر افتاء سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قد جوز النبي ﷺ للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجراً“ (إعلام، ص: ۷۶)

”آنحضرت ﷺ نے حاکم کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے۔“

پھر آپ نے تقلید کی جو تعریف فرمائی ہے، ہر مسئلے میں اس کی رائے پر پابند ہونا مرقوم ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں۔

① ضعیف. سنن أبي داود، رقم الحديث (۲۵۹۲) سنن الترمذي، رقم الحديث (۱۳۲۷) مسند أحمد (۵/ ۲۳۰) اس حدیث کے ضعف کی تین وجوہ ہیں: ① ارسال و انتطاع: یعنی یہ روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ بعض اصحاب معاذ سے رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں، لہذا یہ روایت انتطاع و ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ② جہالت اصحاب معاذ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے مذکورہ تلامذہ و اصحاب مجہول ہیں، ان کا کوئی کتابچہ نہیں۔ ③ جہالت حارث بن عمرو: اس کی سند میں ایک راوی ”حارث بن عمرو“ مجہول ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کا دفاع کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کی حقیقت علامہ البانی رحمہ اللہ نے نہایت تفصیل سے واضح فرمادی ہے۔ دیکھیں: السلسلة الضعيفة (۸۸۱)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد اور رائے کے متعلق اہل یمن کیا طریق عمل اختیار کریں؟ اس کے متعلق آنحضرت ﷺ نے ایک حرف بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ قضا کی صورت میں رفع نزاع کے لیے حاکم کا حکم قبول کرنا ہوگا، مگر اس کے خلاف اپیل، دوسرے عطا کی طرف رجوع؟ تو اس سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اثر میں قطعاً نہیں روکا گیا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا دوسرا اثر اسے واضح کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”فتنے ہوں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے:

”فیتخذ مسجداً ویبتدع کلاماً لیس من کتاب اللہ ولا من سنة رسول اللہ، فایاکم ویایہ فیانہ بدعة وضلالة، قالہ معاذ ثلاث مرات“ (اعلام، ص: ۲۶/۱)

”پھر ایک مسجد بنائے گا اور اس میں نئی باتیں کرے گا، جو نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، تم اس سے بچنا، یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ معاذ نے یہ کلمات تین بار فرمائے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ معاذ قضا کے بغیر رائے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ حکم اور قضا کی مجبوریوں کے علاوہ رائے کا استعمال حضرت معاذ کے نزدیک بدعت ہے۔

حضرت! قرون خیر میں تقلید کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت قلت علم کا مرض عام تھا۔ یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین پر بہت بڑا ظلم ہے، آپ نے ان بزرگوں کی توجیہ فرمائی ہے، ان بزرگوں کے علم و تفقہ کو مکمل نظر قرار دیا۔ اگر تقلید مصطلح ان ایام میں بھی موجود ہو تو علم و اجتہاد کا مثالی دور کون سا ہوگا؟

① ضعیف، المستدرک (۴/۵۱۳) اس کی سند میں ”سعید بن سمیرہ“ راوی ضعیف ہے۔

② چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں: ”الرأی فی الشریعة تحریف، وفي القضاء مکرمة“ (نقہبیات، ص: ۲۰) یعنی شریعت میں رائے کا استعمال تحریف ہے اور قضا میں رائے کا استعمال باعث عزت و توقیر ہے۔

ابن قیم مسلکاً جناب سے مختلف تھے، مگر ان کی غزارت علمی اور نکتہ رسی سے امید ہے انکار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں:

”فإننا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد
اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاً،
وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئاً، ونعلم بالضرورة أن هذا
لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين، فليكن بنا المقلدون
برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضية على
لسان رسول الله ﷺ، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع
المذموم على لسان رسول الله ﷺ“ (إعلام: ۱/ ۲۲۲)

یعنی ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں ایک بھی ایسا آدمی
نہیں ملے گا جو کسی عالم کی تمام باتیں قبول کرے اور کسی دوسرے عالم کی کوئی
بات نہ مانے۔ حضرات مقلدین ہمیں جھٹلانے کے لیے قرون خیر میں ایک
آدمی بتلا دیں جو اس کمزور راہ پر چلا ہو، بلکہ یہ بدعت تہلید چوتھی صدی میں
پیدا ہوئی جس کی آنحضرت ﷺ نے مذمت فرمائی ہے۔

مولانا! آپ عالم ہیں، ایک علمی درس گاہ میں مدرس ہیں۔ آپ جو چاہیں فرمائیں،
لیکن صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ یہ مذاق نہ فرمائیں۔

آپ نے تہلید کے لیے یہی وجہ جواز بتائی ہے:

”جو شخص قرآن و سنت سے براہ راست احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت نہ
رکھتا ہو، اصل کے اعتبار سے اس کے لیے تہلید کی دونوں قسمیں جائز ہیں۔“

(فاران، ص: ۱۷، مئی ۱۹۶۵ء)

آپ قرون مشہود لہذا بالخیر کی یہ خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی کنز و قدری کے
اتباع کی طرح حیثیت میں ملوث اور نظر و استنباط سے محروم تھے، محض فقہاء اور اہل علم کی

مساعی پر وقت گزارتے تھے۔ نصوص فقہا اور بزرگوں کی آرا کا اجماع اصل ظاہر پرستی اور ظاہریت ہے۔ صحابہ اس سے پاک تھے، ان کی نظر نہایت عمیق تھی اور ظاہریت اور شویت کا نام تک نہ تھا۔

مطلق تقلید کی بندش:

مولانا نے تقلید مطلق کی بندش کو بہت سراہا ہے اور ائمہ اجتہاد کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ان پر رحمتوں کا مہن برسے، اس لیے کہ انھوں نے مطلق تقلید کو بند فرما دیا۔ مضمون کے اس حصے سے تعجب ہوتا ہے کہ اس پائے کے اہل علم بھی اس قدر سطحی باتیں کر جاتے ہیں۔ وَنَوَدُّ لَوْ قَالَ عَيْبُكَ! [کاش! آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی بات کرتا]

مولانا کا خیال ہے کہ تقلید مطلق کی بندش سے دنیا میں ”خواہش پرستی“ کے دروازے بند ہو گئے اور تقلید مطلق کی صورت میں یہ مرض مستقبل میں یقیناً عام ہو جاتا۔ یہ ائمہ اجتہاد کی دور اندیشی تھی کہ انھوں نے اسے روک دیا۔ ملخصاً

لیکن مولانا کا یہ ارشاد کئی وجوہ سے غلط ہے۔ امید ہے مولانا غور فرمائیں گے:

① آپ نے اس پر مشہور ائمہ اجتہاد کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس نے تقلید مطلق کو روکا؟ کب روکا؟ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک حوالہ دیا ہے، اگر آپ کے ہاں وہ ائمہ اجتہاد میں شمار ہونے لگے تو مبارک ہے، پہلے تو اکابر دیوبند اس کے قائل نہ تھے، بوقت ضرورت ان کے علوم سے استفادہ تو فرماتے رہے، مگر انھیں کبھی مجتہد نہیں سمجھا گیا۔

② جو عبارت آپ نے نقل فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ہوئی پرستی درست نہیں۔ انسان کو پرہیزگار اور متقی ہونا چاہیے، ہوئی پرست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوئی پرستی شخصی تقلید میں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی منفی مسلک کو اس لیے اختیار کرے کہ اس میں منیات اور مسکرات کے استعمال کے متعلق خاصی نرمی ہے، مسکرات کی چار پانچ قسمیں ممنوع ہیں، جن پر اس وقت خمر بولا جاتا تھا۔ باقی کے متعلق احناف کے

ہاں وہ تشدد نہیں۔ شیخ علامہ حسن جبرتی حنفی مفتی مصر (۱۱۸۰ھ) فرماتے ہیں کہ انگوری شراب کے کئی نام ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل کا استعمال درست ہے:

”أما الجمهوري فهو نسبة إلى الجمهور نظرا إلى الاستعمال، والحميدي نسبة إلى حميد، لكونه صنعه، واليعقوبي، ويسمى أبا يوسف، لأن أبا يوسف رحمه الله اتخذه لهارون، وكأنه اتخذ له تخلصا مما هو حرام الشرب، فهي اسم للمثلث إذا صب عليه ماء حتى أرق، وترك حتى اشتد، فعلم مما ذكر أن المثلث خالص العصير، وأن البخج وما عطف ممزوج بالماء بعد ذهاب ثلثيه، وصيرورته مثلثا، وهي حلال الشرب بعد الاشتداد، والقذف بالزبد، إذا شربت دون القدر المسكر للتقوي للعبادة لا على سبيل اللهو والطرب وإلا فهي حرام الشرب“
(الأقوال المعربة عن أحوال الأشربة، ص: ۶۰، مطبوعه مصر)

”جمہوری کی نسبت استعمال کی وجہ سے جمہور کی طرف ہے اور حمیدی کی نسبت حمید کی طرف ہے، کیونکہ یہ اسی نے بنائی تھی۔ یعقوبی کو ابو یوسف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خلیفہ ہارون کے لیے بنائی تھی، تاکہ وہ حرام شراب سے بچ جائیں۔ یہ دراصل مثلث شراب کا نام ہے، جس میں پانی ڈال کر دو تہائی پانی جلا دیا جائے، اس سے ظاہر ہے کہ مثلث اور بیخ انگور کے شیرہ میں پانی ملا کر اور جلا کر اسے مثلث کر دیا جاتا ہے، تیزی اور جھاگ کے باوجود اس کا پینا درست ہے، بشرطیکہ اتنا نہ پیا جائے جس سے مستی آجائے اور عبادت میں قوت کے لیے استعمال کی جائے، مشغلے کے طور پر استعمال کی جائے تو حرام ہے۔“

پورا رسالہ چند اوراق میں ہے، اس میں شراب کی اقسام کی تفصیل موجود ہے اور اس کی حلت و حرمت کی وضاحت کی گئی ہے، اس میں شراب خوری کے متعلق خاصی گنجائش ہے۔

اسی طرح شرح وقایہ میں ہے:

”فإن أقر به أو شهدا عليه بعد زوال الريح أو تقيأها أو وجد ريحها منه أي علم الشرب بأن تقيأ أو وجد ريح الخمر منه بلا إقرار شهادة أو رجوع عن إقرار شرب الخمر أو السكر أو أقر سكران لا“ (ص: ۳۰۰)

”اگر طرم اقرار کرے کہ میں نے شراب پی ہے یا دو گواہ موجود ہوں، لیکن منہ سے بدبو نہ آئے یا شراب کی تہ کرے یا اس کے منہ سے بدبو آئے، مکمل اقرار اور شہادت نہ ہو یا طرم اقرار کے بعد انکار کر دے یا اقرار ہی بے ہوشی کی حالت میں ہو، ان تمام صورتوں میں حد نہیں۔“

پھر مستحق کی تعریف میں حضرت امام نے بڑی وسعت رکھی ہے، ان حالات میں نئے کے عادی حضرات کے لیے حنفی مذہب میں بڑی گنجائش ہے۔ اس قسم کے لہجوں ”ہدایہ“ مطبوعہ بمبئی (۲/۳۱۱) ”المطہدائی“ مطبوعہ مصر (۳/۳۰۱) ”در مختار“ مطبوعہ ہند (ص: ۳۰۶) ”شامی“ طبع مصر (۳/۲۵۳) میں ملاحظہ ہوں۔ طول سے بچنے کے لیے ان کتب کی عبارات قلم انداز کی جاتی ہیں۔

ملک العلماء علامہ کاسانی (۱۵۸۷ھ) نے بڑی صراحت سے فرمایا:

”وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها، لأن شربها حلال عندهما وعند محمد، وإن كان حراما لكن هي حرمه محل الاجتهاد فلم يكن شربها جنایة محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة، ولا بالسكر منها، وهو الصحيح، لأن الشرب إذا لم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر كشراب البنج ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم“ اھ

(البدائع والصنائع: ۷/۴۰)

”جو شراب گندم، جو، باجرا، چنا، شہد، انجیر، شکر وغیرہ سے بنتی ہے، اس پر کوئی حد نہیں، اس لیے کہ اس کا پینا شیخین کے نزدیک حلال ہے۔ امام محمد اسے حرام فرماتے ہیں، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کا پینا قطعی جناہت نہیں، اس پر سزا بھی نہیں ہوگی، بلکہ اگر مستی بھی آجائے تو بھی سزا نہیں ہوگی۔ یہی مذہب صحیح ہے، کیونکہ جب چینا حرام نہ ہو تو پھر مستی کا کوئی اعتبار نہیں، جس طرح بھنگ وغیرہ میں کوئی سزا نہیں۔“

شراب کی ان اقسام کے متعلق جواز یا عدم جواز کے وجوہ سے بحث نہیں، یہ مباحث حدیث اور فقہ کی شروح اور متون میں بھرے پڑے ہیں۔ گزارش صرف اس قدر ہے کہ احناف کے ہاں شروبات میں بڑی چلک ہے۔

اب کوئی اس لیے حنفیت کو اختیار کر لے کہ اس میں شراب اور نشیات کے متعلق کافی چلک ہے۔ شیخ کی عبارت کے مطابق اس نیت سے تھلید شخصی بھی حرام ہوگی۔ آپ نے شیخ الاسلام کی عبارت پر غور نہیں فرمایا، گو شیخ نے ایک دو جگہ تھلید کا ذکر کیا ہے، مگر اس میں وہ ہوئی پرستی کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ تھلید کی راہ سے ہو یا ترک تھلید کی راہ سے، آپ نے مطلق تھلید کی بندش پر مبن برسانا شروع فرما دیا۔ شیخ کی عبارت سے کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوس پرستی تھلید مطلق سے آتی ہے یا شخصی سے یا ترک تھلید سے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شیخ الاسلام کی کتابوں پر عبور نہیں ہے، ورنہ یہ انداز اختیار نہ فرماتے!

علامہ قاضی خاں نے اثر بہ کے باب کو اس تفصیل سے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے شاید ان کے ہاں شراب کی مکمل لیبارٹری موجود تھی۔ مختلف اقسام اور اس کے مختلف نسخے اور ان کی طلت اور حرمت پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ مطبوعہ مصر کے نسخے پر صفحہ (۲۰۸) سے صفحہ (۲۲۰) تک یہی مضمون ہے۔ ذاتی طور پر اپنی ناقص رائے کا رجحان تو حضرت امام شافعی کی طرف ہے۔ دخت زر کے ساتھ ادنیٰ نسبت بھی ناگوار ہے، لیکن اس کے باوجود ائمہ اجتہاد پر بدگمانی کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔ اس مقام پر معمولی سی تفصیل کی بھی اس

لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا کی عبارت سے مغالطہ ہوتا تھا۔ مولانا تقلیدِ شخصی کو ہوئی پرستی کے دروازے کا قفل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہوئی پرستی کی سوتیں تقلیدِ شخصی ہی میں موجود ہیں، بلکہ ساری فہموں میں ایسی جزئیات ملتی ہیں جو ہوئی پرستی کے لیے راستہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح فواحش اور بدکرداری کی سزا کے متعلق اسپنے ہاں بڑی لچک ہے۔ فقہ حنفی میں لواطت پر حد نہیں۔ بہائم کے ساتھ برائی کرے، اس پر حد نہیں۔ محرمانہ ابدیہ کے ساتھ نکاح کے بعد بے حیائی کرے، آپ کے ہاں وہ حد سے بچ سکتا ہے۔^① مضمون کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کتبِ فقہ کی نصوص اور الفاظِ نظر انداز کر دیے گئے، ورنہ معلوم ہے کہ فقہ حنفی میں ہوئی پرستی کے لیے کافی چور دروازے کھل سکتے ہیں، اس لیے تقلید میں ہوئی پرستی کی بندش کے لیے کوئی انتظام نہیں، اگر نیت درست نہ ہو تو ہوئی پرستی ہر طرح ہو سکتی ہے۔

پاکستان میں فواحش:

یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں اکثریت حضرات احناف کی ہے۔ بعض علاقوں میں دور دور تک احناف ہی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرات تقلیدِ شخصی کے سختی سے پابند ہیں، لیکن جس قدر ملک میں سینما تھیٹر موجود ہیں اور جتنے رقص و سرود کے کلب موجود ہیں، ان کے منتظم عموماً حنفی حضرات ہیں۔ اگر تقلیدِ شخصی ہوئی پرستیوں کا علاج ہے تو آج ہوئی پرستیوں کے یہ معمل جا بجا کیوں موجود ہیں؟ پورا ملک ہوئی پرستی کی گرفت میں ہے، بقول مولانا تقلیدِ مطلق بند کر دی گئی، اب سارے ملک میں تقلیدِ شخصی کا دور دورہ ہے۔ پھر یہ فواحش کیوں ہیں؟ حجاز میں شوافع، نجد میں حنابلہ، سوڈان، الجزائر اور افریقہ میں مالکی ان ہوئی پرستی کے کارخانوں پر قابض اور متصرف ہیں۔ تقلیدِ شخصی بھی عام ممالک پر محیط اور فواحش بھی اقطارِ عالم پر محیط ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تقلیدِ مطلق سے پرہیز اور تقلیدِ شخصی کے رواج کا یہ نسخہ مفید

① تفصیل کے لیے دیکھیں: الظفر المبین از مولانا أبو الحسن سیالکوٹی و حقیقۃ الفقہ از

ثابت نہیں ہوا، اسی طرح آج کل دنیا میں حلال اور حرام کا امتیاز بھی اٹھ رہا ہے۔ اگر جناب کا تجزیہ تقلید شخصی کے متعلق درست ہوتا تو آج دنیا تقویٰ سے بھرپور ہوتی، لیکن معلوم ہے کہ دین کھیل ہو رہا ہے!۔

ایک مصححہ خیز مثال:

تقلید مطلق کی مضرت میں حضرت مولانا نے دو مثالیں دی ہیں:

① ایک خون سے وضو نئے کی۔ احناف کے ہاں خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوافع کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو فکر ہے کہ سردیوں میں ہوا پرست لوگ شافعی مسلک پر عمل کریں گے۔

② دوسری مثال میں فرمایا: عورت کو مس کرنے سے احناف کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا، شوافع کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوئی پرست اس وقت سردی میں حنفی مذہب پر عمل کریں گے۔ درس میں بیٹھ کر طلبہ کے حلقے میں شاید یہ مثالیں سن لی جائیں، ہم تو دیکھتے ہیں پچھلے حنفی، رات گزر جاتی ہے، دن بسر ہو جاتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتے اور محفل میلاد کے جلوس میں اسماء رات کی دیپ مالا میں عورتوں کے ساتھ عاشقان رسول ﷺ نے وہ کیا جس کے ذکر سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھگری، گوجرانوالہ اور لاہور کے واقعات دیکھنے والوں سے سنیے، یہ بھی پکے مقلد تھے، جو وہابیوں کو بے نقط گالیاں دیتے تھے۔ احناف اور شوافع کا تنازع مساس تو اس مساس کے سامنے کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا، پھر یہ محبان رسول اور عاشقان تقلید نماز کی تکلیف کیے بغیر نہایت خشوع اور خضوع سے سگے اور تقلید شخصی انھیں اس خواہش سے روک نہ سکی۔

مولانا! کاش یہ ارباب تقلید کسی امام کے مسلک پر عمل کر کے نماز پڑھ لیتے! خواہش پرستی کو روکنے کے لیے تقلید شخص بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے۔

پھر مولانا! یہ خواہش پرستی نیت کا مسئلہ ہے، اسے تقلید یا ترک تقلید سے کوئی تعلق

نہیں۔ غلط ارادہ مقلد اور غیر مقلد دونوں کر سکتے ہیں اور ہوئی پرستی ان کا شیوہ بن سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ایسے معاملات میں واضح ہے۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں نے شیخ الاسلام سے سنا، فرماتے تھے: مجھے بعض فقہائے حنفیہ نے کہا کہ میں اپنا مذہب بدل لوں، اس لیے کہ یہ عموماً صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے بعض شافعی علما سے مشورہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارا مذہب بدلنے سے اصل مذہب تو نہیں بدلے گا۔ مذاہب کی ہیئت تو طے ہو چکی ہے، تمہارا رجوع بے فائدہ ہے۔ بعض صوفیوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں عجز کے ساتھ اللہ سے دعا کروں، آپ فرمائیں: آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا: مذہب کے تین حصے کر لیجیے، پہلی قسم جس میں حق واضح ہو اور کتاب و سنت سے توافقی ظاہر ہو، شرح صدر سے اس کے مطابق فتویٰ دو۔ دوسری قسم مرجوح ہو اور دلائل اس کے خلاف ہوں، اس کے مطابق نہ فتویٰ دو نہ کوئی حکم کرو، اسے ذہن سے اتار دو۔ تیسری قسم جس میں دلائل کی کشش دونوں طرف موجود ہو، اس میں جس طرح طبیعت چاہے فتویٰ دو یا اسے نظر انداز کر دو۔ وہ حنفی عالم شیخ کے جواب پر مطمئن ہوئے اور

فرمایا: جزاك الله“ (اعلام الموقعین: ۴/۲۰۶ منیرہ)

آپ شیخ الاسلام کے ارشاد پر غور فرمائیں، وہ ایک حنفی عالم کو مشورہ دیتے ہیں کہ مذہب کا آپریشن کر کے اس کے تین حصے کر دیجیے اور شرح صدر سے صرف اس حصے کو اختیار کیجیے جو کتاب و سنت کے صراحاً مطابق ہو۔ آج کے دیوبند کو میں دیکھتا ہوں، جس جمود کی یہ حضرات دعوت دے رہے ہیں، اگر شیخ الاسلام کے مشورے پر عمل کے لیے آپ سے عرض کیا جائے تو اکابر سے اصافرتک آپ حضرات پر رعشہ طاری ہو جائے۔ حضرت مرحوم و مغفور استاذ الاساتذہ شیخ انور شاہ صاحب کے لختِ جگر اپنے مغفور والد کے متعلق

جس قسم کا لٹریچر شائع فرما رہے ہیں، اولاً تو یہ قطعی غلط ہے۔ اگر یہ کہانیاں صحیح ہیں تو شاہ صاحب کی رفعت مقام محل نظر ہوگی اور ان کا علم و فضل مشکوک!

تقلید یا حقیقت چنداں محل نظر نہیں۔ محل نظر آپ کا جمود ہے، جو بریلی اور دیوبند کے اکابر اور اصاغر میں یکساں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کی اس لفظی نرمی پر بھی وارننگ دی گئی ہوگی یا دی جائے گی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ارشاد ملاحظہ فرمائیے:

”امام سے دریافت کیا گیا کہ نماز وتر یا بارش میں نماز جمع کرنے کے سلسلے میں آیا شافعی حنفی کی یا حنفی شافعی کی تقلید کر سکتا ہے؟
شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

”الحمد لله. نعم يجوز للحنفي أن يقلد من يجوز الجمع من المطر، لا سيما وهو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاية الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر، وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه، ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه، أو القول بها أرجح، أو نحو ذلك، جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين، لم يحرم ذلك لأبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد“¹ اه

”ہاں! حنفی کے لیے درست ہے کہ جمع نماز اور اس قسم کے مسائل میں شافعی کی تقلید کرے، کیونکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد جمہور اہل علم کا یہی

① الفتاوى الكبرى (٢/٣٦٦)

نہ ہب ہے۔ عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ میں امراء کے ساتھ بارش کے وقت نماز جمع کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی پر یہ ضروری نہیں کہ تمام اوامر و نواہی میں کسی معین آدمی کی تقلید کرے آنحضرت ﷺ کے سوا۔ مسلمان ہمیشہ اہل علم سے دریافت فرماتے رہے، کبھی اس کی تقلید کرتے، کبھی اس کی، جسے دینی طور پر پسند فرماتے یا راجح سمجھتے۔ یہ جمہور ائمہ اسلام کے نزدیک درست ہے، نہ اسے حضرت امام ابوحنیفہ نے حرام کہا نہ مالک اور نہ شافعی اور احمدی نے۔“

اسی انداز سے امام نے تقلید کا تذکرہ فرمایا۔ فتاویٰ (۲/۳۷۶، ۳۷۸، ۳۸۱، ۳۸۲) وغیرہ مقامات ملاحظہ فرمائیں۔ امام کے مسلک کی وضاحت جناب کے سامنے آجائے گی۔ اگر آپ حضرات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حلیہ اور ان کے خیال کے مطابق اس مسئلے کا فیصلہ فرمائیں تو یقیناً یہ مسئلہ ماہہ النزاع نہیں رہے گا۔ جس انداز سے ابنائے دیوبند اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں، اگر حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ ہوں تو یقیناً اسے ناپسند فرمائیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو حوالہ آپ نے نقل فرمایا، وہ ایک فنی حوالہ ہے، جسے امام نے ایک خاص ضرورت کے ماتحت ذکر فرمایا ہے، اس سے ان کی ذاتی تحقیق معلوم نہیں ہو سکتی۔ ذاتی تحقیق کے لیے متذکرہ مواقع ملاحظہ فرمائیں، امام کا علمی مقام واقعی بہت بلند ہے۔ نیز اس حوالے میں تقلید مطلق کی بندش کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ جناب غور فرماتے تو یہ حوالہ بالکل بے سود ہے اور مقصد کے لحاظ سے عبث محض۔ اصل مقصد یہی ہے کہ دین اور امر دین کو تلعب اور ہوئی پرستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یہ نیت کا معاملہ ہے، اسے نہ تقلید شخص روک سکتی ہے نہ ترک تقلید اس کا موجب ہو سکتی ہے۔

آپ واقعات پر غور فرمائیں، تقلید شخص کا عام رواج بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی کے بعد ہوا، قرون مشہود لہا بالخیر میں سارا اکتا ترک تقلید یا بقول مولانا تقلید مطلق پر رہا، یہی وہ دور ہے جس میں اہل اللہ، ائمہ اجتہاد، ائمہ محدثین،

صلحاء اور اقیام کی کثرت ہے۔ اور جب سے آپ کے اس نسخے کا استعمال شروع ہوا، بھی وقت حسب ارشاد آنحضرت ﷺ ظہورِ فتن کا دور ہے، آنحضرت ﷺ اسے فوجش اور فتن کا دور فرماتے ہیں اور جناب اس پر رحمتوں کے من برسائے کے آرزو مند ہیں! بظاہر ارشاد نبوی ﷺ کے خلاف امید نہیں کی جاسکتی کہ دعا قبول ہو، اور نسخہ حضرت سے تو ظاہر ہے خواہش پرستی نہیں رک سکتی۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تہلید:

مولانا نے صفحہ (۱۹) میں فرمایا ہے کہ ”صحابہ اور تابعین کے وقت تہلید مطلق اور تہلید شخص دونوں پر عمل رہا تھا۔ (یعنی بقول جناب ورنہ حقیقت اس کے خلاف ہے) بعد میں جب یہ زبردست خطرہ سامنے آیا تو تہلید کو تہلید شخص ہی میں محصور کر دیا گیا۔“ الخ
اس کے بعد جناب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقتباسات درج فرمائے ہیں، جن میں کہیں تہلید کو جائز فرمایا، کہیں واجب!

واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ شاہ صاحب کا سیال قلم ان تمام ادوار میں اپنا کام کرتا رہا۔ ہر وقت کے تاثرات شاہ صاحب کے قلم سے ظاہر ہوتے رہے۔ شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف کے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ بریلوی حضرات کو شاہ صاحب اور ان کے خاندان پر اعتماد نہیں، ورنہ شفاء العلیل وغیرہ سے بدعی خیالات کی خاصی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

اہل حدیث اور حضرات دیوبند تو شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں، جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ شاہ صاحب کا رجحان احناف کی طرف بعض جگہ نمایاں ہے، ان کے ہاں شاہ صاحب کے احرام اور ان سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ شاہ صاحب جمود کے سخت مخالف ہیں۔ آج جو بیداری اور حریتِ فکر ملک میں موجود ہے، اس کی ابتدا حضرت مجدد الف ثانی سے ہوئی، لیکن اسے کھل کر نمایاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اسی بیداری کی تحریک نے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے مخلص رفقا میں ترک تہلید کی

صورت اختیار کر لی، جسے مولانا سید نذیر حسین صاحب اور ان کے تلامذہ نے پروان چڑھایا، جس سے اس وقت لاکھوں آدمی متاثر ہیں، جو ملک میں حریتِ فکر اور طریقہ سلف کی تلقین فرما رہے ہیں۔

مولانا نے شاہ صاحب سے تین اقتباس درج فرمائے ہیں۔ دو رسالہ انصاف سے، ایک حجۃ اللہ سے، مگر شاہ صاحب نے انصاف کے دونوں اقتباسات میں تقلید کو وقتی طور پر واجب فرمایا، شرعی واجب نہیں فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت ان حالات میں تقلید ضروری ہے۔ فرماتے ہیں:

”پہلی دوسری صدی میں لوگ محین انسان کی تقلید پر جمع نہ تھے، دوسری صدی کے بعد اثر بڑھنے لگا: ”وكان هو الواجب في هذا الزمان“ (اس وقت یہی واجب تھا)

فرمائیے! کیا واجباتِ شرعیہ کا وجوب وقتی ہوتا ہے؟
دوسرے اقتباس میں صرف و نحو کا تذکرہ فرماتے ہیں:

”یہ پہلے واجب نہ تھا: ”ثم صار في يومنا هذا معرفتها واجبة“ لیکن آج کل صرف نحو پڑھنا واجب ہے۔“

گویا تقلیدِ شخصی کا وجوب صرف و نحو کے وجوب کی طرح وقتی ہے اور ضرورت کے لیے۔ حضرت مولانا اور دانش مند حضرات غور فرمائیں، وجوبِ شرعی کا یہی حال ہے اور ایسے وقتی وجوب کا اگر کوئی انکار کرے یا اسے یقین ہو کہ اب حالات کے تقاضے بدل چکے ہیں تو شرعاً وہ کہاں تک مجرم ہے؟ اس کے ساتھ ہی واقعات آپ کو یقین دلائیں گے کہ ترکِ تقلید کے متعلق اس وقت جو خطرات تھے، بجز اللہ آج وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ جناب کے لب و لہجے کی یہ تبدیلی اسی حقیقت کی غماز ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، وقت اور اس کے مقتضیات اصحابِ عزائم کی مساعی کی وجہ سے بالکل زیادہ تر بدل چکے ہیں۔

حجۃ اللہ کے اقتباس میں تو شاہ صاحب نے اسے تعبیر ہی جواز سے فرمایا ہے۔ اگر مولانا

اور آپ کے رفقاء شاہ صاحب کے ارشاد کو اس کی اصل روح میں سمجھیں تو یہ وجوب تقلید کی مکمل مخالفت ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْبَانٌ فَهُمْ لَنَسْمَعَهُ وَهُوَ شَاهِدٌ﴾ میں ان اقتباسات کو ترکِ تقلید کی تائید سمجھتا ہوں اور اس لیے ان کے سیاق و سباق پر مفصل بحث کی ضرورت خیال نہیں کرتا۔

اب شاہ صاحب کا ایک ارشاد عرض کر رہا ہوں جو جناب کے اس ارشاد کی پوری نقیض ہے کہ ”تقلید کو تقلیدِ شخصی میں محصور کر دیا گیا۔“ شاہ صاحب شعرانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں:

”ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويشتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه، إن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المؤمنين الذي لا يصح خلافه..“ الخ

(عقد الجيد، ص. ۵۲، طبع مصر)

”اہل علم کی عظیم جماعت مذہبِ معین کے بغیر فتویٰ دیتی رہی اور ان پر عمل فرماتی رہی۔ یہ سلسلہ ائمہ مذاہب سے لے کر شعرانی کے وقت تک جاری رہا۔ شعرانی کا فتاویٰ یہ ہے کہ علما کی یہ روٹس ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہی ہے اور یہ طریقہ متفقہ اور اجماعی ہو گیا، جس سے اختلاف طریقہ مؤمنین سے اختلاف کے مترادف ہے۔“

اسی کے قریب قریب ”عقد الجيد“ (ص: ۲۸) میں فرمایا۔ پھر اسی طرح عزیمین عبدالسلام سے نقل فرمایا۔ (عقد الجيد، ص: ۴۱)

میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ شاہ صاحب کا مطلب وجوبِ تقلید سے وجوبِ شرعی نہیں، بلکہ ان کا مطلب وقتی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب کے مندرجہ ذیل ارشاد پر غور فرمائیے:

”وأشهد لله وبالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة فيمن يخلفني ويصيب أن الله كتب علي اتباعه حتما، وأن الواجب علي هو الذي يوجهه هذا الرجل علي، ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان“ الخ (تنبيهات: ۱/۲۱۱)

”میں یہ عقیدہ رکھنا کفر سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس سے خطا اور صواب دونوں سرزد ہو سکتے ہیں، وہ جو مجھ پر واجب کرے وہ واقعی واجب ہوگا۔ شریعتِ حق تو اس بزرگ سے مدتوں پہلے علما کے حافظوں اور فقہاء کے ذہنوں میں موجود ہے۔“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر تقلید کی جائز صورت کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ شرعی وجوب نہیں۔ یہی گزارش اس اقتباس سے مقصود ہے۔

شاہ صاحب جس قسم کی تقلید پسند فرماتے ہیں، اس کی وضاحت وہ خود بھی فرماتے ہیں:

”ونشأ في قلبي داعية من الملائع الأعلی، تفصيلها: أن مذهبي أبي حنيفة والشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة... إلى أن قال: وإن الحق الموافق لعلم الملائع الأعلی اليوم أن يجعلنا كالمذهب واحد يعرضان على الكتب المدونة في حديث رسول الله“ (تنبيهات: ۱/۲۱۱)

یعنی ملائعِ اعلیٰ سے میرے دل میں ایک داعیہ ڈالا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ شافعی اور حنفی دو مذہب امت میں مشہور ہیں۔ ملائعِ اعلیٰ میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان دونوں کو ایک کر کے کتاب و سنت کی کتبِ مدونہ پر پیش کیا جائے۔“

گزارشات کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو شاہ صاحب کے اس قسم کے ارشادات میں کئی اور اق جمع ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اس تقلید کو قطعاً ناپسند فرماتے ہیں جس کی دعوت آج کل دیوبندی کیمپ سے دی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب اس لفظ کا استعمال بھی مختلف معانی میں فرماتے ہیں، وہ اس کے اصطلاحی معانی کے پابند نہیں ہیں۔ جتہ اللہ، انصاف،

عقد الجید، بدور بازند، خیر کثیر، تمہینات اول و ثانی، انتباہ، الوصیت وغیرہ پر مکرر نظر فرمائیں، آپ یقین فرمائیں گے کہ شاہ صاحب کا موقف کس قدر صاف ہے اور وہ مردِ تقلید سے کس قدر بیزار ہیں۔

عزیزاں را ازیں معنی خبر نیست
کہ "سلطانِ جہاں" با ما است امروز^۱

تقلید پر شبہات:

حضرت مولانا نے اس عنوان کے نیچے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے، جو بعض حلقوں کی طرف سے وجوبِ تقلید پر کیے گئے ہیں یا ان دلائل کا جواب دینے کی سعی فرمائی ہے۔

پہلی آیت:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

أَبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [العنكبوت: ۱۶-۱۷]

”جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کی اطاعت کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اطاعت کریں گے جس پر ہم نے بزرگوں کو پایا، گو ان کے بزرگ اس کے فہم سے نا آشنا ہوں نہ ہی وہ سیدھی راہ کو پاسکے ہوں۔“
مولانا فرماتے ہیں:

”یہ باپ دادوں کا ذکر ہے، جو احکامِ الہی کا برملا رد کرتے ہوں، دوسرے وہ باپ دادے جو عقل اور ہدایت سے کورے تھے۔“

آخر میں مولانا فرماتے ہیں:

”اس سے کوئی اہل حق انکار نہیں کر سکتا کہ جن ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جاتی

① دوستوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آج ہمارے ساتھ ہے۔

ہے، اس سے کتنا ہی اختلاف رائے کیوں نہ ہو، مگر ہر اعتبار سے ان کی جلالتِ قدر ہر ایک کو مسلم ہے، اس لیے اس تہلیل کو کافروں کی تہلیل پر منطبق کرنا بڑا ظلم ہے۔“

جواباً گزارش ہے کہ مجھے سولانا سے پورا اتفاق ہے کہ موجودہ تہلیل اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ مجتہدین کی جلالتِ قدر ہر لحاظ سے مسلم ہے۔ ان کا علم، زہد، تقویٰ شبہات سے بالا ہے، ان کی ذات علم و ایمان کے لحاظ سے قطعاً زیر بحث نہیں، بلکہ ان کے علمی احسانات امت پر اس قدر ہیں کہ ان کے متعلق سوائے نطن بے ادبی ہی نہیں بلکہ نمک حرامی ہے، لیکن اب زیر بحث چند چیزیں ہیں:

- 1 آیا قرآن و سنت میں کوئی نام بطور مجتہد یا امام صراحاً مرقوم ہے؟
- 2 پھر ان تمام بزرگوں کا علم یکساں تھا یا حسب ارشاد قرآن عزیز: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ان کے علمی درجات میں تفاوت ہے؟
- 3 پھر ان پاکباز بزرگوں کے سامنے آیا احادیث کے جو ذخائر مختلف ممالک میں موجود تھے، کبجا شائع ہو چکے تھے یا کچھ مخفی تھے؟
- 4 پھر آیا یہ سارے بزرگ اجتہادی مسائل میں متفق ہیں؟ ان کی تہمیت میں باہم کوئی اختلاف نہیں؟

ظاہر ہے کہ ان تمام سوالیہ گزارشات کا جواب نفی میں ہے۔ شارع نے ان کا نام بطور امام لیا ہے نہ ان کا علم یکساں ہے، نہ سنت کے تمام ذخائر اس وقت موجود تھے، نہ ان کے اجتہادات اختلاف سے خالی ہیں۔ پھر ایک عامی نھدان علم یا کم علمی کی وجہ سے ان تمام اجتہادات کو قبول کرے گا، جو ان میں سے کسی ایک بزرگ نے فرمائے، جس کو اس نے امام یا مقتدی تصور کیا۔ دوسرے امام کے تمام اجتہادات کو نظر انداز کرے گا جن میں اس نے اس کے امام سے اختلاف کیا ہو؟

آپ نے پہلے فرمایا:

”تقلید مطلق کو اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے خواہش پرستی کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اور ممکن ہے کہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھ جائے۔“ (فارلان، ص: ۷۱، مئی ۱۹۶۵ء)

آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ ائمہ مجتہدین کے اجتہادات اور فقہیات میں ایسا مواد موجود ہے جس سے نفس پرستی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، گو یہ درست ہے کہ مروجہ تقلید بت پرستی کی تقلید سے مختلف ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہوگا کہ نفس پرستی میں طوط ہو کر مقلد حلال و حرام کے امتیاز کو کھو بیٹھے۔ اس میں یہ خطرہ بھی ہوگا کہ عامی کسی صریح نص کی مخالفت کر بیٹھے، جس کا معتقد فیہ امام کو علم نہیں ہو سکا اور وہ اس سے غفی رہی۔ اگر اسے مختلف علماء سے مل کر تحقیق کی اجازت دی جائے، جناب کے حسب الارشاد تقلید مطلق بلکہ بلا تخصیص علماء کی طرف مراجعت کو خارج البلد نہ کیا جائے تو عوام اور خواص ان خطرات سے بچ سکتے ہیں۔

بنا بریں عموم الفاظ کی بنا پر آیت مرقومۃ الصدر: ﴿لَنْ نَقْبِعَ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ الْهَاءَنَا﴾ اس تقلید کو بھی شامل ہوگی، حکم اور مرتبے میں فرق ہوگا۔

شیخ صالح بن محمد بن نوح فلانی رحمہ اللہ تقلید کی مذمت میں اس مضمون کی بہت ساری آیات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما و إيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليديين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفراً، و قلد آخر فأذنب، و قلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً، وإن اختلفت الأنام فيه“ اھ (ایقظ انہم للفلانی، ص: ۲۵)

یعنی ان آیات سے تقلید کی مذمت ثابت ہوتی ہے، علماء نے ان آیات سے تقلید کا باطل ہونا ثابت کیا ہے، ان آیات کا کفار کے متعلق ہونا استدلال سے نابع نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کفر و اسلام میں تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ اس میں ہے کہ کوئی بات بلا دلیل قبول کی گئی ہے، کوئی تقلید کی وجہ سے کافر ہوا، کوئی گناہ گار ہوا، کسی نے دنیوی معاملات میں تقلید کر کے خطا کی، سب قابل ملامت اس لیے ہوں گے کہ بلا دلیل کسی کی بات قبول کر لی۔

سوال کفر و اسلام کا نہیں، سوال یہ ہے کہ جہاں تحقیق کی ضرورت تھی اور اپنے مقام کے لحاظ سے ممکن بھی تھی، عامی امام کا مذہب دریافت کرنے کی بجائے قرآن و سنت سے کیوں روشنی حاصل نہ کرے اور شریعت کا مسئلہ کیوں نہ پوچھے؟ سائل کے جواب میں یا اس کے فہم اور راہ شناسی میں کہیں بھی شبہ پیدا ہو، ”لا یعقلون“ اور ”لا یہتدون“ کی علت پائی جائے گی، جس سے تقلید کا مذموم پہلو واضح ہو جائے گا۔ حافظ عبدالبر نے بھی اس مقام کی وضاحت اسی انداز سے فرمائی ہے۔ دیکھیے: جامع بیان العلم (۲/۱۱۵، ۱۱۸) دوسری دلیل:

تقلید کے خلاف دوسری دلیل آیت: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بیان کی جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”ہم انہیں شارح سمجھتے ہیں، شارح نہیں۔“

لیکن ادباً گزارش ہے کہ ہم اس آیت میں عدی بن حاتم کی روایت^۱ سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ آپ خدارا سنجیدگی سے غور فرمائیں، مناظرانہ انداز اختیار نہ کریں، صورتِ حال میں سر نہ فرق نہیں۔

ہمارے ہاں متون فقہ بالکل نصوص کے ہم پایہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے مقلد علماء

۱ دیکھیں: سنن الترمذی، رقم الحدیث (۳۰۹۵)

تاویل جب کریں گے نصوص کی کریں گے، امام کا قول ظاہر پر محمول ہوگا، یعنی ہاتھ کی صفائی کا تجربہ نصوص پر ہوگا۔

شوافع بنتِ زنا سے نکاح کو جائز فرمائیں گے، حالانکہ اس کی شناعت ظاہر ہے، اور احناف نے شراب کی حد کے متعلق جس وسعتِ ظرف کا ثبوت دیا ہے، ندامت سے سر جھک جاتا ہے۔ اس میں بالذات یا بالواسطہ کی آڑ بریلوی حضرات سے مستعد لی گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ائمہ اجتہاد کے ساتھ عقیدت کے غلو کی وجہ سے سوچنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی۔

خطبہ جمعہ:

معلوم ہے کہ احناف کرام جمعہ کے خطبہ کا ترجمہ جائز نہیں سمجھتے۔ ہندوستان میں جب بعض دوسرے سالک نے خطبہ اپنی زبان میں کہنا شروع کیا تو احناف کرام کو نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بات سیدھی تھی، مصالح کے ماتحت ترجمہ شروع کر دیتے یا پھر نقصان گوارا فرما کر بدستور خطبہ عربی میں کہتے۔ ہوا یہ کہ حضرات دیوبند نے جمعہ کے تین خطبات بنا دیے، ایک خطبہ اپنی زبان میں، دو عربی میں۔ آئندہ سلیس اسے شاید ”بدعتِ حسنة“ کہا کریں گی۔ یہ محض اکابر کی رائے کے احرام میں غلو کا نتیجہ ہے۔ ادھر ایجادِ بندہ کے انداز سے ایک سادہ آدمی سوچے گا کہ تقلید کہاں ہے؟ ائمہ کی محبت میں غلو نے بدعت کی ایجاد پر مجبور کر دیا۔

قیامِ رمضان:

بداہنا معلوم ہے قیامِ رمضان مع وتر ۹-۱۱-۱۳ کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔^① میں یا اس سے زیادہ کا تذکرہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ بعض صحابہ، تابعین ہیں، اڑتیس، اکتالیس رکعت تک پڑھتے رہے۔ نوافل کی کثرت مستحسن ہے، زیادہ کو کسی نے بُرا نہیں کہا۔ ابن ہمام رحمہ اللہ کی تطبیق کہ آٹھ سنت نبوی اور باقی نوافل مناسب تطبیق ہے، جس

① دیکھیں: صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۷۶) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۳۰، ۷۲۷)

پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ متاخرین نے سنت نبوی پر عمل کی بجائے ائمہ کے عمل کو سنت پر ترجیح دینے میں غلو سے کام لیا۔ کبھی تہجد اور قیام رمضان کو الگ الگ فرمایا گیا، کبھی آٹھ رکعت کو بدعت اور غیر ثابت کہنے کی جسارت فرمائی گئی۔ بعض نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اعتراف کیا کہ نماز تو ایک ہی ہے، رمضان میں تراویح سے الگ تہجد ثابت نہیں، لیکن سنت صحابہ میں ہے۔^① (مولانا سید انور شاہ صاحب)

اس غلو اور پریشان خیالی میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سے لے کر آج کے نو آموز طلبہ تک جتلا ہیں۔ اکابر پرستی کے سوا اس کی کوئی وجہ نہیں۔ بات واضح تھی، جس طرح میں نوافل پر کوئی اعتراض نہ تھا، آٹھ یا دس پر بھی اعتراض نہ کیا جاتا۔ کل بعمل علی شاکلتہ۔

اس کے باوجود حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کے ساتھ کچھ اور رفقا ایسے ہوں گے جو اکابر پرستی کے اس غلو کو طبعاً ناپسند فرماتے ہوں تو وہ یقیناً عموم آیت سے مستثنیٰ ہوں گے، لیکن اس سے غالی حضرات کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

عزیز عبد السلام فرماتے ہیں:

”ومن العجب العجیب أن الفقهاء المقلدین یقف أحدہم علی ضعف ما أخذ إمامہ بحیث لا یجد لضعف مدفعا، وهو مع ذلك یقلدہ فیہ، ویترک من شہد الکتاب والسنة والأقیسة الصحیحة لمنہبہم جمودا علی تقلید إمامہ، بل یتحیل لدفع ظاہر الکتاب والسنة، ویأولہا بالتأویلات البعیدة الباطلة نضالا عن مقلدہ“ الخ (حجة اللہ البالغہ، ص: ۱۷۴)

یعنی یہ عجیب بات ہے کہ فقہاء مقلدین اپنے امام کے ماخذ کے ضعف کو سمجھتے ہیں اور کوئی اس کا صحیح دفاع نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے

① دیکھیں: فیض الباری (۲/ ۶۳) العرف الشذی (۲/ ۲۰۸)

اور کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتا ہے تقلید پر جمود کی وجہ سے، اور ظاہر کتاب و سنت کو ترک کرنے کے لیے حیلے تلاش کرتا ہے اور امام کی حمایت میں دُور از کار تاویلات کرتا ہے۔

آہٹ کا مصداق ارباب تقلید میں موجود ہے۔ اگر آپ محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حرید بچنے کی توفیق دے، مگر جس جامد نظریے کی جناب حمایت فرما رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں، قدمائے احناف نے اس کا کبھی اظہار نہیں کیا، نہ تقلید شخصی کے لیے اس پابندی کو پسند فرمایا، جس کا تذکرہ جناب نے ان ارشادات گرامی میں کیا ہے۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ (۳۲۱ھ) حنفیہ کے بہت مؤید ہیں، ان کا ارشاد میری گزارش کی تائید میں ہے۔ امام طحاوی، قاضی کے آداب میں امام محمد کا ارشاد گرامی ذکر فرماتے ہیں:

”وإن كان إنما قضى به بتقليد الفقيه بعينه، ثم تبين له أن غيره من أقوال الفقهاء أولى مما قضى به نقضه، وقضى بما يراه فيه، وبه نأخذ، ولا ينبغي له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان مما يختلف فيه الفقهاء“ (مختصر الطحاوي، ص: ۳۲۷)

”اگر قاضی نے کسی معین فقیہ کی تقلید میں فیصلہ کیا، پھر اُسے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے فقیہ کا قول اس سے بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ پہلا فیصلہ توڑ کر صحیح فیصلہ کرے۔ طحاوی فرماتے ہیں: ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن وہ متقدمین فقہاء کے اس فیصلہ کے کو نہیں توڑ سکتا جس میں فقہاء کا اختلاف ہو۔“

دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس جامد تقلید شخصی کی جناب نے دعوت دی ہے، قدمائے احناف بھی اس سے آشنا نہ تھے۔ مختصر الطحاوی کا صفحہ (۳۲۷) پورا قابلِ ملاحظہ ہے، میں نے طول سے بچنے کے لیے نقل نہیں کیا۔

اور پھر جناب نے جس شدت اور وثوق سے تقلید شخصی کی تبلیغ فرمائی ہے، اس میں

انتہائی خطرات ہیں۔ عصبیت اور باہم بغض و عداوت کی آبیاری ہوگی۔ اس روش پر غور فرمائیے! سے

فَاَحْفَظْ وَوَقِيتْ فَتَحْتِ قَدَمِكَ هُوَّةٌ
كَمْ قَدْ هَوَىٰ فِيهَا مِنَ الْإِنْسَانِ^۱

اقوالِ ائمہ... تقلید کے رد میں:

ائمہ اجتہاد تقلید کے رد میں متفق ہیں اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور غیر کی تقلید سے تاکیداً روکا ہے۔^۲ مولانا فرماتے ہیں:

”یہ حکم ان لوگوں کے لیے نہیں جو صلاحیتِ اجتہاد سے محروم ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔“

ارشادِ گرامی موجبِ تعجب ہے۔ مجتہد تو تقلید کا مکلف ہے نہیں، اسے روکنا عہد ہے۔ دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو مقامِ اجتہاد کو نہیں پہنچے، لیکن وہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جیسے جناب یا اس قسم کے دوسرے علماء۔ عامی کا تو یوں ہی کوئی مذہب نہیں، وہ بے چارہ ائمہ اجتہاد سے کہیں زیادہ محلے کی مسجد کے امام کا مقلد ہوتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟

اس کی زندہ مثال ہمارے عوام ہیں اور بریلوی علماء۔ عوام ان حرخرفات کو حنفی مذہب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان پریشان خیالیوں کی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب صورتِ حال یوں ہے کہ مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں، آپ اور ہم جیسے لوگوں کو خود ائمہ نے روک دیا، عامی بے چارے کا کوئی مذہب ہی نہیں، وہ تو ان علماء کا مقلد ہے جن کو تقلید سے حکماً روک دیا گیا ہے۔ فأین التقلید؟

۱ سنجل کر۔ تو محفوظ رہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے گڑھا ہے، کتنے ہی انسان اس میں گر چکے ہیں۔

۲ تفصیل کے لیے دیکھیں: أصل صفة صلاة النبي ﷺ للالبانی (۱/ ۲۳)

چوتھے شعبے میں آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا ہے، ہم بھی شاہ صاحب کے مسلک کی وضاحت اوپر کر آئے ہیں۔

پانچویں شعبے کے جواب میں مولانا نے فرمایا ہے کہ تذکیر کی آیات آسان ہیں اور احکام کی آیات مشکل۔ یہ بڑا پرانا مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں علی الاطلاق مشکل مقامات بھی ہیں اور آسان بھی، لیکن یہ بالکل بے معنی ہے کہ اسے مجتہد کے سوا سمجھنا ممکن نہیں۔ آپ حضرات مدارس میں پڑھاتے ہیں، کتابوں پر شروع اور حواشی لکھتے ہیں۔ آپ کے مخالفین بھی اپنی بساط کے مطابق یہی کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے ائمہ اجتہاد نے فرمایا ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرو اور ہماری تقلید سے بچو:

”اخذوا الأحكام من حيث أخذوا“^① (احکام کو قرآن و سنت سے سمجھو)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ مسئلہ مشکل ہو یا آسان، مواخذہ استعداد اور نیت کے مطابق ہوگا۔

آخر میں قرآن کے مشکل ہونے کے متعلق مولانا نے شرح السنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے:

”أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر و بطن،
ولكل حد مطلع“^② (مشکوٰۃ)

صاحب مشکوٰۃ نے اسے شرح السنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اصحاب تخریج

① إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٣٠٢) أصل صفة النبي للالباني (١/ ٣٦)

② صحيح. صحيح ابن حبان (١/ ٢٧٦) رقم الحديث (٧٥) مسند أبي يعلى (٩/ ٨٠) المعجم

الكبير (٨٠/ ١٢٥) مشكل الآثار (٤/ ١٧٢) مشكاة المصابيح (١/ ٤١) رقم الحديث (٢٣٨) امام ابن

جرير مطبوعہ کی تفسیر (١/ ٣٥) میں مذکورہ دونوں سندیں واقفاً مطول ہیں۔ نیز ”شرح السنہ للبقوي“

(١/ ١١٣) میں یہ روایت ضعیف اور مرسل سند کے ساتھ مروی ہے، لیکن دیگر اسانید کے ساتھ یہ حدیث

صحیح اور ثابت ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا مصادر سے عیاں ہوتا ہے۔

نے بجم کبیر کا بھی ذکر فرمایا ہے، یہ اصل غیر مطبوع ہیں۔ مفسر ابن جریر نے اس کی دو اسانید ذکر فرمائی ہیں، دونوں بیکار، ضعیف اور ملقطوع ہیں۔ سب احرف کا حصہ صحیح احادیث میں موجود ہے، وہ آپ کے لیے مفید نہیں، اور ظاہر و باطن کا حصہ مخدوش ہے۔

تقلید میں اعتدال یا جمود؟

مولانا نے جامد تقلید کو ناپسند فرمایا ہے اور اعتدال کو پسند! ع

عمرت دراز باد کہ این ہم غنیمت است! ۱

ہم نے جناب کے ان ارشادات کو بغور پڑھا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی نظر سے گزرے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ تاحال آپ کے ارشادات میں اعتدال ناپید ہے۔ جب آپ جمود اور اعتدال کے درمیان کوئی خط اعتدال کھینچیں گے، ہم ان شاء اللہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن اس خط اعتدال کی سستوں کا تعین حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق فرمایا گیا تو یقین جانے کہ بے اعتدالی سے اعتدال کبھی پیدا نہیں ہوتا، البتہ آپ کے اس مشورے سے اتفاق ہے کہ اعتدال ہر معاملے میں بہتر ہے۔

کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے؟

مولانا نے افسوس کا اظہار فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے فقہا کو برا بھلا کہنے سے نہیں چمکتے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ حرکت انتہائی مذموم ہے، اسی طرح بعض حضرات تقلید کی تائید فرماتے ہوئے ائمہ حدیث پر کچھڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علمائے کرام امت کی مشترکہ امانت ہیں، ان کے متعلق بدگوئی، بدزبانی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ آج مدرسہ دیوبند کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ غالباً سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تحت جگر، ائمہ حدیث کے مقام کی رفعتوں کو خاک میں ملانے کا مشغل

۱ تمھاری عمر لمبی ہو کہ یہ بھی غنیمت ہے۔

فرما رہے ہیں۔ یہ علامہ زاہد کوثری مرحوم کا بویا ہوا بیج ہے، جسے پالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کافی عرصے سے دیوبند کے اکابر اور اصغر مشن ستم میں مشغول ہیں جس کا نتیجہ منکرینِ حدیث کی تائید کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے بعض نو آموز مصنفین اسی بدزبانی کی سنت کا احیا کر رہے ہیں۔ حوالوں میں قطع و برید اور بدزبانی یہی ان کے خصائص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اصلاح کی توفیق بخشنے۔^①

اس کے بعد مولانا نے چند مسائل کا ذکر فرمایا۔ بہتر تھا مولانا اصول تک محدود رہے اور فرعی مسائل کا ذکر نہ فرماتے۔ یہ فروعِ غنائی کر رہے ہیں کہ ایں محترم ان دیرینہ مباحث کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں جن پر عرصہ تک طبع آزمائی ہوتی رہی ہے۔

پہلا مسئلہ:

مولانا نے پہلا مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ائمہ اجتہاد نے تین راہیں اختیار فرمائی ہیں:

① ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ (الجمہیث اور شوافع)

② ہاتھ کھلے رکھنا۔ (مواک)

③ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ (احناف)

جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، نماز تینوں طرح ہو جاتی ہے۔ مواک کے عمل کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، خود امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں ہاتھ باندھنے کی حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔^② یہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ مواک میں ہاتھ کھلے رکھنے کا رواج کیسے ہوا؟ میرے علم میں مواک کے اس عمل کو خود ساختہ کبھی نہیں کہا گیا۔

احناف کے اس عمل کو کسی نے خود ساختہ کہا ہو، میرے علم میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مسلک اہل حدیث میں رائج سمجھا گیا ہے۔ جس حدیث سے مولانا نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے استدلال فرمایا ہے، یہ بالاتفاق ضعیف

① ملاحظہ ہو: طائفہ منصورہ، مقام ابو ظیفہ وغیرہ [مؤلف]

② صحیح. الموطأ (1/109) رقم الحدیث (376)

ہے۔ مولانا نے بھی اس کے ضعف کو قریباً تسلیم فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد کے بعض نسخوں میں ہے۔^① اسی طرح ”علی صدرہ“ کی روایت ابو داؤد کے بعض نسخوں میں موجود ہے۔^②

تحت السرة کی روایت گو حکماً مرفوع ہے، لیکن وہ بھی صحیح اسانید ضعیف ہے، اس کی تمام اسانید کا انحصار ”عبدالرحمن بن اسحاق واسطی“ پر ہے، جو باتفاق ائمہ رجال ضعیف ہے۔ فوق الصدور کی بعض روایات میں بھی ضعف ہے، لیکن دو احادیث اس میں صحیح ہیں۔

پہلی حدیث:

”حلثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان حلثنا سحاك عن قیصة بن هلب عن أیبه قال رأیت رسول الله ﷺ: « ینصرف عن یمینه وعن یساره، ورأیته یضع هذه علی صدره » ووصف یحییٰ الیمنیٰ علی الیسریٰ فوق المفصل“ (مسند امام أحمد: ۵/۲۲۶، طبع جدید أحمد شاکر)

دوسری حدیث:

ابن خزیمہ سے منقول ہے، جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں فرمایا: ”عن وائل بن حجر قال: صلیت مع رسول الله ﷺ: فوضع یدہ الیمنیٰ علی یدہ الیسریٰ علی صدره رواه ابن خزیمة“
(مع سبل السلام: ۱/۱۵۹)

حافظ ابن خزیمہ سے اس کی تصحیح بھی منقول ہے۔

ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنا دنیاں ہاتھ بائیں

① سنن أبي داود، نسخة ابن الأعرابي (ص: ۲۸۰) سنن البيهقي (۲/۳۶) امام ترمذی نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کے راوی ”عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی“ پر ائمہ حدیث سے جرح نقل کی ہے اور اسے متروک قرار دیا ہے۔

② دیکھیں: سنن أبي داود، رقم الحديث (۷۵۹) یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، لیکن اسی معنی کی دیگر صحیح احادیث موجود ہیں، جیسا کہ مؤلف نے آگے ذکر کیا ہے۔

③ صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۴۳)

پر رکھا اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔ حرید بحث عون المعبود (۱/۲۷۶) میں ملاحظہ فرمائیں۔
تحقیق یہ ہے کہ یہ احادیث ”تحت السرة“ کی روایت سے زیادہ صحیح ہیں، اس لیے ابجدیٹ اس مسلک کو رائج سمجھتے ہیں۔ امام احمد سے ”فوق السرة“ اور ”تحت السرة“ دونوں طرح منقول ہیں۔

”واختلف في موضع الوضع، فعنه فوق السرة، وعنه تحتها،
وعنه أبو طالب: سألت أحمد: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال:
على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده“ (بدائع الفوائد: ۳/۹۱)
یعنی دونوں ہاتھ باندھنے کے مقام میں اختلاف ہے۔ ابوطالب امام احمد سے
نقل فرماتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، دونوں امر درست ہیں۔

امام شافعی بھی فوق السرة ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ تحت السرة کے متعلق جس قدر
آثار ہیں ان میں کوئی صحیح نہیں، تاہم آپ کے مسلک کو خود ساختہ کہنا مناسب نہیں، البتہ یہ
کہا جاسکتا ہے کہ اس کی بنیاد ضعیف آثار پر ہے، اس لیے اہل حدیث مسلک لمحاظ سند
رائج ہے، لیکن اس مقام پر بعض حضرات بے حد غلو کرتے ہیں اور یہ غلو دونوں طرف سے
ہو رہا ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ تحت السرة کے قائلین بعض حضرات ہاتھوں کو اس
قدر لٹکا دیتے ہیں کہ تحت السرة کی بجائے فوق العانة کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی زیر
ناف تک پہنچ جاتے ہیں، اور فوق السرة کے قائل تحت الحق یعنی گلے کے قریب باندھتے
ہیں، یہ دونوں صورتیں نہایت بد نما اور مکروہ محسوس ہوتی ہیں۔ رہا ادب اور تعظیم وہ تو سینے پر
ہاتھ باندھنے سے ہوتا ہے، ہاتھ نیچے لٹکا دینا تو ادب کے خلاف ہی نہیں بلکہ مکروہ معلوم
ہوتا ہے۔ تلاوت کے وقت سلام کے بعد ادب کے لیے عموماً ہاتھ سینے پر ہی رکھے جاتے
ہیں۔ زیر ناف رکھتے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔

رفع الیدین عند الركوع:

اس مسئلے میں واقعی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، محض تحکم اور سینہ زوری سے کام

لیا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ مولانا عثمانی انصاف پسندی سے اس کا اقرار کریں گے، صفائی سے فرمائیں گے کہ احناف واقعی اس مسئلے میں تہی دست ہیں، لیکن مولانا نے جو طریق گفتگو اختیار فرمایا ہے، اس سے انھوں نے اپنے محاسن میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ اہل علم جانتے ہیں، صدیوں کے متنازع فیہ مسائل، جن پر امت کے اعلام بارہا طبع آزمائی فرما چکے ہوں، ایسے بے سہارا تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی نہ کوئی غلط یا صحیح سہارا تو ضرور ہوگا۔ آپ نے ان سے ایسے مشہور مسائل کا انتخاب فرمایا جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مناسب تھا کہ پرانے نوالے چبانے کی کوشش نہ کی جاتی، بلکہ آپ اس میں کوئی نئی تحقیق سامنے لاتے، ورنہ ان مسائل میں تو فریقین ایک دوسرے کی انجا کو خوب سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے طبع آزمائی کے لیے ان مسائل کا انتخاب فرمایا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کے متعلق عرض کرنا ہوگا۔

میں نے عرض کیا ہے اس مسئلے میں آپ فی الواقع تہی دست ہیں اور دلائل کے لحاظ سے کمزور۔ آپ نے اس وقت دو احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث کی نقل میں آپ نے اپنے پہلے بعض بزرگوں کی تقلید میں بڑی جسارت سے کام لیا ہے، ورنہ اس حدیث میں رفع الیدین عند الزکوع کا بالکل ذکر ہی نہیں۔ اکابر حنفیہ بیہشم محض سینہ زوری سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور آپ حضرات ان پر اعتماد فرما کر جرأت فرما دیتے ہیں، ورنہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس ضمن میں اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، مگر جناب نے جو فرمایا تھا، فرما دیا ہے!

پہلی حدیث:

صحیح مسلم میں اس حدیث کو چار طرق سے روایت فرمایا ہے، تحویلات کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ابو داؤد میں بھی معمولی اختلاف کے ساتھ قریباً یہی اسانید منقول ہیں، بعض میں متن مختصر ہیں اور بعض میں مفصل، حدیث ایک ہے، اس کی روایت کے الفاظ واضح ہیں:

”عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال

رسول اللہ ﷺ: «علام تو مٹون بأیدیکم؟ کأنها أذنا ب خیل شمس! إنما یکفی أحدکم أن یضع یدہ علی فخذہ، ثم یسلم علی أخیہ من علی یمینہ و شمالہ» (صحیح مسلم: ۱/۸۱)

یعنی جابر بن سمرہ فرماتے کہ جب ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ آپ نے فرمایا: ”تم یہ اشارے کیوں کرتے ہو؟ جیسے تیز گھوڑے دم ہلاتے ہیں! تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ ران پر ہاتھ رکھو، پھر اپنے بھائی کو سلام کیو۔“

یہ تمام احادیث جابر بن سمرہ ہی سے مروی ہیں، تمام کا مضمون ایک ہی قسم کا ہے۔ تین طور پر معلوم ہوتا ہے واقعہ میں کوئی فرق نہیں، اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، آپ جیسے اصلاح پسند حضرات کو ایسی سٹگی بات نہیں فرمائی چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

”لا یحتج بهذا إلا من لا حظ له من العلم“^۱

”اس حدیث سے وہی استدلال کرے گا جسے علم سے کوئی حصہ نہیں ملا۔“

اگر یہ استدلال صحیح سمجھا جائے تو اس کا اثر بحیثیت عیدین، بحیثیت افتتاح، بحیثیت قنوت پر بھی پڑے گا۔

ابن حبان فرماتے ہیں:

”إنما أمروا بالسكون في الصلوة عن الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع“^۲ (عون المعبود: ۱/۳۸۲)

یعنی یہ سکون کا حکم سلام کے وقت تھا، رفع الیدین عند الركوع کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔^۳

① جزء رفع الیدین للبخاری (۳۵)

② صحیح ابن حبان (۵/۱۹۹)

③ مولانا تقی عثمانی صاحب پر از حدیث ہے کہ یہاں وہ حدیث جابر کو فضیلتی تہذیب کی تائید میں معرض استدلال میں ذکر فرما رہے ہیں، بلکہ آنجناب خود ہی اپنی ایک دوسری کتاب میں حدیث جابر

امام بخاری فرماتے ہیں:

”فلیحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم“
یعنی آنحضرت ﷺ پر تقول اور جھوٹ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔

(عون: ۱/۲۸۲)

مسلم اور ابو داؤد کے اس مقام کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ معاملہ واضح ہے:

﴿لِيَمَنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفٌ السَّمْعِ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [آی: ۲۷]

دوسری حدیث:

دوسری حدیث عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة“ (ابو داؤد: ۱/۲۷۲)

”آپ نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے۔“

”قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح“

علیٰ هذا اللفظ“ (۱/۲۷۳)

اگر اس صورت پہلی حدیث کا موضوع سے تعلق نہیں، دوسری باتفاق ائمہ حدیث ضعیف ہے۔

”قال ابن المبارك: لم يثبت عندي، قال أبو حاتم: هذا حديث“

خطأ، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم: هو ضعيف، وتابعهما

البخاري علي ذلك، قال أبو داود: وليس بصحيح، قال

الدارقطني: لم يثبت“ (عون المعبر: ۱/۲۷۲)

”ابن مبارک فرماتے ہیں: یہ حدیث ثابت نہیں۔ ابو حاتم فرماتے ہیں: یہ

کے متعلق فرماتے ہیں: ”لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں حنفیہ کا استدلال مشتبہ

اور کمزور ہے۔۔۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب۔ نور اللہ مرقدہ۔ نے اس حدیث کو حنفیہ کے

دلائل میں ذکر نہیں کیا۔“ (درس ترقی از مولانا محمد تقی عثمانی: ۲/۳۶) قیاللعجب!

① جزء رفع الیدین للبخاری (۳۱)

حدیث خطا ہے۔ امام احمد، یحییٰ بن آدم اور امام بخاری فرماتے ہیں: یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں: یہ ثابت نہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں: اہل کوفہ کے پاس رفع الیدین کے خلاف ایک یہی حدیث ہے اور یہ فی الحقیقت انتہائی ضعیف ہے۔^۱

عاصم بن کلیب اور محمد بن جابر کے دونوں طریق باتفاق ائمہ ضعیف ہیں۔ امام ترمذی کی تحسین ان کی خاص اصطلاح ہے جس میں اعتماد اور ثقاہت کا لزوم نہیں۔ کما هو مبسوط فی کتب المحدثین۔^۱

امام ترمذی اس حدیث کے متعلق صراحت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں:

”قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يرفع يديه إلا في أول مرة“

(ترمذی: ۱/۲۲۰ مع تحفة)

یعنی امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث رفع الیدین کے متعلق بواسطہ زہری ثابت ہے اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث کہ آنحضرت ﷺ نے صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کی، ثابت نہیں۔

محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں:

”أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة“

(تحفة الأحوذی: ۱/۲۱۹)

یعنی تمام اسلامی ممالک کے اہل علم نے رفع الیدین کی مشروعیت پر اتفاق فرمایا ہے اہل کوفہ کے سوا۔

① دیکھیں: توضیح الافکار (۱/۱۶۹)

امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین میں حضرت حسن اور حمید بن ہلال سے ذکر فرمایا کہ صحابہ رفع الیدین کرتے تھے اور اس سے کسی کو استثناء نہیں کیا۔

رفع الیدین کا ترک کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں، اور اسی طرح علمائے حجاز، علمائے مکہ، علمائے عراق، شام، بصرہ اور یمن اور بہت سے علمائے خراسان سے منقول ہے۔ سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، مجاہد، قاسم، سالم بن عبداللہ، عمر بن عبدالعزیز، نعمان بن ابی عیاش، حسن بن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ بن دینار، نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر، حسن بن مسلم اور قیس بن سعد اور بہت سے علماء کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح امام داؤد سے بھی رفع الیدین مروی ہے۔

اس وقت نہ اس مسئلے کا استیعاب مطلوب ہے کہ کس کس نے اس پر عمل کیا نہ مناظرہ مقصود ہے، بلکہ جناب جیسے منصف مزاج عالم کو توجہ دلانا مطلوب ہے کہ اس مسئلے میں فقہائے عراق کا مدار دلائل سے زیادہ تقلید پر ہے۔ بد نصیبی سے یہ حدیث علمائے عراق میں قبول کا مقام نہیں حاصل کر سکی۔ متقدمین، اللہ ان پر رحم فرمائے، ممکن ہے ان دلائل کی اہمیت معلوم نہ فرما سکے ہوں، آپ جیسے انصاف پسند، معاملہ فہم بزرگوں کو بحث میں یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے!

متاخرین فقہائے عراق نے از راہ انصاف متقدمین کے کئی مسائل کا انکار فرمایا، اس مسئلے کو بھی ہم اسی قسم میں شامل فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل جزء رفع الیدین للبخاری، عمون المعبود، تحفہ اور دیگر شرویح حدیث میں مرقوم ہے۔

اسی طرح براء بن عازب کی حدیث جو بروایت یزید بن ابی زیاد مروی ہے، اس میں «لم یرفع یدیه إلا اول مرة» ثابت نہیں^۱۔

خلاصہ:

جو روایات معلوم ہیں ان کی حالت تو یہی ہے جو مرقوم ہوئی۔ معلوم نہیں وہ سات

۱ دیکھیں: جزء رفع الیدین للبخاری (۲۲)

آٹھ روایات کہاں ہیں جن کا جناب نے ذکر فرمایا؟ آپ رفع الیدین نہ کریں، آپ کو اختیار ہے، ہم بھی اسے فرض نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ یہ فرمائیں کہ یہ ترک کسی مستند حدیث سے ثابت ہے تو علم و درایت پر ظلم ہوگا، یا یہ فرمائیں کہ ترک رفع بھی سنت ہے، یہ بڑی بے انصافی ہوگی۔ ایسا ترک جس کے پیچھے دلائل ناپید ہوں، قطعاً سنت نہیں ہو سکتا۔ اول تو متروک کو سنت کہنا ہی محل نظر ہے۔ ایک ہی فعل پر عمل اور ترک دونوں سنت ہوں، مستحکمہ خیر ہے۔ جہاں ایک طرف دلائل کے انبار ہوں، اس کے بالقابل ترک کو سنت کہنا قطعاً معقول نہیں۔ اکابر دیوبند سے بعض مستند علمائے دونوں کو سنت فرمایا ہے، ہمیں ان کی اس روش پر تعجب ہے۔ عفا اللہ عنہم۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشاد بھی یہی ہے کہ دونوں سنت ہیں، لیکن آخر میں فرماتے ہیں:

”والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت“ (حجة الله البالغة: ۲/۸)

”مجھے رفع الیدین کرنے والا نہ کرنے والے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی۔“

جلسہ استراحت:

جلسہ استراحت استہجابی امر ہے، تاہم اگر احباب انصاف کی نگاہ سے دیکھتے تو کم از کم جلسہ استراحت کے ترک کو ترجیح نہ دیتے۔ انصاف پسندی کا تقاضا یہ تھا کہ جناب دونوں احادیث کے مفہوم اور اسناد پر نگاہ ڈالتے۔ جلسہ استراحت کی تائید میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے:

”إذا كان في وتر من صلواته، لم ينهض حتى يستوي جالساً“^①

”اُمّ نضرہ رضی اللہ عنہا سیدھے بیٹھ کر کھڑے ہوئے۔“

امام ترمذی فرماتے ہیں:

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۷۸۹) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۸۷)

”حدیث مالک بن حویرث حدیث حسن صحیح“ (ترمذی: ۱/۳۳۷)
فقہ بھی صاف ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس سے آپ نے جلسہ استراحت کے ترک پر استدلال فرمایا ہے، معنی میں واضح نہیں۔^۱ قدموں کے صدور پر کھڑا ہونے میں قیام کی ہیئت واضح فرمائی ہے، جلسہ استراحت کی نشی نہیں۔ تطبیق ہو سکتی ہے، جب جلسہ استراحت سے اٹھتے تو قدموں کے صدور پر بوجھ ڈال کر اٹھتے، اس سے جلسہ استراحت کی نشی نہیں ہوتی، صرف قیام کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں خالد بن ایاس کے متعلق ترمذی فرماتے ہیں:

”خالد بن ایاس ضعیف عند أهل الحديث“^۲ (ترمذی: ۱/۲۳۸)
”خالد بن ایاس ائمہ حدیث کی نظر میں ضعیف ہے۔“

اس قسم کے دلائل تقلید ہی کے دامن میں پناہ لے سکتے ہیں، تحقیق پسند آدمی ایسی احادیث پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ نے صحیح بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اگر کوئی واضح اور صحیح حدیث ہو تو اس کا صحیح حوالہ دیں۔ جہاں تک میرا ناقص علم ہے، صحیح بخاری میں ترک جلسہ استراحت کے متعلق کوئی حدیث نہیں، متعصب علماء کی طرح سید زوری ہو سکتی ہے۔ ویسے جلسہ استراحت کے متعلق احادیث میں جس طرح صراحت موجود ہے، اس کے خلاف کوئی صراحت نہیں۔

”عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا“

① دیکھیں: سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۸۸)

② نیز امام بیہقی فرماتے ہیں: ”روی خالد بن ایاس، ويقال: إياس، وهو ضعيف... وحدث مالك بن الحويرث أصح“ (سنن البيهقي: ۲/۱۲۶) حرید تفصیل کے لیے دیکھیں: إرواء الغلیل (۲/۸۱)

قال أبو عيسى: "حدیث مالک بن الحویرث حدیث حسن صحیح" (جامع ترمذی: ۱/۲۳۷)

"آنحضرت ﷺ جب طاق رکعتوں سے اٹھتے تو اطمینان سے بیٹھ کر کھڑے ہوتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔"

آپ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے، اس میں اجمال ہے، مالک بن حویرث کی حدیث میں جلسہ استراحت واضح اور مفصل ہے!

آخری قعدہ میں تورک:

یہ درست ہے اہل حدیث، شوافع، حنابلہ وغیرہ ائمہ سنت آخری قعدہ میں تورک کو پسند فرماتے ہیں، یعنی بایاں پاؤں بچھا دیا جائے اور زان پر بوجھ ڈال دیا جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رہے۔ ابو حمید ساعدی کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے:

"افتروش رجله الیسری، وأقبل بصدر الیمنی علی قبلته" الخ

(جامع ترمذی: ۱/۲۴۱)

"باب وصف الصلاة" میں ابو حمید کی حدیث مفصل ذکر فرمائی، اس کے الفاظ زیادہ صاف ہیں:

"حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخرج رجله

اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم" (۱/۲۴۹)

"آخری رکعت پر جب نماز ختم فرماتے تو بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال کر ران

پر بیٹھ جاتے اور سلام کہتے۔"

ان واضح احادیث کی بنا پر اہل حدیث تورک کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن تورک نہ کرنے کی وجہ سے نماز کو فاسد نہیں کہتے۔ ممکن ہے کراچی میں کسی اہل حدیث طالب علم نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو، جہاں تک علما اور سنجیدہ حضرات کا تعلق ہے، اس وجہ سے نماز فاسد نہیں

کہتے، البتہ آپ نے جس حدیث سے استدلال فرمایا ہے وہ مجمل ہے اور حمید رضی اللہ عنہ کی روایات مفصل اور واضح ہیں۔ والمفصل يقضي على المجمل۔

قراءت فاتحہ خلف الامام:

یقیناً الحدیث کے نزدیک راجح یہی ہے کہ سورت فاتحہ امام مقتدی سب پر فرض ہے۔ اس مسئلے میں دیرینہ اختلاف ہے، اس لیے فقہائے عراق نے اس پر کافی طبع آزمائی فرمائی ہے، لیکن یہ سارے مباحث سلبی قسم کے الزامات ہیں۔ اجمالی طور پر جو احادیث محل نزاع میں صریح ہیں، وہ صحیح نہیں، جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں، یعنی مطلق قراءت کے متعلق ہیں، ان میں فاتحہ کا ذکر نہیں۔ محترم معذور سید انور شاہ صاحب نے ان سلبی اور الزامی آراء کی کافی نشان دہی فرمائی ہے، لیکن اصل موضوع ہنوز تشدد ہے۔ واقعی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے متعلق سب سے بچتہ دلیل علمائے عراق کی تقلید ہے۔

آپ خود غور فرمائیں! آپ نے حضرت جابر کا اثر ذکر فرمایا ہے، آپ کو کوئی مرفوع روایت نہیں ملی۔ امام طحاوی وغیرہ نے اس کا رافعاً ذکر فرمایا لیکن کوئی طریق صحیح نہیں۔ غیظ و غضب کی کوئی بات نہیں، اظہار واقعہ کو آپ غیظ و غضب سمجھتے ہیں، آپ بخار ہیں، اہل حدیث نے آپ کو بعض کمزور مقامات کی طرف توجہ دلائی ہے، رد یا قبول آپ کے اختیار میں ہے، غیظ و غضب کا کسی کو حق نہیں۔ ویسے اس مسئلے میں رفع الیدین سے آپ کی پوزیشن کسی قدر اچھی ہے، اس موضوع پر طرفین نے بہت کچھ لکھا ہے، اس لیے طول اور تفصیل کی ضرورت نہیں۔

① دیکھیں: سنن الترمذی، رقم الحدیث (۳۱۳)

② شرح معانی الآثار (۱/ ۶۸) من طریق بحر بن نصر قال: حدثنا يحيى بن سلام قال: ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ. امام ترمذی رضی اللہ عنہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو مؤثراً ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به" (سنن البيهقي: ۲/ ۶۶۰) بعد ازیں امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سری نمازوں میں قراءت فاتحہ خلف الامام کا اثر نقل فرمایا ہے۔ نیز دیکھیں: توضیح الکلام (۲/ ۷۱۷)

آخری دو رکعتیں:

حضرت مولانا انصاف پسندی کے دعوے کے باوجود بعض مقامات پر عریاں ہو گئے ہیں۔ طبیعت پر ضبط نہیں فرما سکے۔ مولانا نے یہ تو قبول فرمایا ہے کہ آخری دو رکعتوں میں خاموش رہنا حدیث سے تو ثابت نہیں، لیکن اس کے خلاف بھی کوئی صریح حدیث نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿فَاتْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ﴾ سے استنباط فرمایا۔ حضرت امام کے استنباط کی وضاحت مولانا نے مناسب نہیں سمجھی، اس لیے اس کے متعلق گزارش کرنا مشکل ہے، البتہ احادیث میں صراحت موجود ہے کہ فاتحہ سب رکعات میں ضروری ہے۔ امام بیہقی نے جزء القراءة میں مسیئۃ الصلاة کی حدیث کو کئی طرق سے روایت فرمایا ہے۔ اس میں فاتحہ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں صراحت فرمائی ہے:

«كذلك افعَل في صلاتك كلها» (ص: ۱۲)

”پوری نماز اسی طرح ادا کر“ (یعنی مع سورت فاتحہ)

آپ نے ترمذی (۴۴/۱) سے جو اثر حضرت جابر کا نقل فرمایا ہے، اس میں بھی یہ الفاظ مرقوم ہیں:

”يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن إلا وراء الإمام“

”جو شخص ایک رکعت بھی اُم القرآن کے بغیر پڑھے تو اس کی رکعت نہیں ہوگی

مگر امام کے پیچھے۔“

اس میں رکعت کی صراحت سے ظاہر ہوا کہ قراءت ہر رکعت میں ہے۔ آپ کو اپنے حلقوں میں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امام شافعی کا علم نصوص پر مبنی ہے۔ واقعی کوئی رکعت قراءت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔

① نیز دیکھیں: سنن أبي داود، رقم الحديث (۸۵۹)

② سنن الترمذی، رقم الحديث (۳۳)

زبان سے نیت:

جہاں تک خیال ہے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیت دل کا فعل ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ ائمہ اربعہ بیہشم اس پر متفق ہیں۔ جس التزام سے یہ فعل کیا جاتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عوام کو اس غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ یہ عجیب ہے کہ جناب جبلا کے فعل اور عمل کی خواہ خواہ ذمے داری اٹھاتے بلکہ وکالت فرماتے ہیں! رہا انسانی دھندوں کا معاملہ سو زبانی نیت اور جہر بالقراءة وغیرہ میں بھی اس سے مخلصی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ ایک بدعت کی اجازت دے رہے ہیں، اس سے پرہیز فرمائیے اور عوام کو ترغیب دیجیے وہ سنت پر عمل کریں۔ زبان کے لحاظ سے نیت کا تعلق جوارج سے نہیں۔

”خصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور“ (المصباح المنبر: ۲/۶۰۳)

”نیت کا لفظ عموماً دل کے عزم پر بولا جاتا ہے۔“

”نویت نية ونواة: عزم“ (نہذیب الصحاح: ۲/۶۰۳)

اوپر کے مسئلے میں علمی حلقوں سے عوام کی وکالت پر تعجب ہو رہا ہے، اس قسم کی وکالت عموماً بریلوی حضرات فرمایا کرتے تھے، آپ حضرات اسی سطح پر آگئے۔ ”حافظوا علی نیاتکم فی الصلاة“^① میں «إنما الأعمال بالنیات»^② سے کوئی خاص زیادت نہیں۔ نیت بہر حال عمل کے لیے ضروری ہے، اس وقت بھی عوام اسے نماز کے واجبات سے سمجھتے ہیں۔ ابن قیم کی نیابت آج بھی ضروری ہے۔^③

قربانی نماز سے پہلے:

حضرت العلام نے یہ مسئلہ اس انداز سے لکھا ہے، گویا حضرت مولانا معترضین کے

① المعجم الكبير للضبراني (۱۵۱/۹) یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ایک موقوف اثر ہے۔

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱) صحیح مسلم (۱۹۰۷)

③ دیکھیں: زاد المعاد (۱/۱۹۴)

سوتف سے قطعی بے خبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث گاؤں اور شہر دونوں میں عید واجب سمجھتے ہیں، انہیں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پر بھی اختلاف ہے، بلکہ قربانی کا اختلاف اس کی فرع ہے۔ حدیث:

« من ضحیٰ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نكحہ » (مسلم)

یعنی جس نے نماز عید کے پہلے قربانی کی، اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، جس نے نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی درست ہے۔

اس حدیث کے مخاطب اہل حدیث کے نزدیک شہری اور دیہاتی سب لوگ ہیں۔ اس میں احناف کے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے بہتر کوئی چیز نہیں ^۱۔ وہو کما تری لا تقوم به حجة، والتفصیل فی سر من رأی فی بحث الجمعة فی القری، للعلامة بقا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔

مفقود الطہر کی بیوی:

مفقود الطہر کے مسئلے میں قدامت احناف کو حائل اور ابن حزم جیسے ظاہری حضرات کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ حضرات بھی قریباً وہی فرماتے ہیں جو قدامت احناف نے فرمایا، اس میں قابل غور مسئلہ عورت کے حقوق اور جذبات ہیں۔ قرآن کا ارشاد ﴿وَلَا تُكْرَهُنَّ صِرَازًا لِّتَعْتَدْنَ﴾ [البقرة: ۲۳۱] نیز ایما میں چار ماہ سے زیادہ مرد کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن عزیز نے عورت کے حقوق اور جذبات کا پورا خیال

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۶۱)

② صحیح مورقوف، مصنف عبد الرزاق (۱۶۸ / ۳) مصنف ابن ابی نسیب (۴۳۹ / ۱) نیز دیکھیں: العلل للدارقطنی (۱۶۵ / ۴) فتح الباری (۴۵۷ / ۲) یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوتف اثر ہے اور قول صحابی شری حجت نہیں، جبکہ اس کے خلاف مرفوع احادیث سے دیہات وغیرہ میں نماز جمعہ کا ثبوت موجود ہے۔

رکھا ہے۔ محض علماء کی فقہی سوچوں کے پیش نظر اس بیماری کو صبر کی تلقین کر کے اسے احسان میں ڈالا گیا ہے۔ اگر تقلید میں جمود نہ ہوتا تو یقیناً یہ بے انصافی کبھی گوارا نہ کی جاتی۔ جناب نے جو آثار اپنے مذہب کی حمایت میں پیش فرمائے ہیں، وہ اس اصول کے خلاف ہیں جس کی راہنمائی قرآن عزیز نے فرمائی۔

پھر اس نوے سال کی تحدید کے لیے کوئی مرنوع صحیح روایت بھی سنت کے دفتروں میں موجود نہیں، صرف اکابر کی آرا ہیں۔ ”الحیلة الناجزة“ میں مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ ان کے رفقاء نے بڑا کرم فرمایا کہ پرانے جمود کو توڑ کر شوافع، موالک اور حنابلہ کی فقہیات سے بعض جزئیات کو قبول فرمایا، حالانکہ مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ سخت قسم کے جامد تھے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ جزاءہ اللہ أحسن الجزاء۔

اتباع سنت اور ترک تقلید کی دعوت کا اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں کہ یہ جمود ترک کر دیا جائے اور انسانی مصالح کو تقلیدی مصالح پر مقدم رکھا جائے۔ ”الحیلة الناجزة“ میں ان فتوؤں کے حاصل کرنے میں جو طریق اختیار فرمایا گیا، یعنی قرآن اور سنت کی نصوص کے مفہوم کو جسے مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کا خود بھی صحیح سمجھتے ہیں، اسے شوافع اور موالک کی تصدیق سے قبول کیا گیا۔ یہ جمود کی ناپسندیدہ مثال ہے۔

ہم نے بھی درس نظامی مشہور اساتذہ سے پڑھا ہے۔ قرآن وحدیث اتنا مشکل نہیں جس قدر آپ حضرات اسے سمجھ رہے ہیں، اس لیے مسائل کے اظہار میں حیل کو چھوڑیے اور ائمہ اربعہ کے ساتھ مساوی محبت رکھیے۔ متاخرین فقہانے مفتوحہ کے مسئلے میں اپنی رائے بدل لی۔ محققین احناف نے قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم پر اجرت کے متعلق بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر زمانے میں ضرورتاً ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ آج معلوم نہیں یہ جمود کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے؟

”الحیلة الناجزة“ میں دوسرے مذاہب سے استفادہ فرمایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مقلد بننے کے لیے کتنے مسائل میں تحقیق اور دوسرے مذاہب سے استفادہ

ضروری ہے؟ اگر مولانا کا ارشاد درست ہے کہ فقہاء نے فقہی مسائل اور نئے اجتہادات کا پوری دیانت داری سے جائزہ لیا تو یقیناً ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین نے بھی فقہ الحدیث کا استنباط پوری دیانتداری سے کیا ہے، لہذا ان کے متعلق بھی زبان درازی معیوب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مفقود الخمر کے باب میں حدیث لفظ کا ذکر فرمایا۔^۱ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت داعی اور حالات کا تقاضا ہو تو ایک سال کے بعد اسے عدت موت کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ اگر ایسا عمل میں آجائے تو امید ہے محترم مولانا اور مدیر "قاران" اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔

مضمون کے آغاز اور آخر میں مولانا نے جس صلح پسندانہ اور مخلصانہ جذبات کا اظہار فرمایا، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح مدیر "قاران" کی اصلاح کوشی کو بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ ان خیالات کا تذکرہ دروس، مجالس و عطا جمعہ کے خطبات اور عمومی خطابات میں ہونا چاہیے، تاکہ عوامی ذہن صاف ہو اور ان اختلافات کو محض دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی دیناً دوسرے کے خیالات سے متاثر ہو کر انہیں قبول کرے تو اسے نہ مستحق تعزیر سمجھا جائے نہ اس سے نفرت کی جائے۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، اب تک عصیت آپ حضرات ہی کی طرف سے آئی ہے۔

مسئلہ تعصب کی ایک مثال:

ایک مثال ملاحظہ فرمائیے:

"وقف علی أصحاب الحدیث، لا یدخل فیہ الشافعی إذا لم یکن فی طلب الحدیث، ویدخل الحنفی کان فی طلبہ أو لا" اھ
(الدر المختار، ص: ۶۶۵، طبع مصر)

یعنی اگر کسی شخص نے اصحاب الحدیث کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو تو شافعی اگر حدیث کا طالب علم نہ ہو تو اس وقف میں شامل نہیں ہوگا اور حنفی اس وقف میں

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۹۸۶)

شامل ہوگا، خواہ حدیث کا طالب علم ہو یا نہ ہو۔

اس کی دلیل یہ بتائی ہے:

”لکونہ یعمل بالمرسل، ویقدم خبر الواحد علی القیاس“

(حوالہ مذکورہ)

”اس لیے کہ وہ مرسل پر عمل کرتے ہیں اور خبر واحد کو قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں۔“

اس دلیل کی قدر و قیمت اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ مرسل کی قیمت بلحاظ حدیث کیا ہے؟ اور خبر واحد کے ساتھ علمائے اصول فقہ نے جو سلوک کیا ہے معلوم ہے، حالانکہ مسلک اہل حدیث، احناف اور شوافع دونوں سے مختلف ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”ذکر فی فتح القدیر أن الخوارج الذین یتحلون دعاء المسلمین وأموالهم ویکفرون الصحابة حکمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحدیث حکم البغاة؛ وذہب بعض أهل الحدیث إلی أنهم مرتدون. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحدیث علی تکفیرهم“ (شامی: ۴/۴۵۲)

یعنی ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ خوارج جو مسلمانوں کا قتل جائز سمجھیں اور صحابہ کو گالی دیں، جمہور فقہاء اور اہل حدیث کے نزدیک وہ باغی ہیں، بعض اہل حدیث نے انھیں مرتد کہا ہے۔ ابن منذر کہتے ہیں: باقی فقہاء اہل حدیث سے متفق نہیں ہیں۔

شامی کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک مستقل مکتب فکر ہے۔ کیا یہ تعصب نہیں کہ شوافع کو وقف سے الگ کر دیا گیا، حالانکہ شوافع کا شیعہ سنت کے ساتھ احناف سے زیادہ ہے؟

تعصب کی ایک اور بدبودار مثال:

تعصب کی ایک اور بدبودار مثال ملاحظہ فرمائیے:

”شرح العقائد النسفية“ کے حاشیہ ”نظم الفرائد“ میں مٹھی مولانا صاحب صاحب سنبھلی نے ائمہ سنت کے عقیدہ تفویض کا تذکرہ بواسطہ امام شوکانی فرمایا۔ پھر شدت غضب کی وجہ سے بدزبانی پر اتر آئے اور ائمہ تفویض کے متعلق بے حد غلیظ لہجہ اختیار فرمایا۔ آخر میں فرماتے ہیں:

”و خلفاء هذه الملة أربعة: ابن تيمية، و ابن القيم، والشوكاني فيقولون: ثلاثة، رابعهم كلبهم، وإذا انضم إليهم ابن حزم و داود الظاهري بأن صاروا ستة، ويقولون خصمة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، وخاتم المكلمين مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يشنع على أهل الحق في التنزيه“ الخ (ص: ۱۰۲)

یہاں ابن تیمیہ، ابن قیم، شوکانی، ابن حزم، داود ظاہری، نواب صدیق حسن خاں کے متعلق جس طرح بدزبانی کی ہے، اس کے ترجمہ کا بھی حوصلہ نہیں۔ یہ کوثری کی زبان آپ حضرات کی طرف سے آئی ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر (۱۳۰) کے حاشیہ میں اس سے بھی زیادہ بدزبانی کی گئی ہے۔ میرا تو تجربہ ہے جب تک دنیا میں تقلید شخصی موجود ہے، اہل علم کی آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آپ حافظ ابن العربی کی ”احکام القرآن“ ملاحظہ فرمائیے، خود ماکھی ہیں لیکن امام شافعی کا تذکرہ کس حقارت سے فرماتے ہیں۔ کتب اصول میں امام شافعی اور داود ظاہری کو جہل کی طرف منسوب کرنے میں تامل نہیں کیا گیا۔ (نور الانوار، ص: ۲۹۸)

تقلید میں محبت کا افراط اور غلو ضروری ہے اور اس کا اثر مخالف پر جو ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ حضرات غرباء اہل حدیث کا تعلق اور غلو اور مصنف ”عاشق حق“ کے بعض غیر متوازن اور مبالغہ آمیز فقرات کی تلقینی ناخوشگوار معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا پس منظر بھی اکثریت کا تشدد آمیز رویہ ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا حضرت شیخ مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عت الاعتراف کی اقدار میں نماز جمعہ ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علمائے احناف سے ان کے

① دیکھیں: احکام القرآن (۱/ ۳۶۰)

مراسم بڑے اچھے تھے، لیکن جب سید صاحب محترم حج کے لیے تشریف لے گئے تو حاجی امداد اللہ صاحب مرحوم، مولانا رحمت اللہ مرحوم اور مولانا خیر الدین مرحوم نے حرم بیت اللہ میں ان سے کیا معاملہ کیا؟ جامع الشواہد ایسی کتاب کے اتہامات مرحوم پر تھوپ کر گرفتار کر لیا، پھر تحقیق کے بعد مرحوم جب بری ثابت ہوئے تو معافی کا شاخسانہ کھڑا کر دیا۔ لدھیانہ کا ایک ذہین خاندان اس ہیزم کشی میں شریک رہا۔ مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالقادر، مولانا محمد؛ یہ سب حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان مظالم میں شریک تھے۔

آج بھی بریلوی حضرات کی غلط کاریوں سے اتنا شکوہ نہیں جس قدر امانت دیوبند سے ہے۔ پاکستان میں دیوبندی علماء سے ایک نوجوان اور نوآواز گروہ اور خود دیوبند سے جو لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے، نہ اکابر دیوبند کی عزت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے نہ اسے علم و دیانت کے معیار پر پرکھا جا سکتا ہے۔ ائمہ حدیث کے ساتھ انتہائی بغض کی جو اس لٹریچر سے آتی ہے۔ ائمہ حدیث اور فقہائے مذاہب کا اختلاف فہم کا اختلاف ہے، اس کو نفرت کا رنگ دینا، پھر اسے عوامی مجالس میں اس طرح رکھنا کہ اس کا فیصلہ عوام کریں، نہ ہی یہ فعل مستحسن ہے، نہ ہی اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہوگا۔

مدیر فاران کا یہ خیال درست ہے کہ حنفی ہو یا اہل حدیث، کوئی ان میں سے اسلام سے خارج نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو راہ میں نے اختیار کی ہے، اقرب الی اللہ ہے۔ ان مباحث میں زیادہ سے زیادہ یہی سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے۔

6

اہلحدیث کی اقتدا

جناب ابوالخیرات محمود احمد صاحب رضوی بریلوی رضا خوانی

کے جواب میں



”رضوان“ لاہور (مؤرخہ ۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء) کے ”نماز نمبر“ میں بعض اختلافی مسائل کا تذکرہ مزاحیہ انداز میں ”گل دھار“ کے عنوان سے کیا گیا۔ سنجیدہ مزاح بُری چیز نہیں، لیکن دینی مسائل میں یہ طریق کیوں اختیار کیا گیا ہے؟

”رضوان“ رضا خانی احناف کا ترجمان ہے۔ یہ حضرات فہم مسائل میں فقہ حنفی سے کہیں زیادہ اعتماد مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے طریق فکر پر رکھتے ہیں۔ فقہ حنفی کے ساتھ ان کا تعلق محض عوام کے ساتھ رابطے کی بنا پر ہے، ورنہ حضرت امام والا مقام کے علم و تفقہ سے انھیں چنداں دلچسپی نہیں۔ جہاں اجتہاد کی طغیانی کا یہ عالم ہو کہ عقائد کے اثبات میں قیاس سے کام لیا جاتا ہو، بلکہ نصوص قطعیہ کو نظر انداز کرنے میں بھی پرہیز نہ ہو، وہاں حضرت امام کے طریق فکر کی کیا وقعت ہے؟ جہاں اثبات عقائد میں غلیات سے لبریز اور اخبار آحاد جیسی واجب التعمیل نصوص میں بھی احتیاط کا دامن چھوٹنے نہ پایا ہے۔ رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ وعن سائر الأئمة المجتہدین والفقہاء والمحدثین الذین ہم قادة الدین۔ وہاں محتایس اور اوہام کی اس بے اعتدالی اور طغیانی کا پیوند کیونکر لگ سکتا ہے؟

اکلِ حلال میں جہاں اس قدر پابندی ہو کہ مقروض کی دیوار کے سائے سے استفادہ کرنے میں احتیاط پیش نظر رہی ہو، وہاں اس حنفیت کا جوڑ کیونکر لگے گا جس سے جمعرات کی صبح ہی سے مسجد کے در و دیوار پر ٹمٹکی بندھ جائے کہ حلال و حرام سے پیٹ کا دوزخ بھر لیا جائے۔ جہاں بھینس اور اس کی کٹیا کی بیماری پر غرس و میلاد کی نذریں ماننے کی تلقین ہوتی ہو، پیٹ کی پرہانی شبہ ہجر سے میلوں دراز ہو، امام ابو حنیفہ جیسے

بے طمع آدمی سے ان کا تعلق کہاں تک قائم رہ سکتا ہے؟ کہاں جیل کی صبر آزما موت، کہاں توالیوں کے طواف؟ لیکن چونکہ اہل حق پر طعن کے لیے فقہ حنفی کی آڑ لی گئی ہے اور فقہی فروع کو بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ارباب توحید ہمیں اس طریق گفتگو میں معذور تصور فرمائیں۔ مقصود اسی طریق فکر کی وضاحت ہے جسے اہل حدیث اور دوسرے ائمہ سلف نے ترجیح دی ہے، لیکن ادارہ ”رضوان“ نے اسے مذاق میں نالنے کی کوشش کی ہے، کسی پر طعن مقصود ہے نہ تنقیص۔

گفتگوئے عاشقان در باب رب
 جذبہ عشق است نے ترک ادب^۱

وہابی:

مذہب ”رضوان“ نے اہل حدیث اور اہل حق کے لیے وہابی کا لقب اختیار کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سب و شتم کا پورا دھارا خود بخود ہی کسی اور طرف پھر گیا ہے اور اہل حق اس بے ہودہ گوئی سے محفوظ ہو گئے۔ کما قال علیہ السلام والصلاة: «کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، یسبون مذمماً وأنا محمد»^۲

نی الجملہ نیبے تو کافی بود مرا
 بلبل ہمیں کہ قافیہ بود و بس است^۳

یہاں بحمد اللہ نہ کوئی وہابی ہے نہ نجدی، نہ حنفی ہے نہ سہروردی۔ ان وقتی اور اختراعی نسبتوں سے نہ محبت ہے نہ نفرت، نہ کسی سے عشق ہے نہ بغض۔ حقیقت اسی قدر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت سے وابستگی ہے۔ وہ بھی اس انداز سے کہ اس کے رد و قبول میں کسی غیر نبی کو کوئی معیاری اہلیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی طریق فکر ذہن پر محیط نہیں،

۱ خدا کے بارے میں عاشقوں کی گفتگو جذبہ عشق سے ہے نہ کہ ترک ادب سے۔

۲ صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۵۳۳) مسند أحمد (۲/۲۴۰)

۳ بالجملہ تمہاری میرے ساتھ اتنی نسبت ہی کافی ہے کہ قافیہ کے تحت بلبل آ گیا اور بس۔

جس کی پابندی کتاب و سنت کے فہم میں حائل ہو۔ آنحضرت ﷺ اور ان کے ارشادات گرامی سے تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کسی ایسے واسطے کی گنجائش نہیں، جسے فسق و تقویٰ یا کفر و اسلام کا معیار قرار دیا جائے۔ فکر و نظر، استنباط و استدلال کے لحاظ سے تمام ائمہ ہدیٰ اور اسلاف امت سے استفادہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، جس سے کبھی انکار نہیں ہوا۔ آج جس قدر علوم و معارف موجود ہیں، تمام ائمہ فقہ و حدیث کا فیضان ہے، جس کا شکر یہ ہم پر فرض ہے اور ہر وقت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاکباز اور مقدس بزرگوں کی قبروں کو رحمت سے بھر دے۔

مدیر رضوان نے بڑا کرم فرمایا کہ جس قدر کفر کا ذخیرہ ان کے دل میں موجود تھا، اسے ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ اہل سنت و الحدیث کی اقتدا سے روکنے پر کفایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتمان کفر کی جزا عنایت فرمائے، لیکن یہاں ان کے کفر سے گھبراہٹ نہیں، بلکہ ان کے مصنوعی ایمان سے ہے، کیونکہ بریلوی اور رضائی ایمان سے کفر شاید حقیقت ایمان ہے!!

مدیر رضوان کی حقیقت کا آغاز قریباً مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے ہوا اور ہمارے ایمان کا آغاز آنحضرت ﷺ، فدائہ ابی دؤامی، سے ہوا۔ اگر ایسے حضرات ہماری مساجد میں تشریف نہ لائیں تو ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی اور ہم سے حلف مؤکد لیجئے کہ ہم آپ کو اپنی اقتدا کے لیے کبھی دعوت نہیں دیں گے، اور شاید گزشتہ سالوں میں بھی کبھی نہ دی ہوگی۔ ہماری مساجد بجز اللہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کی اکثر مساجد سے زیادہ آباد ہیں۔ یہاں اہل توحید کی بجز اللہ اتنی کثرت ہے کہ حضرات اہل بدعت اور عباد القبور کی ضرورت ہی نہیں۔ یوں بھی اہل سنت جس طمانیت سے نماز ادا فرماتے ہیں، آپ کو ان کی اقتدا ویسے ہی گراں پڑے گی۔ اس لیے ہماری یہ رائے ہی نہیں، بلکہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کسی اہل سنت کی اقتدا نہ فرمائیں۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«لا يقبل الله لصاحب بدعة صرفا ولا عدلا»¹

یعنی بدعتی کے فرض اور نفل دونوں اللہ تعالیٰ منظور نہیں فرماتا۔

آپ ہی فرمائیے! ایک غیر مقبول نماز کی امامت سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ اس لیے آپ اگر اہل توحید کی اقتدا نہیں فرماتے تو اطمینان رکھیے، یہاں سے بھی کوئی پیغام نیچے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ع

پیش آں کس برو کہ خریدار تست²

دلائل:

البتہ ان دلائل کے متعلق گزارش کرنا، جن سے عوام کو مغالطہ ہو سکتا ہے، ہمارا فرض ہے۔ محترم رضوانی صاحب نے الہدیث کی اقتدا کے ناجائز ہونے میں پانچ مسائل کا تذکرہ کیا ہے:

① حضرت مجدد الوقت مجتہد العصر مولانا شیخ سید نواب صدیق حسن خاں صاحب کی کتاب "الروضۃ الندیۃ" کے کسی اردو ترجمہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

"پانی کتنا ہی کم ہو، نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جب تک رنگ یا مزہ یا بونہ بدلے۔"

فتویٰ سینے:

"سوچئے! یہ لوگ ایک لٹے پانی میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو اس کو پاک کہتے ہیں اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بتائیے! ہماری نماز ایسے پانی سے وضو کے ساتھ ہو سکتی ہے!"

اب ہماری گزارشات سینے:

- ① موضوع. سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۹) اس کی سند میں "محمد بن محسن العکاشی" راوی کذاب اور متعم ہے۔
- ② اس کے سامنے پیش کرو جو تمہارا خریدار ہے۔

① در رہیہ کے نام سے نواب صدیق حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں، البتہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نام کی ایک کتاب ہے جس کی نواب صاحب مرحوم نے شرح لکھی ہے۔

② ائمہ متفق ہیں کہ رنگ، بو، مزہ، اگر نجاست کی وجہ سے بدلے تو پانی پلید ہو جائے گا، پانی کم ہو یا زیادہ، بہر حال ایسا پانی پلید ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اگر پانی قلعین ہو یا اس سے زیادہ، اس میں اگر نجاست گرے تو جب تک اوصاف ثلاثہ: رنگ، بو، مزہ نہ بدلے پانی پاک ہوگا، کیونکہ یہ کثیر پانی ہے، نجاست کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر عشر در عشر ہو، یعنی وہ در وہ، وہ مائے جاری ہے یا مائے کثیر کے حکم میں ہے، اس میں نجاست کا اثر نہیں ہوگا۔ پانی پاک رہے گا، جب تک نجاست رنگ، بو، مزہ کو نہ بدل دے۔

امام مالک فرماتے ہیں: تھوڑے یا زیادہ پانی کی کوئی تید نہیں، اصل چیز اوصاف کا تغیر ہے۔ جب تک رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے، پانی کم ہو یا زیادہ، اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔^①

”قال محي السنة: التقدير لعشر في العشر لا يرجع إلى أصل

شرعي يعتمد عليه“ (شرح الوفاة: ۱/ ۸۷)

”محي السنہ فرماتے ہیں: وہ در وہ کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔“

مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”والتقدير الذي ذكره الحنفية في عدم سراية النجاسة إلى

العشر في العشر ليس له أصل شرعي بخلاف تقدير الشافعية

بالقلتين، فإنه ثابت بالحديث الصحيح، وكذا تقدير المالكية

بالتغير“ (عمدة الرعاية، ص: ۸۷)

① تفصیل کے لیے دیکھیں: سبل السلام للمصنعاني (۱/ ۱۷) نیل الأوطار (۱/ ۳۷)

”حنفیہ نے جو وہ درود کا اندازہ مائے کثیر کے لیے فرمایا ہے، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں، لیکن شافعیہ نے جو قلتین کا اندازہ فرمایا ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح موالک کا اندازہ تغیر اوصاف ثلاثہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔“

مولانا رضوی ”دہابیوں“ پر اس لیے ناراض ہیں کہ وہ پیشاب کے ایک قطرے سے پیالہ کو پلید نہیں سمجھتے۔ ایسے پانی سے اگر وضو کیا جائے تو رضائی حنفیوں کی نماز کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔

ادباً یہ گزارش ہے کہ اگر دو مشکوں میں ایک پیالہ پیشاب گر جائے تو جناب کی نماز کو تکلیف نہ ہوگی اور اقتدا گوارا فرمائی جائے گی۔ یعنی قلتین کی تحدید جناب کو منظور ہے تو پھر ”دہابیوں“ سے مصالحت کے لیے ایک مجلس بلائی جائے!؟

① اگر کوئی مالکی اپنے مذہب کے موافق پاک پانی سے وضو کرے تو رضائی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ ان کی نماز نہ ہونے پر بضد ہوں تو چاروں اماموں کی حقانیت کا کیا مطلب ہوگا؟

② جواز اقتدا میں کوئی عقیدہ تو حائل نہیں، صرف پانی ہی کی دقت ہے، تو اس کا ایک اور بھی حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی مسجد کے حوض یا سبیل سے وضو کر کے اگر وہابی امام بنے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جناب کے اس ارشاد کا مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں۔

③ جناب نے سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے وضو فرمایا، جس میں چوہا مر چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہم اپنے حجازی بھائیوں کے قول پر عمل کرتے ہیں۔^① کیا امام ابو یوسف وہابی تو نہیں تھے؟

حضرت مولانا عبدالحمی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قلتین کو صحیح فرمایا ہے، حالانکہ

① الفتاویٰ البزازیة (۲/ ۹) فتح القدیر (۱/ ۱۲۸) رد المحتار (۱/ ۱۸۹) حجة اللہ البالغة (ص: ۳۳۶)

اس کی اسناد میں جو بحث ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ احناف نے اس حدیث کے متعلق جو معنوی الجھن پیدا کی ہے وہ بھی معلوم ہے، پھر بھی مولانا عبدالحی مرحوم اسے صحیح فرماتے ہیں۔ اس لیے میں انتظار کروں گا کہ اس اضطراب کو آپ ہی دور کریں! امام شوکانی اور سید صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہما کا رجحان واقعی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف ہے۔ وہ پانی کی مقدار کو نجاست اور طہارت میں اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ اس کا انحصار کیفیت ہی پر فرماتے ہیں۔ پانی کم ہو یا زیادہ، رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو اسے پلید سمجھتے ہیں، ورنہ ان کی نظر میں وہ پانی پاک ہے اور ان کی دلیل نص حدیث ہے:

«الماء طهور لا ینجسه شیء إلا ما غلب علی طعمه أو ریحہ أو لونه»^①

إلا کے بعد جو زیادت ہے بافتاقی محدثین ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید اجماع ائمہ سے ہے۔^②

اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور نواب صدیق حسن خاں کی تائید میں نص صریح صحیح بھی اور اجماع بھی ہے۔ پانی کی طہارت صریح اور صحیح نص سے ثابت ہے اور زیادت کی تائید اجماع سے۔ رضائی حضرات شاید نہ جانتے ہوں!؟

❖ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، حدیث «الماء طهور لا ینجسه شیء»^① بروایت

① ضعیف. سنن ابن ماجہ (۵۲۱) سنن الدارقطنی (۱/۱۱) سنن البیہقی (۱/۲۹۵) اس حدیث کی سند میں "رشد بن سعد" راوی ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: التلخیص الحبیر (۱/۱۵) الللة الضعیفة (۲۶۴۴) البتہ امام تہامی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "والحدیث غیر قوی إلا أنا لا نعلم فی نجاسة الماء إذا تغیر بالنجاسة خلافاً، واللہ اعلم"

② دیکھیں: الإجماع للإمام ابن المنذر رحمہ اللہ (ص: ۲۳)

① صحیح. سنن أبی داود، رقم الحدیث (۶۶) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۶۶) سنن

النسائی، رقم الحدیث (۳۲۶) مسند أحمد (۳/۳۶)

ابوسعید خدری ابو داؤد، احمد، ترمذی میں موجود ہے۔

امام ترمذی اسے حسن فرماتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔ امام احمد کی روایت میں ہے:

”إنه يستقى لك من بشر بضاعة“^①

یعنی آنحضرت ﷺ خود بھی بشر بضاعہ کا پانی استعمال فرماتے تھے۔

شافعی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم اور بیہقی نے اسے صحیح فرمایا۔ یحییٰ بن معین، ابن حزم اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح فرمائی۔

ابن قطن نے اس کے بعض طرق پر کلام کرنے کے بعد فرمایا:

”وله طريق أحسن من هذا“ (یہ حدیث احسن طریق سے بھی مروی ہے)

ابن مندہ فرماتے ہیں: اس کی سند مشہور ہے۔ ابوسعید خدری کے علاوہ یہ حدیث حضرت جابر، ابن عباس، سہل بن سعد، حضرت عائشہ اور حضرت ثوبان سے بھی

مروی ہے۔^② اگر نواب صدیق حسن خاں نے صحیح احادیث اور اجماع کی بنا پر یہ مسلک اختیار فرمایا ہے تو آپ نے اقتدا ہی کی نفی فرمادی۔ اگر اب بریلوی حضرات نے

نواب صاحب کی اقتدا چھوڑ دی تو بے چارے نواب صاحب کیا کریں؟

❖ اور یہ قصہ صرف نواب صاحب رضی اللہ عنہ اور وہابیوں ہی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ائمہ سلف

کی ایک مقتدر جماعت کا یہی مسلک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”والحدیث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه،

سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه أو بعضها، لكنه

قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة

خرج عن الطهورة، فكان الاحتجاج به، لا بتلك الزيادة كما

① مسند أحمد (۸۶/۳) منن الدارقطني (۳۱/۱)

② تفصیل کے لیے دیکھیں: التلخیص الحییر (۱۳/۱) عون المعبود (۸۹/۱) إروا، الغلیل (۵۵/۱)

سلف، فلا بنجس الماء بما لاقاه، ولو كان قليلا، إلا إذا تغير، وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، والحسن البصري، وابن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وداود الظاهري، والنخعي، و جابر بن زيد، و مالك، والغزالي“ (نیل الاوطار: ۱/ ۱۰۶)

”حدیث سے ظاہر ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ، کسی چیز کے گرنے سے پلید نہیں ہوتا، گو اس کے اوصاف بھی بدل جائیں، لیکن اجماع سے ثابت ہے کہ تمام یا بعض صفات کے بدلنے سے پانی پلید ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس میں کوئی پلید چیز گرے۔ پس یہ استدلال اجماع سے ہے، حدیث کی زیادت سے نہیں۔ پس پانی پلید نہیں ہوگا، جب تک اس کے یہ من اوصاف نہ بدل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حسن بصری، ابن مسیب، عکرمہ، ابن ابی لیلیٰ، امام سفیان ثوری، داود ظاہری، امام نخعی، جابر بن زید، امام مالک اور امام غزالی کا بھی یہی مذہب ہے۔“

محترم رضوی صاحب کو اگر فاتحہ، میلاد شریف یا عرس اور دیگر اسباب شکم پروری سے کبھی فرصت ملے تو غور فرمائیں! حدیث صحیح، اجماع امت اور ائمہ سنت کی ایک بڑی تعداد نواب صدیق حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہابیوں کے ساتھ ہے۔ فرمائیے! ان بزرگوں کی افتدا بھی درست ہے یا نہیں؟

⑤ محترم رضوی صاحب! اجتہادی مسائل میں کسی کے مسلک کا اختیار کرنا یا ترجیح دوسری چیز ہے اور مخالف مسلک کی تکفیر یا افتدا کا عدم جواز بالکل دوسری چیز ہے۔ یقیناً تھوڑے پانی کی نجاست کے بھی بہت سے ائمہ قائل ہیں۔ پھر مانے قلیل کی تحدید میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، جس میں فیصلہ کرنا تقلید کی بنا پر تو شاید ممکن ہو جائے، مگر دلیل کی بنا پر سخت مشکل ہے۔

”وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال، ليس عليها أئمة من العلم“ (نیل الاوطار: ۱/ ۲۷)

”ذلیل اور کثیر پانی کی مقدار میں لوگوں کے بہت اقوال ہیں، جن کی کوئی ذلیل نہیں۔“

جب ان تحدیدات کی تائید کتاب و سنت کی کسی نص صریح سے نہیں ہوتی تو پھر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ سوچیں نجس پانی کا استعمال حرام ہوگا۔ کسی پانی کو پلید ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایسے دلائل کی ضرورت ہوگی جو حرمت و حلت کے اثبات میں کامیاب ہو سکیں۔ ایسے اولہ جو ائمہ اجتہاد میں محل اختلاف ہیں، ان کے مفہوم میں اختلاف، طریق ثبوت میں اختلاف، تعین مقاصد میں اختلاف؛ ان منظون فرقدہ دارانہ دلائل کی بنا پر آپ حرمت اقتدا کا فتویٰ کس جرأت سے دے رہے ہیں؟ یہ نہ علم کی شان ہے نہ دیانت کا تقاضا، اس کی غایت صرف اسی قدر ہو سکتی ہے کہ جس پانی کو آپ پلید سمجھتے ہیں، اسے مت استعمال فرمائیے۔ پوری احتیاط سے اپنے مسلک کی پابندی فرمائیے، لیکن نہ آپ کسی دوسرے کو مجبور فرما سکتے ہیں نہ اس پر کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں۔

شوافع، موالک اور حنابلہ کا مقام اپنے ائمہ کے ساتھ احناف سے کم نہیں۔ عقیدہ، طریق فکر، صحت مسلک کے متعلق یقین بالکل مساوی ہے۔ اگر وہ بھی جی روش اختیار کریں جو آپ نے اختیار فرمائی ہے تو ملت میں تفریق کی ایسی راہ کھلے گی کہ غیر مقلد آپ کا مسحکہ اڑائیں گے، عقل و دانش کی محفلوں میں آپ کے لیے کوئی مقام نہ ہوگا۔ پہلے ہی سے آپ کا فرقہ تنگی نظر اور فقدانہ نظر میں ضرب المثل ہے۔ پابندی رسوم، حلوسے اور چائے کی تلاش میں کافی بدنام ہے، مزید تفریق بین المسلمین کی ذمے داری لینے سے پرہیز فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم صحیح کی توفیق دے!

﴿مناسب ہوگا کہ آپ کے مسلک کی بھی چھان بچک کر لی جائے۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پہلے آپ کے شیش محل کا امتحان ہو جائے کہ وہ کہاں تک مضبوط ہے جس کے سہارے پر دوسروں کی اقتدا حرام فرمائی جا رہی ہے؟ وہ سہارا سہارا

ہے بھی یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ احناف کا مسلک پانی کے متعلق نہ روایات درست ہے نہ درایا، نہ نصوص اس کی مؤید ہیں نہ عقل۔ یہ مسلک محض عوام کی عقیدت مندانہ حمایت سے چل رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو اپنے مخالفین پر فتویٰ دینے کی جرأت کیسے ہوتی ہے؟

مائے کثیر کی تعین عشر فی احشر یعنی وہ در وہ کا اندازہ بالکل بے ثبوت ہے۔ متاخرین حنفیہ نے یہ اندازہ گھڑ لیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شارح وقایہ نے اسے ثابت کرنے میں جس قدر زور صرف کیا ہے، اس کا اصل مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر جناب نے اسے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی تو تفصیلاً عرض کیا جائے گا۔

معی السنۃ کا قول پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ صاحب در المختار (ص: ۱۶) بھی امام محی السنۃ سے اس باب میں منتفق ہیں کہ یہ تحدید ثابت نہیں، بلکہ امام الائمہ حضرت امام ابوحنیفہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ مائے کثیر، مائے جاری، غدیر وغیرہ کے متعلق ائمہ احناف میں کس قدر اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا: جاری پانی وہ ہے جو ٹنکوں کو بہا کر لے جائے۔ بعض نے فرمایا: جس میں ٹنکار نہ ہو۔ اسی طرح غدیر (تالاب) کے متعلق ارشاد ہے، جس کو ایک طرف سے اگر حرکت دی جائے تو دوسری طرف سے نہ بٹے، لیکن حرکت غسل سے ہو یا ہاتھ سے یا وضو سے؟ اس میں حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف سے مختلف روایات ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ مسئلہ منصوص نہیں، بلکہ اجتہاد و تفرقہ کی پیداوار ہے۔

اسی طرح وہ در وہ کا مسئلہ بھی متاخرین نے پیدا کر دیا۔ مولوی رضوی خود ہی سوچیں کہ اس قسم کے فقہی اختلافات کی بنا پر اقتدا سے روکنے کا فتویٰ دانشمندی نہیں، بلکہ جس طرح ائمہ نے ان مسائل میں اختلاف کا حق دیا ہے اور شریعت میں اپنے اجتہادات کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں فرمائی، اب بھی تنگی نہ فرمائی جائے، بلکہ اپنے مسلک اور تحقیق کی پابندی کے بعد دوسرے فقہی اختلافات میں رواداری برتی جائے۔ بریلوی

حضرات تو سارے ہی تقریباً کم ظرف ہیں۔ دیوبندی حضرات میں اس قسم کی کم ظرفی مولانا تھانوی اور مولانا انور شاہ بریلوی کے حصے میں آئی تھی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا مسلک اس باب میں زیادہ صاف اور واضح ہے۔ رحمہ اللہ ورضی عنہ۔

غالباً آپ حضرات اس کی تو اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص امام ابو یوسف یا امام محمد کے مسلک کی پابندی کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اقتدا بھی درست ہی ہوگی۔ اسی طرح امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بھی طہارت میں اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کریں یا امامت فرمائیں تو ان کی نمازوں کو بھی آپ آسمان تک پہنچانے کی فرشتوں کو اجازت دیں گے۔ اگر آپ اتنی لچک پیدا کریں تو وہابیوں کی فکر مت کریں، وہ آپ کے ان وسائل سے بے نیاز ہیں، ان کا معاملہ براہ راست خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا اور ان کا امام شفاعت کے وقت ان کو ان شاء اللہ نہیں بھولے گا۔ اللھم صل علی محمد وبارک وسلم۔

⑤ طہارت کے مسئلے میں کنوئیں اور تالاب کا فرق بھی عجیب ہے۔ گویا یہاں پہنچ کر پانی کی مقدار سے ظرف کی ہیئت کو پاکیزگی اور نجاست میں زیادہ دخل ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک کنویں میں اتنا پانی ہے جس سے کئی تالاب وہ در وہ بھر سکتے ہیں، لیکن جب یہ پانی تالاب میں ہو تو کوئی پلیدی اس میں اثر نہیں کر سکتی، لیکن یہ تمام اور اس سے کئی زیادہ پانی کسی گہرے اور وسیع کنوئیں میں آجائے تو وہ چند تولے نجاست کا بھی متحمل نہ ہوگا، گویا گول برتن چوکور یا مستطیل برتن سے جلدی پلیدی ہو سکتا ہے۔

صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ومسائل البشر مبنیة علی اتباع الآثار دون القیاس“

(هدایة أولین، ص: ۲۰)

”کنوئیں کی نجاست میں قیاس کو دخل نہیں، یہ مسائل سماعی ہیں۔“

پاک اور پلید کا مسئلہ حلال و حرام کے قریب قریب آیا، اس میں محض آثار صحابہ کفایت کر سکتے ہیں اور ان کی بنا پر حرمتِ اقتدا کا فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ان اہم مسائل کے متعلق آنحضرت ﷺ سے کچھ بھی مروی نہ ہو؟ سارا معاملہ صحابہ پر چھوڑ دیا جائے جو حسب عقیدہ اہل سنت معصوم نہیں ہیں؟ اور پھر آپ ہیں کہ بے سوچے سمجھے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں! ع

ما ھکذا یا سعد نورد الإبل

پھر ان آثار کی اسانید پر بھی کبھی آپ نے غور فرمایا؟ شاید ہی ان میں کوئی سند صحیح طور پر صاحبِ روایت تک پہنچ سکے۔ بشرطِ صحت ان آثار کا مفاد زیادہ سے زیادہ تنزیہ ہو سکتا ہے، ان کی بنا پر کوئی تشریحی حکم نہیں دیا جاسکتا، لیکن آپ کے ہاں اکتفا و تکفیر اور اقتدا پر پابندیاں ایک دل لگی ہے اور دل خوش کن مشغلہ

والکفر عندکم رخیص معرہ حصوا بلا کیل ولا میزان

میری گزارش اس قدر ہے کہ یہ فتویٰ بازی ان دلائل کی بنا پر دیا جاتا بھی مناسب نہیں اور آپ کی پارٹی علمی طور پر بھی اس کی اہل نہیں کہ ایسے اہم اور ذمے دار مسائل میں جسارت کر سکے۔ آپ حضرات کے لیے اعراس، موالید، استقاط، ختم، ساتواں، چالیسواں، جمعرات جیسے مفید مشاغل کیا کم ہیں؟ آپ خواہ مخواہ ایک علمی ذمے داری کے لیے میدان میں تشریف لے آتے ہیں!!

⑤ کنوئیں کی پاکیزگی، ڈولوں کی مقدار اور تعداد میں جو تفاوت رکھا گیا ہے، وہ بھی محض آثار ہی ہیں۔ کتاب اللہ یا سنتِ صحیحہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک کنوئیں میں چڑیا یا چوہا یا مولا وغیرہ گر جائیں تو آپ کے ہاں میں ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہوگا، خاموشی سے تھلیداً مان لینا تو اور بات ہے، ذرا سوچئے!

① اے سعد! اس طرح تو اونٹوں کو ہانکا نہیں جاتا!

② تمہارے ہاں کفر انتہائی رخص ہے، بغیر ماپے اور تولے اسے پھینکو۔

انہیں ڈول نکلنے تک تو کنواں بالکل ناپاک ہوگا، بیسواں ڈول ساری پلیدی لے کر باہر آ جائے گا، اور آپ یقین کریں گے اور مطمئن ہوں گے کہ اب کنواں بالکل پاک ہے، لیکن اس بیسویں ڈول سے جو پلیدی کا بقیہ لے کر آ رہا ہے، جس قدر قطرے کنوئیں میں گریں گے، کنواں پھر سے پلید نہ ہوگا؟

دراصل ان تمام آثار کی بنیاد نزاہت اور طبعی کراہت پر ہے۔ آپ نے اسے تشریحی حکم قرار دے کر پانی کے چند قطروں سے پاک اور پلید کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چہ عجب!!

اتنی کمزور عمارت اور بودے دلائل کے ہوتے ہوئے آپ اہلحدیث اور ممالک پر حملہ آور ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مسلک استدلال کے لحاظ سے کافی مضبوط ہے۔ یہ مسئلہ کس قدر صاف اور محقول ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ، کنوئیں میں ہو یا تالاب میں، تالاب دہ در دہ ہو یا چھوٹا، اس میں نجاست گرے اور اس کے بعض یا کل اوصاف یعنی رنگ اور مزہ اور بو کو بدل دے تو پانی پلید ہو جائے گا اور اس میں اگر مزید اتنا پانی داخل کیا جائے جس سے یہ اوصاف درست ہو جائیں، یعنی رنگ، بو اور مزہ درست ہو جائے یا اس نجاست کی مقدار کو اتنا کم کیا جائے کہ اس کا بظاہر کوئی اثر نہ رہے تو پانی پاک ہوگا۔ اتنے صاف مسئلے پر آپ ان اوجھے ہتھیاروں سے حملہ آور ہوتے ہیں!

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

یوں برادرانہ طور پر صلح صفائی سے مساجد کی امامت کا ٹکڑا آپ کے سپرد کر دیا جائے، مردہ شوئی، فاتحہ خوانی، استطاق، چالیسواں وغیرہ کا ٹھیکہ آپ لے لیں تو یہ دوسری بات ہے، مگر آپ اپنے دل کی تقدیس کے متعلق یقین دلا دیں کہ اس میں شرک و بدعت کی نجاست نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان شاء اللہ امامت

آپ کے سپرد کر دیں گے، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ ان حالات میں یہ امامت پیٹ پوجا کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔

پانی کے مسئلے میں میں نے مختصراً چند گزارشات کر دی ہیں۔ ومن استزاد فلدینا مزیداً

شراب کی طہارت!

② مولانا رضوی، مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم پر اس لیے ناراض ہیں کہ نواب صاحب مغفور شراب کی نجاست کے قائل نہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے جسے اہل حدیث کی اقتدا کے ناجائز ہونے کے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ میرا ذاتی رجحان بھی اسی طرف ہے کہ شراب نجس ہے اور حنابلہ اور احناف کا مسلک اس میں صحیح ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے، اس کے لیے نص کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب مرحوم کو اس پر اصرار نہیں، وہ بھی بین دلیل چاہتے ہیں جو بوقت تعارض ترجیح کا موجب بن سکے۔ فرماتے ہیں:

”وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع، ولا

يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية“ (الروضة الندية، ص: ۱۲)

”منصف مزاج آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں حجت شرعی

کے سوا اپنے موقف سے نہ ہٹے۔“

اس لیے بہتر ہوگا کہ رضوی صاحب شراب کی نجاست پر کوئی نص لائیں، جیسے شراب کی حرمت پر نص موجود ہے۔ مناسب ہوگا کہ فتوؤں پر زور ڈالنے سے زیادہ زور دلائل پر دیا جائے۔ ہمارے بریلوی دوستوں میں یہ بنیادی کمزوری ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ جذبات سے خطاب فرماتے ہیں اور فتوؤں پر زیادہ زور ڈالتے ہیں، اور معتول آدمی کے لیے یہ دونوں حربے بے کار ہیں۔

نواب صاحب مرحوم شراب کو پاک نہیں سمجھتے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ متفق ہیں

کہ شراب نجس ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة: ۹۰]

”شراب، جو اور بت سب پلید ہیں اور شیطانی عمل۔“

آلاتِ قمار اور انصاب پلید ہونے کے باوجود ان کو چھونے سے نہ جسم پلید ہوتا ہے، نہ کپڑے، بلکہ ان کی نجاست حکمی ہے، حسی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمَشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة: ۲۸]

”مشرک نجس ہیں، اس لیے (وہ بلا اجازت) مسجد حرام میں نہ آئیں۔“

قرآن مجید کا یہ حکم تمام مشرکین کے لیے عام ہے کہ وہ نجس اور پلید ہیں، ہند کے مشرک ہوں یا پاکستان کے، عرب کے ہوں یا عجم کے، لیکن معلوم ہے کہ ان کے چھونے سے نہ کپڑے پلید ہوتے ہیں نہ جسم۔ نواب صاحب مرحوم فرماتے ہیں:

”وهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد

إنما هو بالنجاسة الحسية“ (الروضة، ص: ۱۲)

”یہ حکمی نجاست ہے، حسی نہیں، اور عبادت میں پرہیز حسی نجاست سے ہے۔“

وہ تہیف مسجد نبوی میں آیا، لیکن آنحضرت ﷺ نے مسجد ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بیت اللہ میں مشرک آتے جاتے رہے، آنحضرت ﷺ نے رکاوٹ نہیں فرمائی، کیونکہ یہ نجاست حکمی تھی، حسی نہ تھی۔ آنحضرت نے مشرکین کا پانی استعمال فرمایا۔^۱ قرآن حکیم میں محرمات الزکاح کا مفصل تذکرہ موجود ہے، لیکن ان رشتوں میں کوئی بھی پلید نہیں۔ حرمت دوسری چیز ہے اور نجاست دوسری چیز۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میری وجدانی کیفیت یہ ہے کہ میں اس مسئلے میں احناف کے مسلک کو صحیح سمجھوں، لیکن نواب صاحب مرحوم اور امام شوکانی رحمہ اللہ کی گرفت بھی معمولی نہیں۔ فتفکر ولا تکن من الغافلین!

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۳۷۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۸۲)

ان کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو حسی نجس ثابت کرنے کے لیے دلیل لائیے۔ سونا، چاندی، ریشم مردوں پر حرام ہیں، لیکن ان کے چھونے سے جسم پلید نہیں ہوتا نہ نماز میں غلغلہ واقع ہوتا ہے۔ تمام زہر کچلہ، سم الفار وغیرہ حرام ہیں۔ نجس نہیں، اسی طرح خندرات حرام ہیں، پلید نہیں۔ نواب صاحب شراب کو حرام بھی سمجھتے ہیں اور پلید بھی، لیکن اس کی نجاست کو حسی نہیں سمجھتے۔ یہ ایسا جرم نہیں جس پر آپ حضرات خنقل فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی فرما سکتے ہیں کہ مرحوم نے ٹھیک نہیں سمجھا اور یہ بھی اس وقت جب نین دلیل مل جائے۔

مولانا! نواب صاحب کا یہ حال ہے کہ نہ وہ شراب کے ساتھ علاج جائز سمجھتے ہیں اور نہ شراب میں گوشت پکانا ان کے ہاں درست ہے، لیکن خفیہ بھشم کے ہاں چار قسم کی شراب حرام ہے اور چار قسم کی حلال:

”والحلال منها أربعة أنواع: نبيذ القرم، و الزبيب إن طبخ أدنى طبخة يحل شربه، وإن اشتد، وهذا إذا شرب منه بلا لهو وطرب ما لم يسكر، والثاني: الخليلطان، الثالثة: نبيذ العسل والتين، والبر، والشعيرة طبخ أولاً، والرابع: المثلث“

(الدر المختار، ص: ۴۳۸ نولکشور)

”چار قسم کی شراب حلال ہے، کھجور اور متقی کا نبیذ جب اسے تھوڑا سا پکایا جائے، دوسرا مخلوط نبیذ، تیسرا شہد اور انجیر وغیرہ کا نبیذ اور چوتھا مثلث انگور کا شیر و جس کا دو تہائی جل چکا ہو، یہ سب قسمیں حلال ہیں، بشرطیکہ قوت کی نیت سے استعمال کی جائیں، لہو و لوب کا ارادہ نہ ہو۔“

جب خنقی مذہب میں اتنی وسعت ہے کہ نیک نیتی سے بقدر ضرورت پی بھی جائے تو حرج نہ ہو، اور وہابیوں پر صرف طہارت مع الحرمت کی بنا پر اتنا سنگین فتویٰ دینا کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ ”فر من المطر و قام تحت المیزاب“ کا معاملہ ہوگا۔
 ① بارش سے بھاگا اور پتالے کے نیچے جا کھڑا ہوا۔

اے رحمتِ تمام میری ہر خطا معاف
تیرے عفو کی امید پہ تھرا کے پی گیا

میرا مقصد ان گزارشات سے الزام ہے نہ عیب چینی، مقصد یہ ہے کہ فقہیات میں ایسی جزئیات آسکتی ہیں جن کی وجوہات بھی اہل علم کے پاس ہوتی ہیں۔ غلط ہوں یا صحیح، فریق مخالف اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن ان جزئیات سے جذباتی طور پر عوام کو انگیز کرنا علم کی شان نہیں!

کون نہیں جانتا کہ شراب کے استعمال میں جس قدر وسعت احناف کے مسلک میں ہے دوسرے ائمہ کے مسلک میں نہیں۔ سنن نسائی کے آخری ابواب پڑھیے اور سوچیے کہ اہل علم نے اس ام الخبائث کے استعمال میں کس قدر کمزوریاں دکھائی ہیں، جس کی پیشگوئی آنحضرت ﷺ نے فرمائی ہے؟ اور سب سے زیادہ محتاط مسلک اس میں اہل سنت والجماعت کا ہے، پھر صرف طہارت پر طعن بازی کیوں کی جائے؟ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ نواب صاحب اور امام شوکانی کی تحقیق تمام اہلحدیث کے نزدیک مسلم ہو۔ آپ کے ہاں جو مقام حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تہمیت کو حاصل ہے ہمارے ہاں نواب صاحب اور ان کی تصانیف کو وہ مقام حاصل نہیں۔ ہم نواب صاحب اور امام شوکانی سے کئی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے ادباً گزارش ہے کہ اسے جماعتی سوال نہ بنایا جائے!

شراب کے مسئلے میں غالباً لفظ نبیذ کی وضاحت میں وقت ضائع نہیں فرمایا جائے گا۔ غلیان اور اشمداد کے بعد خمار عقل تو ضرور ہوگا، آپ اسے نبیذ حمر فرمائیے، مجھے خمر النبیذ کہنے کی اجازت دیجیے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی: «بسمونہا بغیر اسمہا» (نسائی) تو درست اور حق ہے۔ الفاظ کی ہیرا پھیری کا حقیقت پر کوئی اثر

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۲۶۸)

② صحیح۔ سنن أبی داؤد (۳۶۸۸) سنن النسائی (۵۶۵۸) سنن ابن ماجہ (۴۰۲۰)

نہیں ہوتا، علماء نے اسے شراب ہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: طبقات الحنابلہ
لابی یعلیٰ (ص: ۱۱۳) امام خلف بن ہشام بن ثعلب (۳۲۹ھ) فرماتے ہیں:

”أعدت صلاة أربعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على
مذهب الكوفيين“ اھ

”میں نے چالیس سال کی نماز کا اعادہ کیا، کیونکہ میں اصحاب کوفہ کے
مسک کے مطابق شراب پیتا رہا۔“

جمہور صحابہ اور تابعین کا مسک یہ ہے کہ ہرست کرنے والی چیز، تھوڑی ہو یا
زیادہ، حرام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اس کی مؤید ہے۔ امام
محمد اور مشائخ سے ایک گروہ نے بھی یہی مسک پسند فرمایا ہے۔ امام شافعی، نخعی اور امام
ابو حنیفہ سے ایک دوسرا مسک بھی منقول ہے کہ انہوں نے کھجور کے سوا گیہوں کی شراب
درست ہے، بشرطیکہ حد سے نہ پیئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

« كل مسكر خمر »^①

نیز فرمایا:

« ما مسكر كثيره فقليله حرام »^②

”جو مسک کرے وہ خمر ہے۔ مسک چیز کم ہو یا زیادہ حرام ہے۔“

اس لیے پہلا مسک صحیح اور دوسرا مسک اجتہادی غلطی پر مبنی ہے۔ جب احناف
میں شراب کے متعلق اتنا نرم رویہ اختیار فرمایا گیا ہے تو نواب صاحب اور بے چارے
اہل حدیثوں پر صرف پاک اور حرام کہنے پر کیوں خفگی فرمائی جا رہی ہے؟

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۰۰۳)

② صحیح۔ سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۳۶۸۱) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۸۶۵)

سنن النسائی، رقم الحدیث (۵۶۰۷) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۳۳۹۳)

قصہ پارینہ نوکِ قلم پر آ گیا ہے، اجازت دیجیے کہ بحث اور نکھر جائے، تاکہ جناب سنجیدگی سے غور فرما سکیں اور نواب صاحب اور اہل حدیث کی قرار دادِ جرم بھی منظرِ عام پر آ جائے، تاکہ اربابِ دانش سوچ سکیں کہ معاملہ کہاں تک سٹین ہے؟ کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف ”شیر آیا“ تک ہی ساری داستان ختم ہو جاتی ہے!

قاضی خاں (۱/۱۱) فرماتے ہیں:

”ذکر الناطفی عن محمد: إذا صلی علی جلد کلب أو ذنب
قد ذبح، جازت صلاته“ الخ

”امام محمد فرماتے ہیں: اگر کتاب یا بھیڑ یا ذبح کیا جائے تو اس کے چمڑے پر نماز جائز ہے۔“

”أما إذا ذبح بالتسمية، وصلی مع لحمه أو جلده قبل الدباغة
يجوز“

”جب کتاب وغیرہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے، اس کے گوشت یا اس کے چمڑے پر نماز پڑھی جائے رنگنے سے پہلے، تو یہ جائز ہے۔“

معلوم ہے درندے حرام ہیں۔ حرمت کے باوجود یہ بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیے جائیں تو ان کا گوشت اپنے پاس رکھ کر ان کے چمڑے پر نماز ہو جائے گی!

مولانا ایہ بالکل وہی چیز ہے جو نواب صاحب فرما رہے ہیں، شراب حرام ہے لیکن پاک۔ یہاں گوشت اور چمڑا دونوں حرام ہیں مگر ذبح سے پاک ہو گئے ہیں۔ فرمائیے! آپ میں اور نواب صاحب میں کیا فرق ہے؟ نواب صاحب بے چارے صرف پاک کہہ رہے ہیں، لیکن جناب کے ہاں نیز مسکر پی کر کتے کا گوشت جیب میں رکھ کر اور اس کے چمڑے کا مصلیٰ (دباغت سے پہلے) پاؤں کے نیچے بچھا کر نماز پڑھنی جائز ہے، مگر پھر بھی کافر وہابی ہی ہیں۔ انا للہ!

جو کچھ عرض کیا گیا ہے، وہ عادت کے خلاف ہے۔ میں ان اجتہادی لغزشوں کی نمائش کا عادی نہیں، مگر آپ کا فتویٰ بے حد دلخراش تھا، اس لیے بادلِ نخواستہ حقیقتِ حال سے پردہ اٹھانا پڑا۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

آپ غور فرمائیں! اصولاً آپ میں اور نواب صاحب رحمہ اللہ میں کوئی فرق نہیں، صرف کتے اور شراب کا فرق ہے۔ اصولی اتحاد کے بعد جزوی اختلاف کی بنا پر اس قدر تیزی اہل علم کے لیے مناسب نہیں۔

پھر جو کچھ نواب صاحب نے فرمایا، یہ پوری جماعتِ اہل حدیث کا مسلک نہیں۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شراب کو احناف اور حنابلہ کی طرح نجاستِ مغالطہ سمجھتے ہیں۔ صریح دلائل کے فقدان کے باوجود میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے۔ اس لیے مناسب ہو گا کہ آپ بوقتِ ضرورت وہابی امام سے دریافت فرمائیں کہ وہ ام النجاست کو پاک تو نہیں سمجھتے؟ اور وہ بھی اگر آپ کی طرح متعصب ہو تو دریافت کرے کہ جناب نے کچھ زیادہ تو نہیں پی اور مصلیٰ بھی ذبیحہِ عمرہ سے نہیں بنوایا گیا؟

ہمارا مسلک آپ سے بالکل الگ ہے۔ ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حنفی ہو یا اہل حدیث، اور غیر مسلم حنفی کی اقتدا کے لیے تیار نہیں۔ یہ دونوں قسمیں آج کل عام ہیں۔ اہل حدیث اور حنفی کے لیے تو بحث کرتے ہیں، لیکن عملاً بلکہ عقیدتاً وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، جھوٹ بدویانہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حنفیت اور وہابیت کے لیے خوب لڑتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی نام رکھیں، ان کی نماز، اقتدا سب مشتبہ ہے۔ اور افسوس ہے کہ غیر مسلم حنفیوں کی بڑی کثرت ہے!

پگڑی پر مسج:

③ سر پر مسج کرنا فرض ہے۔ احناف اس سے چوتھائی سر مراد لیتے ہیں، کیونکہ حدیث

میں ”مسح علی ناصبتہ“^۱ صراحتاً آیا ہے اور ناصبتہ سے مراد ان کے ہاں ربلع سر ہے۔ شوافع کا خیال ہے کہ سر کی طرف سے کم از کم چند بالوں کا مسح ہو جائے، موالک پورے سر کا مسح ضروری سمجھتے ہیں۔

حدیث شریف میں مسح کی تین صورتیں مروی ہیں:

۱ پورے سر کا مسح۔

۲ سر کے بعض حصے پر اور کچھ پگڑی پر۔

۳ پوری پگڑی پر۔

احناف کا معمول احادیث میں بصراحت موجود نہیں، صرف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو مختصر ہے اور صحیح مسلم میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کے اطلاق پر صرف موالک کا عمل ہے۔ ایک توضیح احناف نے کی اور پورے سر کو چوتھائی کرایا اور شوافع نے چند بال سے اس کی تفسیر کی، یہ چیزیں تو گوارا ہیں۔ آپ بھی حق پر، شوافع بھی حق پر اور موالک بھی حق پر، اور اہل حدیث اگر سنت صریحہ کے مطابق پگڑی پر مسح کریں تو مستحب!!

اب حدیث سنئے:

”عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي ﷺ: يمسح على

عمامته وخفيه“ (صحیح بخاری مع کرمانی، پ: ۳، ص: ۵۳)

”آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے موزوں اور پگڑی پر مسح فرمایا۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار على العمامة، و

وافقه عليه جماعة من السلف“ (ملم مع نووی: ۱/۱۳۴)

”امام احمد بن حنبل صرف پگڑی پر مسح جائز سمجھتے ہیں اور سلف سے ایک

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۷۴) سنن أبی داود، رقم الحدیث (۱۵۰)

② صحیح البخاری (۲۰۲) سنن أبی داود (۱۵۳) صحیح ابن حبان (۱۷۳/۴)

جماعت ان کے ساتھ متفق ہے۔“

حدیث مسیح علی العمامہ حضرت بلال، مغیرہ بن شعبہ، حضرت سلیمان اور ثوبان رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔^① اب آپ سوچ لیں کہ وہابیوں کے ساتھ کون کون بزرگ محروم الاقتداء تصور کرتے ہیں؟

ترپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

مولانا! معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت - فداہ ابی وامی - سخت قسم کے وہابی تھے! بریلی اور لاہور کے ارباب فکر سوچ لیں کہ آنحضرت ﷺ کی اقتدا میں ”نماز کا بیڑا فرق“ کا فتویٰ صادر فرما سکیں تو اپنے بزرگ کی وراثت میں دارالندوہ کی چابیاں آپ حضرات کے حوالے کر دی جائیں گی اور حقدار کو حق مل جانے پر ہمیں بھی مسرت ہوگی۔

دجوب غسل:

④ زن و شوہر کے تعلقات میں اگر کسی فتور کی وجہ سے مادہ منویہ نکلنے کی نوبت نہ آئے تو جمہور کا مذہب ہے کہ غسل واجب ہے۔ احناف کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بخاری اور بعض دوسرے ائمہ سلف کا مذہب ہے کہ اس صورت میں غسل واجب نہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کرے۔^⑤ (بخاری)

① دیکھیں: تحفۃ الأحوذی (۱/ ۸۹)

② صحیح البخاری (۱/ ۱۱۱) امام بخاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بیننا لاختلافهم۔“ یعنی غسل کرنا ہی زیادہ محتاط ہے اور یہی آخری امر ہے۔ ہم نے محض اختلاف کی بنا پر اسے واضح کیا ہے۔

امام ابن العربی رضی اللہ عنہ امام بخاری کے اس قول کی شرح میں فرماتے ہیں:

”یحتمل أن یکون مراد البخاری بقوله: الغسل أحوط أي فی المدین، وهو باب

مشہور فی الأصل... وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه“

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهذا عموماً! ظاهر من نصرفه، فإنه لم یترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ←

دونوں مسلک کی تائید احادیث سے ہوتی ہے۔ چونکہ تاریخ معلوم نہیں، اس لیے نسخ کا دعویٰ تو صحیح نہیں۔^① جو مسلک رائج ہو، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اقتدا کے جواز یا عدم پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ صحیح بخاری، فتح الباری، نیل الاوطار، فتاویٰ ابن تیمیہ میں تفصیل ملے گی۔^②

پاؤں پر مسح:

⑤ یہ مولانا رضوی کی آخری دلیل ہے کہ اہل حدیث پاؤں پر مسح جائز سمجھتے ہیں۔ یہ فتاویٰ ابراہیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ معلوم نہیں یہ مولوی ابراہیم کون سے بزرگ ہیں اور فتاویٰ ابراہیمیہ کیا بلا ہے؟ ہم صراحتاً یہ گزارش کرتے ہیں کہ الحمد للہ کا یہ مسلک نہیں اور غالباً شیعوں کے سوا ائمہ سنت سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں۔

آخری گزارش!

ہم ”رضوان“ اور اس کے ادارے کے محترم ارکان کو نظر انداز کر رہے تھے، خیال نہ تھا کہ ان بزرگوں کو خواہ مخواہ تکلیف دی جائے۔ یہ پہلی دفعہ جو اپنی گزارشات کی گئی ہیں، ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسی غلطی کا اعادہ ہو، اس لیے مولانا رضوی اور ان کے

بعض ما یستفاد من الحدیث من غیر هذه المسألة، كما استدل به عنی ایجاب الوضوء فیما تقدم“ (فتح الباری: ۱/ ۳۹۸) نیز دیکھیں: دفاع صحیح بخاری از مولانا أبو القاسم بنارسی رحمہ اللہ (ص: ۲۵۱)

① نسخ کی صراحت بھی صحیح روایات سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۱۱۰) امام ترمذی رضی اللہ عنہما یہ اثر ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”هذا حدیث حسن صحیح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا“

② صحیح البخاری (۱/ ۱۱۱) فتح الباری (۱/ ۳۹۸) نیل الاوطار (۱/ ۲۷۶) شرح العدة فی الفقہ لابن تیمیہ (۱/ ۳۵۹) مجموع الفتاویٰ (۲۳/ ۳۹)

رفقاء ایک بات سمجھ لیں کہ الحمد للہ علماء اور بزرگوں کے فقہی اقوال ہمارے ہاں اساس مذہب نہیں، نہ ہم انھیں ائمہ اجتہاد کی طرح امام ہی مانتے ہیں، نہ ان کی تقلید ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں بطور الزام نہ لکھی جائیں۔ واجب التعمیل ہمارے لیے صرف کتاب و سنت اور آثارِ سلف کے سوا کچھ نہیں۔ آثارِ سلف میں اجماعی مسائل کی پابندی ہوگی۔ باقی مسائل میں جہاں سلف مختلف ہوں، ہم کسی کے پابند نہیں۔ مناسب ہوگا کہ لکھتے وقت یہ اصل پیش نظر رہے، اس سے بحث میں طول نہیں ہوگا اور شاید ہم ایک دوسرے کے کچھ قریب بھی ہو سکیں۔

(مفت روزہ الاعتصام لاہور، جلد: ۲، شمارہ: ۳۳ تا شمارہ: ۳۷)

ایک مقدس تحریک جو مظالم کا تختہ مشق بنی رہی

ایک مقدس تحریک جو مظالم کا تختہ مشق بنی رہی

مادی حکومتوں میں جس طرح توڑ پھوڑ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح دینی تحریکات اور فروعی اور اصولی نظریات میں بھی کسر اور انکسار کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ مقدمہ ابن خلدون اور مقریزی کی المواعظ میں ان حوادث کا تسلسل نظر آتا ہے۔ مسائل میں اختلاف، اہل علم کی باہمی رقابتیں اور شکر رنجیاں؛ تاریخ مذاہب میں مدو جزر کی کیفیت پیدا کر رہی ہیں۔ اس کے مادی ذرائع پر بحث تاریخ کا ایک خاص موضوع ہے۔ تاریخ، طبقات اور طس و نحل کی کتابوں میں اس کی خاصی تفصیل ملتی ہے۔

فارس کے علاقوں میں ایران اور ماوراء النہر میں جس طرح مذہبی انقلابات آئے، ایک گروہ نے دوسرے پر یورش کی، اسے ختم کیا، اس قسم کا مواد تاریخ عالم میں کافی ملتا ہے۔ ائمہ حدیث اور علمائے سنت کی کثرت، پھر ائمہ شوافع کا زور، اس کے بعد علمائے احناف کی یورش، پھر تشیع کا غلبہ؛ یہ سب حوادث تھوڑی سی مدت میں رونما ہو گئے۔

آج بھی ایران اور عراق میں سنی بوی کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن شیعہ حکومت کے استبداد نے سب کی زبانیں بند کر رکھی ہیں۔ روسی ترکستان، ازبکستان، تاشقند میں فرقہ پرستی کی تنگ نظری اور فقہی استبداد نے لادینی اور کیونزم کے لیے راہ ہموار کر دی، یہاں علمائے اسلام ہی کو خارج البلد کر دیا گیا ہے۔ نکتہ ور، دور اندیش طبائع کے لیے اسی میں درس عبرت ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (اق: ۱۳۷)

مصر اور سوڈان کے علاقوں میں اہل علم اور ائمہ سنت کا طوطی بولتا تھا۔ قرآن و سنت اور سلف کا طریق عام تھا۔ حضرت امام شافعی ۱۹۸ھ میں تشریف لائے اور اپنے علمی فیوض سے سر زمین مصر کو سیراب فرمایا۔ ربیع بن سلیمان، امام اسماعیل بن یحییٰ مرنی، حافظ یوسف بن یحییٰ بویطی وغیرہم کی وجہ سے شافعییت مصر میں عام ہو گئی۔ (الخطوط: ۱۱۵/۴)

اس کے بعد فاطمیوں کے عروج نے ساری صورت حال بدل کر رکھ دی۔ ۳۵۸ھ میں مصر پر تشیع اور رفض چھا گیا۔ فاطمی اور دوسرے روافض جو دھاندلیاں کر سکتے تھے، کرتے رہے۔ مصر کے در و دیوار پر صحابہ اور ائمہ سلف پر تمتر کے بورڈ آویزاں تھے۔ ۵۶۳ھ کے پس و پیش سلطان نور الدین محمود زنگی کی فوجوں نے اس دور کا خاتمہ کیا۔ فقہائے ممالک اور شوافع کے دور کا پھر آغاز ہوا اور رفض و تشیع کا اس سر زمین سے خاتمہ ہو گیا۔

مقریزی نے نخط جلد چہارم میں اس مدو جزر اور عروج و زوال کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے۔ مقریزی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، مذاہب اربعہ میں مناقشات جاری رہے۔ عہدہ قضا کی وجہ سے اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ اہل علم کی کمزوری تھی کہ مسلمان اور سنی سمجھنے کے باوجود مدارات اور باہم خوشدلی سے گزر نہ کر سکے۔ اتفاقاً اور قضا نے کاروباری انداز اختیار کر لیا۔ وقت کی حکومت بھی ان حضرات کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی اور اپنے سیاسی مفاد حاصل کرتی رہی۔

ابتداءً ائمہ اسلام ان درباروں کی حاضری سے پرہیز کرتے رہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی اور اموی دونوں درباروں نے عہدہ قضا کی پیشکش کی۔ امام موصوف مدت العرا سے انکار فرماتے رہے اور قریباً دونوں درباروں کے معتوب رہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہدے قبول کر لیے۔^۱ مصالح بدلتے رہتے رہے، ممکن ہے اس سے کوئی نقصان بھی ہوا ہو، مگر بظاہر تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

① علاوہ ان کے شاگردوں میں سے ہندوہ کے قریب افراد نے عہدہ قضا قبول کیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: اللمعنات: (۱/۲۵۳)

کو دینی اور دنیوی دونوں قسم کے فوائد حاصل ہوئے۔^① فقہ حنفی کی اشاعت میں ان کے اس تعلق سے بہت مدد ملی۔ مذاہب اربعہ کا جہاں بھی زور ہے وہاں دلائل سے زیادہ اسی قسم کے موثرات کا نتیجہ ہے۔ الخطط للمقریزی، مقدمہ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب تاریخ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش کی پابندی فرماتے تو قرین قیاس ہے کہ حنفی مسلک کی اس قدر کثرت نہ ہوتی۔ لوگوں نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس روش پر تنقید کی ہے۔ کچھ جھوٹی سچی کہانیاں بھی تاریخ الخلفاء للسیوطی اور بعض دوسری کتب میں مرقوم ہیں۔^② صورت حال کوئی بھی ہو، مگر مسلک کی اشاعت میں یقیناً اس سے بڑی مدد ملی۔ اسی طرح افریقہ، حجاز، مصر اور نجد میں حکومتوں نے جن مسالک کی اعانت حکومت کی سطح پر کی، ان علاقوں میں ان مسالک کو بڑی ترقی ہوئی اور خوب پھیلے۔

مسلک اہل حدیث کو یہ مواقع کم ملے۔ یہ بے چارے یوں ہی درباروں کی زندگی سے بھاگتے رہے، اس لیے تاریخ نے انھیں نسیان و غول کی دبیز تہوں میں دبا دیا۔ اچھے پڑھے لکھے حلقوں میں اب بھی علی الاعلان کہا جا رہا ہے یہ کوئی کتب فکر ہی نہ تھا۔ یہ محض حفاظ حدیث کی جماعت تھی جس میں تحفہ اور درایت ناپید تھی، وہ اجتہاد اور استنباط کی راہوں سے نا آشنا تھے، حالانکہ تمام مسالک جن کا تعلق سنت سے ہے یا بدعت سے، وہ اپنی اور اپنے مسلک کی صحت اور درستی کے لیے اسی مسلک کو معیار اور کوئی سمجھتے تھے، اور یہ حضرات بھی علم کلام اور فلسفے سے لے کر فقہ، اصول فقہ، تجوید، نحو، معانی، بیان، ادب و تاریخ میں مجتہدانہ افکار رکھتے تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

① بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے: "من نظر فی الرأي ولم یل القضاء فقد خسر

الدنیا والآخرة" (تاریخ بغداد: ۱۴/۲۴۹)

② دیکھیں: تاریخ الخلفاء (ص: ۲۱۵) أخبار ابي حنیفة للصیمری (ص: ۹۲)

”حدیث اور سنت کی عظمت پر تمام فرقوں کا اجماع ہے اور ان کی متفقہ شہادت ہے کہ حق ائمہ سنت میں ہے، اسی لیے جو لوگ ائمہ حدیث کے زیادہ موافق ہوں وہ ان فرقوں میں دوسرے کی نسبت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، خود امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری چونکہ امام احمد اور دوسرے ائمہ سنت سے زیادہ قریب تھے، اس لیے وہ اپنے اتباع میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ قاضی ابوبکر باقلانی کا بھی یہی حال ہے، ان کی عزت ائمہ حدیث کی موافقت کی وجہ سے ہے۔ امام الحرمین ابوالمعالی جوینی (۵۳۷۸ھ) اور امام غزالی (۵۵۰۵ھ) اشعری کے بعض اصولوں کی مخالفت کے باوجود ان کی عزت حدیث اور سنت کی موافقت ہی کی وجہ سے ہے۔ فقہی فروع میں امام شافعی کے اتباع کی وجہ سے ان کو حدیث سے تعلق ہوا اور علم کلام میں بھی سنت کی موافقت یا مخالفت کے تناسب ہی سے ان کا احترام کیا گیا ہے۔ معیار حق حدیث اور ائمہ حدیث ہی قرار پائے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ وہ فقہ و درایت سے خالی لیکن حق و باطل کا معیار بھی ٹھہریں!“ (نفیض المنطق، ص: ۱۶)

تقلید اور جمود کے اثرات:

مروجہ تقلید اور جمود نے صرف ائمہ حدیث ہی کو ایذا نہیں دی، بلکہ اپنے مسلک پر جمود کی وجہ سے دوسرے ائمہ کو حق پر سمجھنے کے باوجود وہ ان کے اتباع سے انصاف نہیں فرما سکے۔ آپ اس سلسلے میں اقتداء بالخالف ہی کو لے لیجیے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ائمہ اربعہ حق پر ہیں۔^① یہ چاروں نہریں ایک ہی دریا سے نکل ہیں۔ یہ پانی ایک ہی منبع سے تقسیم یعنی حضرات مقلدین کے ہاں یہ ایک مسلہ امر ہے، وگرنہ امر واقع اس کی تردید و تکذیب ہی کرتا ہے۔ کیونکہ اصول و فروع میں ان کا بہت اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان یکونان صوابا جمیعاً؟“ ما الحق وللصواب إلا واحد“ (جامع بیان العلم: ۸۱/۲)

ہوا ہے اور شیخ کی طہارت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ میزان شعرانی ملاحظہ فرمائیے^① وہاں حوض کوثر کی تقسیم اور میزان اعمال کے وقت حضرات ائمہ کرام بڑی توجہ سے میزان کے کام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پل صراط کے پاس بھی اپنے اتباع کی رفتار کا بڑا غائر مطالعہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کے محاسبے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعرانی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان حضرات کا موقف بھی انبیاء علیہم السلام کے قریب قریب ہے۔ اس احترام اور حق کے ساتھ اس وابستگی کے باوجود جب اقتداء بالخالف کا سوال سامنے آیا تو متاخرین فقہاء بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کا عین محاسبہ فرمانے لگے اور ایک دوسرے کا اس طرح محاسبہ شروع فرمایا، جیسے ایک مسلم، غیر مسلم کا محاسبہ کرتا ہے، حالانکہ ان فروغی اختلافات کے باوجود معاملے میں کوئی وقت نہیں تھی۔ شرح صدر سے کہا جاتا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بلا تامل ایک دوسرے کی اقتدا کر سکتے ہیں، چاروں کو حق پر کہنے کے بعد نہ مقتدی کے خیالات پیش نظر ہونے چاہئیں نہ امام کے، ان اختلافات کی موجودگی میں ہم نے ان سب کو حق پر تسلیم کیا ہے، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو ملاحظہ فرمائیے۔

قاضی خاں علامہ حسن بن منصور اوز جندی (۵۹۲ھ) جو اصحاب ترجیح تسلیم کیے

گئے ہیں، فرماتے ہیں:

«أما الاقتداء بشافعي المذهب، قالوا: لا بأس به إذا لم يكن متعصبا، ولا شاكيا في إيمانه، ولا منحرفا تحريفا فاحشا عن القبة، ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا، وأن يكون متوضئا من الخارج النجس من غير السبيلين، ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة»^②

شافعی امام کی اقتدا ان شروط کے ساتھ درست ہے:

① متعصب نہ ہو۔

② تفصیل کے لیے دیکھیں: میزان الكبرى للشعرانی (۱/ ۱۵۲)

③ فتاویٰ قاضی خاں (۱/ ۴۳)

۱) اپنے ایمان کے متعلق ان شاء اللہ نہ کہتا ہو۔

۲) قبلہ سے انحراف نہ کرے۔

۳) اگر سیلیمن کے سوا اس کے بدن پر نجاست کا اثر ہو تو اس سے وضو کرے۔

۴) تھوڑے پانی میں اگر نجاست گری ہو تو اس سے وضو نہ کرے۔

ان شرائط کی عدم پابندی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شافعی رہ کر احناف کا امام نہیں بن سکتا

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار (۱/ ۵۸۸) میں شرح منیہ سے نقل فرماتے ہیں:

”أما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم

يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي“

”شافعی وغیرہ مخالفین کی اقتدا اس وقت درست سمجھتے ہیں جب امام مقتدی

کے خیال اور مذہب کے مطابق کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی نماز

فاسد ہو جائے۔“

پھر اسی صفحہ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”الاهتداء في الاقتداء“ سے نقل

فرماتے ہیں:

”ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في مواضع

المخلاف وإلا فلا، والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة

وفي غيره معها، ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأ من

الفصد، والحجامة، والقيء، والرغاف، ونحو ذلك“ (۱/ ۵۸۸)

”عام مشائخ حنفیہ شافعی امام کی اقتدا جائز سمجھتے ہیں جب وہ اختلافات

کے مقامات میں احتیاط کرے (ورنہ نہیں) احتیاط سے مراد یہ ہے کہ فصد،

سقل، قے اور نکسیر وغیرہ کے بعد وضو کرے۔“

علامہ خیر الدین آللی فرماتے ہیں:

”الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسدة“^①

① مصدر سابق

”میرادلی رجحان یہ ہے کہ اگر شافعی امام سے کوئی مفسدہ ظاہر نہ ہو تو اس کی اقتدا درست ہے۔“

علامہ بیرونی اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ شافعی امام کی اقتدا سے اکیلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ وہ نماز میں ایسے کام کرے گا جن سے نماز لوٹانا ضروری ہوگا یا مستحب ہوگا۔
خیر الدین آل علی شافعی سے منقول ہے کہ اگر اپنا ہم مذہب مل جائے تو پھر دوسرے کی اقتدا کر دو ہے، البتہ اکیلے پڑھنے سے اقتدا کرنا افضل ہے۔ یہی فتویٰ ربلی کبیر، اسنوی اور بسکی سے بھی منقول ہے۔

شیخ خیر الدین فرماتے ہیں:

”والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافًا، وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم“ اھ
(شامی: ۱/ ۵۸۸)

”حاصل یہ ہے کہ شافعی ہماری اقتدا کے متعلق صحت، فساد یا افضلیت کے متعلق جو راہ اختیار کریں ہم بھی وہی کہیں گے۔“

مندرجہ بالا ارشادات سے ظاہر ہے کہ دین کی بجائے حضرات فقہائے کرام کی باہمی رقابت کا فرما ہے۔

اس کے بعد علامہ شامی نے ایسے مقامات کا ذکر فرمایا ہے، جہاں مخالف اور موافق حضرات کی متعدد جماعتیں ہوتی ہوں۔ بعض نے فرمایا اگر پہلی نماز شوافع کی ہو تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن علامہ ابراہیم بیرونی فرماتے ہیں اگر اپنے مذہب کی جماعت نہ ملے تو اکیلے پڑھنا افضل ہے، شافعی کی اقتدا نہ کرے۔
علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الہمام کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ شافعی اگر رعایت بھی کرے تو بھی بہتر ہے کہ اکیلا پڑھے اور اقتدا نہ کرے۔

اس کے بعد علامہ علی قاری کی رائے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر اپنی جماعت مل

سکے، پہلے ہو یا پیچھے، پھر مخالف کی اقتدا نہیں کرنی چاہیے۔ غرض علامہ شامی نے اقتدا کے متعلق فقہائے مذاہب کی آرا کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا ہے اور حریمین کے تعامل کے پیش نظر اجازت دی ہے کہ اگر اپنے مذہب کا امام مل سکے تو شوافع کی نماز میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔

اس کے بالمقابل بدعتی اور فاسق کی امامت کو مکروہ تنزیہی فرمایا ہے۔

در المختار (۵۸۳/۱) میں ہے: ”ویکرہ تنزیہا النخ“ اور قاضی خاں میں فرماتے ہیں:

”ویصح الاقتداء بأهل الأهواء إلا الجهمية والقدرية والرافضي

الغالي، ومن يقول بخلق القرآن“ (شامی: ۷۶/۱، مطبوعہ مصر)

”جمیہ، قدریہ، غالی روافض اور قائلین خلق قرآن کے علاوہ باقی اہل ہوا

فرتوں کی اقتدا صحیح ہے۔“

نیز فرماتے ہیں:

”إذا صلى الرجل خلف فاسق، أو مبتدع، يكون محرزا ثواب

الجماعة“ (۷۷/۱)

”اگر فاسق اور بدعتی کی اقتدا کرے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔“

شامی (۵۸۸/۱) اور طحاوی (۲۲۳/۱) میں ہے کہ بدعتِ مکلفہ نہ ہو تو اقتدا

درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ علامہ کاسانی نے ”البدائع والصنائع“ میں بدعت کے متعلق

زیادہ وضاحت سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف بدعتی کے پیچھے علی الاطلاق

نماز ناپسند فرماتے ہیں، لیکن کاسانی اس کی بھی یہی توجیہ فرماتے ہیں:

”والصحيح أنها إن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره

تجوز“ (۷۷/۱)

”صحیح یہی ہے کہ اگر بدعتِ مکلفہ نہ ہو تو اقتدا درست ہے۔“

فقہائے کرام کے ان گرامی قدر ارشادات سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ

اہل بدعت اور ہوا کے متعلق وہ پیش بندی اور احتیاط نہیں برتی گئی جو سنی مخالفین، خصوصاً "ولا شاکا فی ایمانہ" کہہ کر ائمہ شوافع پر اور اہلحدیث پر جو تعریض کی گئی ہے، بڑی نامناسب اور بے انصافی پر مبنی ہے۔ اگر واقعی امام شافعی اور ان کے اتباع کا ایمان مشکوک ہے، ان کو اپنے ایمان میں شبہ ہے تو کسی طرح بھی ان کی اقتدا درست نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام ائمہ حدیث اور ائمہ سنت ایمان میں استثنائے قائل ہیں، جسے "شاکا فی ایمانہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔^①

شوافع کا قیام:

حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع سچے سنی ہیں، ان کے مسلک کی حقانیت کا اعتراف علمائے احناف نے بھی فرمایا ہے۔
مولانا عبدالجلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فہذہ المذاہب المختلفۃ للأئمۃ ومجتہدی الامۃ کلہا تتصل بأنہار الصحابۃ، وہی متصلۃ بمنبعہا، وهو حضرة الرسالة، فکلہم علی ہدی، من اقتدی بأیہا اہتدی، ومن توہم أن واحدا منها علی ہدی، و سائرہا فی ضلالۃ، فقد وقع فی حفرة الضلالۃ" (الفوائد البہیۃ، ص: ۹)

"ائمہ مجتہدین کے مذاہب کا تعلق صحابہ سے ہے اور وہ نبوت کے منبع سے بہ رہے ہیں، ان میں سے ایک کو حق پر کہنا اور باقی کو گمراہ سمجھنا خود گمراہی ہے۔"

اس توثیق کے بعد شوافع کے متعلق یہ احتیاط اور اقتدا کی یہ شرائط بالکل بے محل ہیں اور انصاف سے بمرحل دور، حالانکہ معلوم ہے کہ اعتزال و تحمیم سے نہ احناف نفع سکے نہ ممالک اور نہ شوافع، بلکہ ان حضرات نے عقائد میں ان ائمہ اجتہاد کی راہ ہی

① تفصیل کے لیے دیکھیں: کتاب الاعتقاد للیہقی (ص: ۱۸۲) السنة للمخلال (۳/ ۵۷۲)

السنة لعبد اللہ بن أحمد (۱/ ۳۴۷)

ترک فرمادی، وہاں کے امام اور مجتہد اشعری ماتریدی قرار پائے۔ طحاوی فرماتے ہیں:

”ولا خصوصية لمذهب الشافعي، بل إذا صلى حنفي خلف

أي مخالف لمذهبه كذلك“ (۱/ ۲۸۱)

”اس تفصیل میں شافعی کی کوئی تخصیص نہیں، کسی مخالف کے پیچھے بھی کوئی

حنفی نماز ادا کرنا چاہے، اس کی تفصیل اسی طرح ہے۔“

ہدایہ اور اس کی شرح کفایہ مطبوعہ بمبئی میں سابقہ تفصیل کسی قدر اختصار سے

مرقوم ہے، مگر مقصد میں کوئی فرق نہیں۔^۱

گفتگو کے لیے دوسرا محاذ:

شواہخ اور دوسرے ائمہ سنت کے ساتھ اقتدا میں یہ احتیاط اور تنگ نظری طبعاً اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس لیے گفتگو کے لیے ایک اور محاذ بنا لیا گیا کہ اس صورت میں جب امام اور مقتدی میں فرقی اختلاف ہو تو اقتدا میں ایثار امام کو کرنا چاہیے یا مقتدی کو اور رعایت کی ذمے داری امام پر ہے یا مقتدی پر کہ ازراہ شفقت درگزر کرے؟ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

”هذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح، وقبل

لرأي الإمام، وعليه جماعة“ (رد المحتار: ۱/ ۵۸۸)

”یہ احتیاط کا حکم اس بنیاد پر ہے کہ اقتدا میں مقتدی کی رائے کا اعتبار ہے

یا امام کی رائے کا؟ صحیح یہ ہے کہ مقتدی کی رائے ہی معتبر ہے۔ ایک

جماعت کا خیال ہے کہ امام کی رائے پر اعتماد ہوگا۔“

علامہ بدر الدین یعنی اور صاحب ہدایہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن ابن عابدین فرماتے ہیں کہ صحیح پہلی بات ہے، یعنی امام کو مقتدی کی رعایت کرنی چاہیے۔ گفتگو کا محاذ ضرور بدل گیا۔ ائمہ کی بجائے موضوع بحث امام اور مقتدی ہو گئے، لیکن شاعت اور بڑھ گئی، یعنی امام کو مقتدی کے تابع فرما دیا گیا، یعنی تانگہ گھوڑے کے آگے باندھ دیا گیا۔

① دیکھیں: الهدایة مع شرح الکفایة (۱/ ۳۱۱)

یہ تعصب کی کار فرمایاں ہیں!

مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ جلد ثالث (ص: ۱۵۳) میں دونوں مسالک کا ذکر کر کے خاموش ہو گئے۔ اندازہ ہوتا ہے ان کا رجحان یہ ہے کہ امام کو مقتدی کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایہ کے حاشیے میں مولانا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔^۱

قاضی خاں وغیرہ فقہاء کی شرائط اور ان کی مراعات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”قلت: هذا يرجع إلى أن بصير حنفياً“ (هدایہ، ص: ۱۲۹)

”اس رعایت کا مطلب تو یہ ہوگا کہ امام شافعی حنفی ہو جائے۔“

اس کے بعد ان ساری مراعات و شرائط کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا ہے۔

آخر میں فرمایا ہے:

”وأما اشتراط مراعاة مواضع الخلاف كما اختاره أكثر

أصحابنا فغير موجه، إذ مراعاة ذلك مستحب، ليس بواجب

عند أحد، فلو لم يراع، وفعل ما فعل على طبق مذهبه، لم

يقدمه في ذلك قادح، فأی مانع في جواز الاقتداء به؟ فافهم

هذا بنظر الإنصاف“ (هدایہ اولین: ۱/۱۱۹)

”مواقع خلاف میں رعایت کی شرط ہمارے اکثر مشائخ نے لگائی ہے۔ یہ

نامناسب ہے، کیونکہ یہ رعایت کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں۔ اگر وہ

تمام کام اپنے مذہب کے مطابق کرے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ زیادہ

سے زیادہ ایک مستحب کا ترک ہوگا، اس سے اقتدا کے عدم جواز کی کون سی

وجہ ہوگی؟ اسے سمجھو اور انصاف سے غور کرو۔“

بات بالکل صاف، لیکن شامی کے ”عند أكثر المشائخ“ اور ”على الأصح“

کا کیا کیا جائے؟ بہر کیف یہ محاذ بھی معقول معلوم نہیں ہوتا۔

① حاشیہ الہدایۃ للکھنوی (۱/۱۵۱)

ایک اور محاذ:

اقتداء بالخالف کے متعلق متقدمین فقہاء کے چھ قسم کے خیالات منقول ہیں، جن کا تذکرہ مولانا عبدالحی علیہ السلام نے حواشی ہدایہ میں فرمایا ہے^① اور مطلقاً جواز کو رائج فرمایا ہے۔ ہمارے ملک میں شوافع کی جگہ اہلحدیث کو ملی ہے، گو ہمارے ہاں احناف اور شوافع کا احترام برابر ہے، اس لیے یہاں بھی اقتداء بالخالف کا اثر اہل حدیث پر پڑا ہے، بلکہ ہمارے بزرگ کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات تو ”لا ماس“ کے قائل ہیں، وہ کسی موجد کی اقتداء نہیں فرماتے۔ اہل حدیث ہو یا حنفی، ان کے ہاں مذہب چند رسوم اور نعروں کا نام ہے اور بس۔ پھر ان کا انداز گفتگو علم و استدلال پر مبنی نہیں، بلکہ محض جذباتی ہے۔ ہمارے دیوبندی حضرات بعض ان مسائل کی آڑ لیتے ہیں، جن کی رعایت کی امید شوافع سے کی گئی ہے، لیکن وہ اختلافات اب کچھ موزوں معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ایک نیا محاذ کھولا گیا۔

ہمارے یہ دوست فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کی اقتداء اس لیے درست نہیں کہ یہ استنجائے میں ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، ان کی طہارت درست نہیں۔ یہ عذر بے حد کمزور بھی ہے اور غلط بھی۔ یہ تو معلوم ہے کہ طہارت کے بغیر نماز کو کوئی بھی درست نہیں سمجھتا۔ طہارت اہل حدیث کے نزدیک بھی اتنی ہی ضروری ہے جس قدر احناف کے نزدیک، فرق صرف طہارت کے طریقے میں ہے: صرف پانی سے ہوگی یا صرف مٹی سے؟ یا پانی اور مٹی دونوں سے؟ تمام ائمہ متفق ہیں کہ طہارت تینوں طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی اور پانی دونوں استعمال کرے تو بہتر ہے۔ مطلق طہارت کے سوا ان طریقوں سے کوئی طریقہ امامت اور اقتداء کے لیے شرط نہیں۔ اب مٹی کے استعمال کو ضروری قرار دینا تعجب ہے۔ یہ ذہنی بغض اور عصبیت کی ترجمانی تو کر سکتا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے۔

① حاشیہ ہدایہ (۱/۱۶۶) [مؤلف]

فنِ طہارت یا وہم؟

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں علمائے کرام کی طہارت اور اس کی مختلف اقسام اور اس پر اصرار کا تجربہ ہوا۔ بعض حضرات پیشاب سے فارغ ہو کر ازار بند منہ میں تھام لیتے اور کافی دیر ٹپکتے رہتے۔ بائیں ہاتھ سے ڈھیلا استعمال کرتے اور اس میں خاص قسم کی حرکات فرماتے۔ میں منٹ آدھ گھنٹے تک یہ کھیل جاری رہتا، پھر یقین ہوتا کہ اب طہارت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ پورا ڈرامہ نہ کیا جائے، طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ بعض حضرات مٹی کے ساتھ دونوں رانوں سے بھی طہارت میں کافی مدد لیتے، وہ بائیں ہاتھ سے مسنا کافی نہیں سمجھتے تھے۔

بعض حضرات اس اثنا میں کئی کئی دفعہ ازار بند کے اندر جھانکتے، مٹی کو ملاحظہ فرماتے، وہ اسی مشق میں مٹی کا خشک ہونا بھی ضروری خیال فرماتے۔ بعض حضرات بڑے اہتمام سے ڈھیلے بناتے اور خاص ترکیب سے بناتے۔ کئی کئی دن خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھے رہتے اور تحفے کے طور پر یہ ڈھیلے اس قسم کے وہمی اکتیا میں تقسیم فرماتے، اور وہ بھی اسے لے کر بہت ممنون ہوتے۔

ظاہر ہے کہ یہ سب وہم پرستی ہے، اس میں کوئی چیز نہ حنفی مذہب میں ضروری ہے نہ باقی ائمہ میں۔ یہ وہم کا مرض ہے، جو اس میں مبتلا ہو، وہ تسکینِ قلب کے لیے مجبور ہے، جو چاہے کرے، لیکن دوسرے کو اس وہم پرستی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

عموماً یہ مرض یکمبل پور، ہزارہ، راولپنڈی کے لوگوں میں ہوتا تھا، یا پھر یو، پی، سی، پی کے حضرات میں، خصوصاً وہ لوگ جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کی اقتدا ان حضرات کے نزدیک اس وقت درست ہو سکتی ہے جب وہ طہارت کے ان فنون میں مہارت پیدا کریں، پھر شاید اس کی سند حاصل کریں اور اس وہم میں بھی مبتلا ہوں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھی بعض حضرات پانچ پانچ چھ چھ لوٹے

استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ان حضرات کو حافظ ابن القیم کی ”إغاثة اللہفان“ کے ابتدائی ابواب، نقد العلم والعلماء لابن جوزی اور شوکانی کے رسالہ ”ذم المومنین“ کا مطالعہ فرمانا چاہیے، شاید ان کو فائدہ ہو۔

اہل حدیث تو نہ امامت کے شائق ہیں نہ اس مشق کے لیے تیار، دراصل یہ سب امراض اس دور کے ہیں جب ملک میں پانی کی قلت تھی، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہم اور قلتِ علم کی پیداوار ہے اور عوام کے ذہنوں میں عصبیت اور نفرت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ۔ جہاں اتباعِ ائمہ میں تقلید کے باوجود اس قدر سختی برتی گئی ہو اور جمہورِ علماء ایک دوسرے کے خلاف اس قدر غلو فرماتے ہوں، وہاں بچارے اہل حدیث ان حضرات سے کس وسعتِ ظرف کی امید کر سکتے ہیں؟ اور یہ بزرگ کب اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مسلک بھی دنیا میں زندہ رہے؟ اسی عصبیت کا نتیجہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے حضرات فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی کتبِ فکر نہیں، یہ محض حفاظ کی جماعت تھی، فقہ و درایت سے خالی تھی۔ یہ عصبیت قرونِ وسطیٰ میں اہل تقلید کے تغلب اور حکومت اور ارباب اقتدار کی سیاسی مصالح کی پیداوار ہے۔ درباری حضرات کی چیرہ دستیوں نے اس مسلک کو تاریخ کے اندھیروں اور عصبیت کی دلدلوں میں دبا کر رکھ دیا۔

اہل حدیث تاریخ کے مختلف ادوار میں:

ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کی ولادت اور وفات کے سنین پر غور کیا جائے تو ۸۰ھ سے شروع ہو کر امام احمد کی وفات ۲۴۱ھ تک ختم ہوتا ہے۔ ان ایام کے بعد برسوں اس جمود اور تقلید کا پتا نہیں چلتا جسے آج کل واجب کہا جا رہا ہے اور اس سے اعراض کو بے دینی وغیرہ القاب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس پر فخر یا اس کی طرف دعوت کسی صورت میں بھی چوتھی صدی سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ فتح ہند سے پہلے پہلا لشکر جو ساحل ہند پر اترا، اس وقت ان مروجہ مذاہب کا نام و نشان عرب میں تھا نہ عجم میں، تقلیدِ ائمہ کے موجودہ انداز سے ذہن بالکل خالی تھے۔

معلوم ہے ہند پر پہلا حملہ ۹۲ھ میں ولید بن عبدالملک کی حکومت میں ہوا۔ عرب میں تو اس وقت علمائے تابعین کی کثرت تھی۔ ائمہ اربعہ کا خیال بھی اس وقت ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ خراسان، ایران اور فارس میں اس وقت ائمہ حدیث کی کثرت تھی۔ احادیث کا حفظ و ضبط، نقل و روایت ان حضرات کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین کے اس دور میں ائمہ کی فہموں کا احساس بھی موجود نہ تھا، صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ بلا تخصیص و تعین اہل علم کی نظر میں تھے۔ وہ مدار استناد تو تھے، لیکن تقلید کا اس وقت شانہ تک نہ تھا، اس وقت کی شافعییت اور حنفیت محض اساتذہ کے جزوی تاثرات تھے۔ اہل حدیث کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس لیے اسلامی قلمرو کے تمام گوشوں میں بھی یہی مسلک پایا جاتا تھا، جسے آج ہم اہل حدیث کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ قدمائے احناف کی کتابوں میں اسی کتب لکھ کر کا تذکرہ عام ملتا ہے۔

❶ شیخ عبدالعزیز بن احمد بخاری مؤلف کشف الاسرار (۲۸۱ھ) شرح اصولی بزدوی میں صحابی کی تعریف کے ذکر میں فرماتے ہیں:

”اختلفوا في تفسير الصحابي، فذهب عامة أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعي إلى أن من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- لحظة فهو صحابي“ (كشف الاسرار: ۲/۷۰۴)

”ایک لمحہ جس نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا وہ صحابی ہے۔“

یہاں اصحاب الحدیث کا ذکر ائمہ اصول کے تذکرے میں آیا ہے۔

❷ اصولی بزدوی اور کشف الاسرار (۲/۲۹۱) میں مرقوم ہے:

”ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن أخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين“ اھ

”جن احادیث کو ائمہ فہم نے صحیح کہا ہے، وہ اہل حدیث کے نزدیک یقین

کا فائدہ دیتی ہیں۔“

اس کے باوجود ایسے بزرگ دنیا میں موجود رہے، جو مروجہ مذاہب سے تعلق اور ائمہ کے احترام کے ساتھ اس عصیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ مولانا احمد بن مصطفیٰ طاش کبریٰ زادہ (۹۶۸ھ) نے ”مفتاح السعادة و مصباح السيادة“ میں فقہ اور فقہاء کے متعلق بڑا معنی خیز اور بڑا معلومات منوالہ لکھا ہے۔^۱ اس کے آخر میں فقہائے مذاہب اور ان کی فرقہ وارانہ عصیت کے متعلق بڑا درد مندانہ شکوہ فرمایا ہے۔ آج کل دیوبند کی لو آموڑ پود اسی ڈگر پر جا رہی ہے، جس کی شکایت علامہ نے فرمائی ہے، خود دیوبند اور اس کی پاک و ہند برانچوں میں تعلیم و تربیت کا انداز اس قدر غلط ہو رہا ہے کہ ان مدارس میں علم اور للہیت کی جگہ تعصب اور فرقہ پرستی پرورش پا رہی ہے۔ مختلف فیہ مسائل پر لکھنے کا انداز اتنا غلط ہو رہا ہے کہ اس پر بددیانتی اور خیانت کا شبہ ہوتا ہے۔ تقاریر میں تقویٰ اور عبادت کی بجائے باہم مناقشات بڑھائے جا رہے ہیں۔ مجالس درس میں طلبہ کی ذہنی تربیت بھی عصیت کے جراثیم ہی سے کی جا رہی ہے اور لو آموڑ حضرات کا یہ غلط رویہ اکابر کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اہل حدیث مدارس میں بھی یہ زہر آلود جراثیم اثر انداز ہو رہے ہیں۔

بریلوی حضرات سے یہ شکایت ہی بے سود ہے، ان کے ہاں بظاہر کوئی اصلاحی پروگرام ہی نہیں۔ مذہب کے متعلق چند بدی تصورات اور عوام کی خوشنودی کے سوا ان کے ہاں مذہب کا کچھ مقصد نہیں۔ علامہ طاش کبریٰ زادہ کا یہ اصلاحی شذرہ دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے لیے مستقبل کی اصلاح میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے: ”عصیت دراصل علم و دیانت کی موت کے مرادف ہے، جو شخص حدیث «اختلاف امتی رحمة» کے مفہوم پر غور کرے اور اسے معلوم ہو کہ فرعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد ظن پر ہے، وہ کسی ایک مجتہد کے حق میں حکم اور تعصب نہیں رکھ سکتا،

۱ دیکھیں: مفتاح السعادة و مصباح السيادة لطاش کبریٰ زادہ (۲/ ۱۶۳)

۲ موضوع: یہ ایک موضوع اور بے اصل روایت ہے جس کی سند ہی معلوم نہیں۔ تفصیل کے لیے

دیکھیں: السلسلة الضعیفة، رقم الحدیث (۵۷)

وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کی صحت اور مخالف کی غلطی کا ظن کر سکتا ہے، لیکن اپنے مخالف کو مطلقاً خطا کار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کئی مسائل میں ائمہ اربعہ متفق ہیں۔ جب فرعی مسائل ظن ہی کے مقام پر ہیں تو اس لیے دونوں مخالف فریق صحت اور خطا کا احتمال رکھ سکتے ہیں، صحت اور خطا کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ مقلد اور مجتہد زیادہ سے زیادہ صحت اور خطا کا ظن ہی کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں تعصب کا کوئی مقام نہیں۔

”ہمارے زمانے میں بعض مقلد ارباب مذہب کو تعصب کا دورہ ہوتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ ان سے بعض حضرات میں اتنا شدید تعصب ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اقتدا کی اجازت نہیں دیتے، اس کے علاوہ بھی کئی قبیح اور نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے یہ خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر امام شافعی اور امام ابوحنیفہ بیٹھ زعمہ ہوتے تو ان کی ان حرکات کے خلاف سخت ناپسندیدگی اور ان سے بیزاری کا اظہار فرماتے۔ میں نے لاتعداد آدمیوں کو دیکھا ہے، وہ آستینیں چڑھا کر امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بلا تسمیہ ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ احناف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شرم گاہ کو مس کرتے ہیں اور بے وضو نماز پڑھتے ہیں۔ مالکی بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، جنبی زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ وہ ترک نماز کو گوارا کرتے ہیں اور گھر کے لوگوں کو نماز کے ترک پر سرزنش نہیں کرتے، حالانکہ شوائع، موالک، حنا بلہ بے نماز کے متعلق قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔

”افسوس! کیا یہ لوگ فقیہ ہیں؟ ایسے فقیہوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان فرعی مسائل پر اتنا زور دیتے ہو اور ہزاروں اجماعی محرمات اور ناجائز ٹیکسوں کی پروا تک نہیں کرتے اور نہ تمہیں اس پر غیرت ہی محسوس ہوتی ہے؟ تمہاری غیرت کا سارا زور ابوحنیفہ اور شافعی اختلافات پر پڑتا ہے، جس سے افتراق ہوتا ہے اور جاہل تم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ عوام میں تمہاری کمری ہوتی ہے، بیوقوف تمہارے متعلق ایسی

باتیں کرتے ہیں، جو تمہارے احترام کے سراسر منافی ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ تمہارا گوشت زہریلا ہے۔ بہر کیف تم اہل علم ہو، ان امور کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ تمہیں علم اور علما کے احترام سے نیکی کی توفیق دے اور ہمیں تعصب سے بچائے۔“ علامہ طاش کبریٰ زادہ نے اپنے وقت کے متعصب علما کو کس قدر درد انگیز لہجے میں تنبیہ فرمائی اور ترک اقتدا اور اس میں شرائط کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب ایک اور پاکباز کا ارشاد سنیے جسے اللہ تعالیٰ نے صاف ذہن مرحمت فرمایا ہے۔ ائمہ کے احترام کے ساتھ شریعت کے مصالح بھی اس کے پیش نظر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی سے علمی حلقوں سے کون واقف نہیں؟ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک حنفی وتر کی نماز میں یا جمع بین الصلاتین میں شافعی کی اقتدا کر سکتا ہے اور اسے اجازت ہے کہ ایسے مسائل میں وہ شافعی امام کی تقلید کرے یا ایسا کرنا حنفی کے لیے درست نہیں؟

جواب: ہاں بارش میں حنفی مقتدی شافعی امام کی تقلید اور اقتدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جمع بین الصلاتین جمہور علما کا مذہب ہے۔ شافعی، مالک، احمد رحمۃ اللہ علیہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما امراء مدینہ کے ساتھ بارش میں نماز جمع فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی خاص آدمی کی تمام مسائل میں تقلید درست نہیں۔ مسلمان ہمیشہ علماء سے مسائل دریافت فرماتے رہے، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ کبھی ایک کی بات مانتے کبھی دوسرے کی۔ کسی معین کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ جب مقلد کسی مسئلے کو راجع اور اصل سمجھے، اس میں ایک کی تقلید کرے اور دوسرے میں دوسرے کی۔ جمہور علمائے اسلام کے نزدیک یہ درست ہے، اسے ائمہ اربعہ میں سے کسی نے ناجائز نہیں کہا۔ وتر میں بھی یہی حال ہے۔ مقتدی کے لیے مناسب ہے کہ قنوت میں اور وتروں کے وصل اور انقطاع میں امام کی پوری پوری اقتدا کرے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ امام اگر دو رکعت فصل کرے، مقتدی جوڑ لے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۳۸۷)

ناظرین! غور فرمائیں، اتحاد بین المسلمین کا سامان ابن عابدین اور طحاوی کی

رائے میں ہے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور طاش کبریٰ زاوہ کے ارشاد گرامی میں؟
 • معتزلہ کا خیال ہے کہ پیغمبر کو اجتہاد کا حق حاصل نہیں۔ اشاعرہ اور متکلمین نے بھی
 ان سے اتفاق کیا۔ عام ائمہ اصول کا خیال ہے کہ پیغمبر بوقتِ ضرورت اجتہاد کر
 سکتا ہے اور اسے وحی اور اجتہاد دونوں پر عمل کی اجازت ہے:

”وهو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا، وهو مذهب مالك
 والشافعي وعمامة أهل الحديث“ (كشف الأسرار: ۲/۹۲۵)

”اتحاف سے امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک اور عام اہل حدیث کا
 بھی یہی خیال ہے کہ پیغمبر اپنے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے۔“

یہاں اہل حدیث کا ذکر مذاہب اربعہ کے ساتھ علمائے اصول میں آیا ہے۔ مرسل حدیث
 کی حجیت کے تذکرے میں اہل حدیث پر تشبیح کرتے ہیں کہ وہ مرسل کو حجت نہیں سمجھتے:

”وفي رد المرسل تعطيل كثير من السنن، فإن المراسيل
 جمعت فبلغت قريبا من خمسين جزءا، وهذا تشييع عليهم،
 فإنهم سموا أنفسهم أصحاب الحديث، وانتصبا أنفسهم
 لحيازة الأحاديث“ اھ (كشف: ۳/۷۲۵)

”مرسل کی حجیت کے انکار سے حدیث کا بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ لوگ
 اہل حدیث کہلا کر حفاظتِ حدیث کی بجائے حدیث کو ضائع کر رہے ہیں۔“

اہل حدیث کی یہاں بھی مستقل حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ مرسل کی حجیت کی بحث
 بالکل الگ مسئلہ ہے۔ جس مرسل کو یہ حضرات حجت فرماتے ہیں، وہ دراصل حدیث ہی
 نہیں، اس کے انکار سے حدیث کا انکار لازم نہیں آتا۔

• علامہ ابن عابدین رد المحتار میں لفظ حنفی میں یائے نسبت کے تذکرے میں فرماتے ہیں:

”إن النسبة إلى مذهب أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم بنو حنيفة
 بلفظ واحد، وإن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل

محمد بن طاہر المقدسی بفرقون بینہما بزیادۃ بآء فی النسبۃ
إلی المذہب“ اھ (۱۶/۱)

”عراقی فرماتے ہیں: قبیلہ بنو حنیفہ اور مذہب ابو حنیفہ کی طرف نسبت میں حنفی درست ہے، لیکن بعض اہل حدیث کا خیال ہے کہ مذہب کی طرف نسبت میں حنفی کہنا چاہیے۔ محمد بن طاہر مقدسی علمائے اہل حدیث سے بھی یہی فرماتے ہیں۔“

اس میں ان کی رائے لغت اور زبان کے ماہر کی حیثیت سے ہے۔

• اذان اور اقامت میں لفظ ”اکبر“ کے اعراب کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وثانیہا: مخالفة لما فسرہ أهل الحدیث والفقہ“ اھ (شامی: ۱/۱۰۱)

”راء پر اعراب اہل حدیث اور فقہاء کی تفسیر کے خلاف ہے۔“

• ”وقف علی أصحاب الحدیث، لا یدخل فیہ الشافعی إذا لم یکن
فی طلب الحدیث، ویدخل فیہ الحنفی کان فی طلبہ أو لا“ اھ

(شامی: ۳/۳۶۵)

”کسی نے اہل حدیث کے لیے کوئی چیز وقف کی تو شافعی اگر حدیث کا طالب علم
ہو تو اس میں شامل ہوگا اور حنفی بہر حال شامل ہوگا، حدیث پڑھے یا نہ پڑھے۔“

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

• خوارج کے متعلق علماء کے اختلاف کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ذکر فی فتح القدیر أن الخوارج الذین یستحلون دماء
المسلمین وأموالہم، ویکفرون الصحابة، حکمہم عند جمہور
الفقہاء وأهل الحدیث حکم البغاة، وذہب بعض أهل
الحدیث إلی أنهم مرتدون. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا
وافق أهل الحدیث علی تکفیرہم“ اھ (شامی: ۱/۱۰۳)

”جمہور فقہاء اور اہل حدیث کے نزدیک خوارج باغی ہیں۔ بعض اہل حدیث

• تیری خنجر آزمائی سے دوستوں کا سر سلامت ہے۔

انھیں مرتد کہتے ہیں۔ ابن منذر فرماتے ہیں: تکفیر میں ان کی کسی نے تائید نہیں کی۔“

جمہور فقہاء کے ساتھ ان فقرا کا تذکرہ کتب فکر کی حیثیت سے ہوا ہے۔

اسی صفحہ میں اہل ہوئی کے متعلق محدثین کا تذکرہ اپنی تائید میں فرماتے ہیں:

”وكذا نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهل“ اھ (۳/۵۰۳)

”ائمہ اہل حدیث نے اہل ہوئی کی روایت کے قبول کے متعلق تصریح فرمائی ہے۔“

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من

أصحاب الحديث ابنته عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبى إلا أن

يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه“

”ایک حنفی نے شیخ ابو بکر جوزجانی کے وقت کسی اہلحدیث سے رشتہ طلب

کیا، اس نے شرط لگائی کہ اپنا مذہب چھوڑ کر فاتحہ خلف الامام اور رفع الیدین

شروع کرو، اس نے ایسا کر لیا۔“

شیخ جوزجانی فرماتے ہیں:

”نكاح تو ہو گیا، لیکن خیال ہے نزع کے وقت اس کا ایمان جاتا رہے گا۔

اگر دلائل کی بنا پر سابق مذہب کو ترک کر کے اہل حدیث ہو جائے تو اس

میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحسن ہے۔“

اس سے اہل حدیث کتب فکر کا تعین بھی ہو گیا اور اگر دلائل کی بنا پر کوئی اس

مسئلہ کو پسند کرے تو ابو بکر جوزجانی فرماتے ہیں: یہ بہتر ہے۔ آج کل حضرات دیوبند

کی اہلحدیث پر ناراضی کچھ بر عمل معلوم ہوتی ہے۔

بحر العلوم، مسلم الشبوت کی شرح میں جرح و تعدیل کے تعارض کی بحث میں

مشاجرات صحابہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور مظلومیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ سے کوئی شریک نہ تھا: ”ولم یکن فیہم واحد من الصحابة کما صرح به غیر واحد من اهل الحدیث“ (ص: ۴۴۲، طبع ہند)

”حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ سے کوئی شریک نہ تھا۔ اہلحدیث نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔“

یہاں اہل حدیث کے تاریخی موقف کی وضاحت فرمائی ہے، ان کی نقل رجال تاریخ اور مشاجرات صحابہ میں قطعیت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔

● علامہ عبدالعزیز بن احمد بن محمد بخاری (۲۴۸۱) مؤلف کتاب التحقیق شرح حسانی نے عبادلہ کی تعیین میں عبداللہ بن مسعود کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: ”وعند المحلثین عبد اللہ بن الزبیر مقام عبد اللہ بن مسعود“ (ص: ۱۶۳، طبع ہند)

یہاں فقہاء کے بالمقابل محدثین کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ رجال کی تعیین میں ان کا ایک مقام ہے اور اپنی مستقل رائے ہے۔

● بیخبر کے لیے اجتہاد کی اجازت کا ذکر فرماتے ہوئے شارح بزدوی کی طرح کتاب التحقیق کے مؤلف بھی فرماتے ہیں:

”هو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا، وهو مذهب مالك والشافعي وعمامة أهل الحدیث“ (کتاب التحقیق، ص: ۲۰)

”امام ابو یوسف، مالک، شافعی اور امام اہلحدیث کا یہی خیال ہے کہ بیخبر اپنے اجتہاد پر اگر ضرورت ہو تو عمل کر سکتا ہے۔“

مؤرخین و متکلمین کی رائے:

ابن خلدون اپنے وقت کے نقاد مؤرخ ہیں، جنہوں نے فن تاریخ کو قصص و حکایات

کی دلدل سے نکال کر اسے ایک نئی زندگی بخشی اور نئی عقیدے کے اسالیب کی طرف راہنمائی فرمائی۔

✽ ابن خلدون نے مقدمہ فرائض کے تذکرے میں فرمایا ہے:

”وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز، وكان الحديث في أهل العراق قليلاً كما قدمناه، واستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه: أبو حنيفة“ (مقدمہ ابن خلدون، ص: ۳۸۹، طبع مصر)

”فقہ کے دو طریق ہو گئے: فقہ العراق اور فقہ الحدیث۔ علمائے عراق میں حدیث کم تھی جس کی وجہ ذکر ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے رائے اور قیاس میں مہارت پیدا کی اور اہل الرائے کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے پیش رو امام ابو حنیفہ ہیں اور اہل حجاز کی فقہ کا نام فقہ الحدیث ٹھہرا۔“

ملا کا تب چلی (۱۰۶۷ھ) نے اصول فقہ کے تذکرہ میں امام علاؤ الدین حنفی کی کتاب میزان الاصول سے نقل فرمایا ہے:

”وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم“ (كشف الظنون، ص: ۸۹، دار الطباعة مصر)

”اصول فقہ میں معتزلہ اور اہل حدیث کی تصانیف زیادہ ہیں۔ معتزلہ اصول میں ہمارے مخالف ہیں اور اہل حدیث فروع میں، اس لیے ان کی تصانیف پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔“

✽ نواب صدیق حسن خاں بریلوی نے ابجد العلوم (۲/۵۶۵) میں کشف الظنون کی

عبارت نقل فرمائی ہے اور فقہ العراق اور فقہ الحدیث کا تذکرہ فرمایا، پھر تقلید اور عمل بالحدیث پر مختصر تبصرہ فرمایا اور مذاہب ائمہ کی اشاعت اور کتب طبقات کی عصیت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ خواہ مخواہ ہر آدمی کو ادنیٰ ممارست اور توافقی سے اپنے مذہب میں شامک کر لیتے ہیں۔ پھر ان اقطار اور بلاد کا ذکر فرمایا، جہاں یہ مذاہب عام اور شائع ہوئے اہل حق کی کتابوں کو کس طرح طاق نسیاں کی نظر کیا گیا۔ فرماتے ہیں:

”فلم یبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحدیث من الحجاز“ (۲/۵۶۶)

”اس تعصب کی دستبرد کے باوجود اہل الرائے عراق میں اور اہل حدیث حجاز میں باقی رہ گئے۔“

تقی الدین احمد بن علی مقریزی (۸۴۵ھ) نے فرمایا کہ جب ملک ظاہر بھروس بندقداری نے ۶۲۲ھ میں مدرسہ ظاہریہ کی بنیاد رکھی اور اس کے مصارف کے لیے بہت بڑا وقف کیا تو اس میں مختلف مکاتب فکر کی تدریس کے لیے مختلف ایوان بنائے۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے:

”وجلس أهل الدروس كل طائفة في إيوان، منها: الشافعية بالإيوان القبلي، ومدرسهم الشيخ تقي الدين محمد بن حسن بن رزين الحموي، والحنفية بالإيوان البحري، و مدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحمان بن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحلبي، وأهل الحدیث بالإيوان الشرقي، ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي“ (الخطوط: ۲/۲۱۷)

”تمام علما اپنے اپنے ایوان میں درس دینے لگے۔ شافعی سامنے کے ایوان میں تھے، ان کے صدر مدرس تقی الدین محمد بن حسن حموی تھے۔ حنفی سمندری

ایوان میں، ان کے صدر مدرس عبدالرحمن بن العدمیم طہی تھے اور اہل حدیث شرقی ایوان میں درس دینے لگے، ان کے صدر مدرس شیخ شرف الدین عبدالمومن بن خلف دمیاطی تھے۔“

یہ ساتویں صدی ہے، اس میں بھی شاہی مدرسے میں دوسرے مکاتب کے مقابل اہلحدیث کے لیے مستقل ایوان ہے۔

مقریزی فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ اب بھی موجود ہے، کسی قدر فرسودہ ہو چکا ہے۔ حنفی اور شافعی اس کی نظامت کے متعلق دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں۔

● مقریزی اہل مصر کے مذاہب اور ارباب مذاہب کی تبدیلیوں اور اس کے اسباب کا ذکر فرماتے ہیں:

”وكانت أفریقة الغالب علیها السنن والآثار إلی أن قدم عبد الله بن

فروج أبو محمد الفارسی بمذهب أبي حنیفة“ اھ (الخطط: ۸/ ۱۴۴)

”افریقہ میں ابتدا میں سب لوگ سنن و آثار (مسک لکھ حدیث) کے پابند تھے،

یہاں تک کہ شیخ عبداللہ بن فروج حضرت امام ابوحنیفہ کا مسلک لے کر آ گئے۔“

● مقریزی افریقہ میں مالکی مذہب کی اشاعت کے متعلق فرماتے ہیں:

”وصار القضاء فی أصحاب سحنون دولا يتصاولون علی

الدنیا تصاول الفحول علی الشول“ (۸/ ۱۴۴)

یعنی سحنون کے رفقاء مملکت قضا پر اس طرح حملہ آور ہوتے جس طرح نراونٹ مادہ پر۔

اس کے بعد آگے حنفی مذہب کی اشاعت کے متعلق لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف

کا مہیون منت ہے۔ اہل حدیث بچارے اس جنگ میں کہاں کامیاب ہوتے، جب

انہوں نے کسی حکومت کی سرپرستی ہی قبول نہیں فرمائی؟

● شعرانی تمام ائمہ سنت کا احترام کرتے ہیں، انہیں سب سے عقیدت ہے، اس کے اظہار

میں وہ بڑے ہی وسیع الخرف ہیں۔ میزان صغریٰ میں امام شافعی سے نقل فرماتے ہیں:

”كان -رضي الله عنه- يقول: أهل الحديث في كل زمان كالصحابه في زمانهم، وإذا رأيت صاحب حديث، فكأنما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يقول: إياكم والأخذ بالحديث الذي جاءكم من العراق إلا بعد التفتيش“ (ص: ٥٧)

”امام شافعی فرماتے ہیں: اہل حدیث ہر دور میں صحابہ کی طرح ہیں، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے صحابی کو دیکھا، اور فرماتے ہیں، اہل عراق کی حدیث تفتیش کے بغیر مت قبول کرو۔“
ابوبکر بن عیاش نے فرمایا:

”أهل الحديث في أهل الإسلام كالإسلام في سائر الأديان“

(ص: ٥٦)

”اہل حدیث اسلامی فرقوں میں اس طرح ہیں جیسے اسلام باقی دینوں میں۔“
ابوالعباس بن شریح فرماتے تھے:

”أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء“ (ص: ٥٤)

”اہل حدیث کا درجہ فقہاء سے اونچا ہے۔“

امام ابو منصور عبدالقادر بن طاہر بغدادی کی مختلف مذاہب اور فرقوں کے متعلق بڑی جامع کتاب ہے۔ اہل سنت کے مختلف مسالک کا ذکر فرماتے ہیں:

”والصنف الثاني منهم أئمة الفقه من فريق الرأى والحديث من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وصفاته الأزلية“ (الفرق بين الفرق، ص: ٣٠٠)

”دوسری قسم فقہاء کی ہے، جن میں اہل الرائے اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ازلیہ کو بلا تاویل مانتے ہیں اور تشبیہ اور تعطیل

کے قائل نہیں۔“

اسی کتاب میں آگے چل کر اہل تصوف کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”کلامہم فی طریقہ العبارة والإشارة علی سمت اهل
 الحدیث دون من یشتري لهو الحدیث“
 ”ان کا انداز گفتگو اور اشارات اہل حدیث کی طرح ہیں، اہل لہو و لعب کی
 طرح نہیں۔“

اسی طرح ان دونوں فریق کا ذکر صفحات (۳۱۳، ۳۰۲، ۱۱۳، ۷، ۱۳۱۳) میں
 مرقوم ہے۔ اس کتاب میں اہل حدیث کا ذکر اکثر مقامات پر آیا ہے، کہیں بطور روایت
 حدیث اور کہیں بطور مکتبہ فکر۔

خذ بطن هرشا أو قفاها فإنه

کلاما جانبی هرشا لهن طریق^①

یہ لوگ دین کا ہر کام کرتے رہے، لیکن نہ کسی فرقے کی تائیس کی نہ کسی دھڑے
 کے لیے دعوت دی، نہ اشخاص کی محبت ہی ان پر اس قدر غالب ہوئی جس سے
 دوسرے کی تنقیح لازم آئی۔ ان کی نظر اشخاص سے زیادہ دلائل پر رہی، شخصی تعقید سے
 زیادہ انھوں نے مسائل کی تحقیق فرمائی۔

❖ امام ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (۳۳۰ھ) ”مقالات الإسلامیین“ میں
 فرماتے ہیں:

”جملة ما علیه اهل الحدیث والسنة: الإقرار بالله، وملائكته،
 وكتبه، ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن
 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يردون من ذلك شيئا، وأن
 الله -مبجانه- واحد صمد لا إله غيره“ (ص: ۲۲)

① ہرشا کا پیٹ پکڑنا گدی، یہ دونوں ہی ہرشا کے دو پہلو اور ان کا راستہ ہیں۔ (ہرشا کہ اور مدینہ
 کے درمیان میں ایک داوی کا نام ہے)

”اہل حدیث اور ائمہ سنت کا عقیدہ ہے: اللہ تعالیٰ کا اقرار، ملائکہ اور فرشتوں اور رسولوں کا اقرار، کتابوں کا اقرار، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور جو ثقہ راویوں نے روایت کیا۔ اس میں وہ کسی چیز کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اکیلا اور بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

اس کے بعد آگے اہل حدیث کے عقائد کا تذکرہ کئی اوراق میں فرمایا۔ یہ تذکرہ معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کے بالتقابل فرمایا، جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اہل حدیث ائمہ اعتزال اور مشکلمین کے مد مقابل ہیں۔

ابن ندیم نے علمائے عراق، ائمہ شوافع، موالک، امام داؤد ظاہری، فقہائے شیعہ کا مبسوط تذکرہ کرنے کے بعد فقہاء ائمہ شافعیین و اصحاب الحدیث کا تذکرہ فرمایا۔ سن سادس سے تقریباً ۶۳ فقہائے حدیث کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں امام بخاری، سفیان ثوری، ابن ابی ذئب، سفیان بن عیینہ، ابن ابی عروبوہ، اسماعیل بن عیید، عبد اللہ بن مبارک، امام احمد، عثمان بن ابی شیبہ، ترمذی، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، ابو داؤد، مسلم وغیرہ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے فقہائے حدیث اگر مکتب فکر نہیں تو پھر انھیں ائمہ عراق وغیرہ سے الگ عنوان کے ماتحت کیوں ذکر فرمایا؟ حالانکہ امام ابو جعفر طحاوی وغیرہ حفاظ حدیث موجود ہیں، لیکن ہر حافظ حدیث اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ امام محی الدین یحییٰ بن شرف النوادی صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں:

”إن الواجب ضربة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعمامة أصحاب الحديث“ (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱/ ۱۰۰)

”تیمم میں چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ضرب ضروری ہے۔ عطاء، مکحول، اوزاعی، احمد، اسحاق، ابن منذر، اور ائمہ اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔“

طلاق الحائض کے متعلق فرماتے ہیں کہ مطلق کو رجوع کے لیے کہنا چاہیے:

”ہذا مذہبنا، وبہ قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون“

(صحيح مسلم مع شرح النووي: ۱/ ۴۷۵)

”ہمارا اور اوزاعی، ابوحنیفہ اور تمام ارباب کوفہ، احمد، فقہائے محدثین اور بعض دوسرے علماء کا بھی یہی خیال ہے۔“

ذہبی نے طبقات الحفاظ، ابو محمد الفضل بن محمد کے تذکرہ میں فرمایا:

”ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير، وما ذكرنا عشرهم هنا، وأكثرهم مذكورون في تاريخي، وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة، والشيعه، وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء العقول، وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقض الاجتهاد“ اھ (تذكرة الحفاظ ذہبی: ۲/ ۶۳۷)

”اس زمانے (۲۸۲ھ) میں ائمہ حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہاں میں نے ان کا عشرِ عشر بھی نہیں لکھا، میں نے ان کا مفصل تذکرہ اپنی تاریخ اسلام میں کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ رائے اور فقہائے فروع اور شیعہ اور معتزلہ سے بھی اہل علم کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، انہوں نے اپنی عقول کو راہبر بنایا، آثارِ نبویہ اور سلف کی راہ سے اعراض کیا، اور فقہاء میں تقلید اور تناقض اجتهادات کی گرم بازاری ہوئی۔“

ذہبی اس شذرہ کے آخر میں فرماتے ہیں:

”میرا خیال ہے کہ جب کہیں وقت محسوس ہوئی، تم ہوئی کے کندھوں پر سوار ہو کر کہنے لگو گے: احمد کون ہے؟ علی بن مدینی کیا ہے؟ ابو زرعد اور ابو داؤد کی حیثیت کیا ہے؟ یہ لوگ صرف محدث ہیں، یہ فقہ نہیں جانتے۔ اصول فقہ

سے ناواقف ہیں، رائے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، معانی، بیان، منطق اور علم البرہان سے نا آشنا ہیں، خدا کو دلائل سے نہیں مانتے۔ ذہبی فرماتے ہیں: یا تو چپ رہو یا علم کے ساتھ گفتگو کرو، علم وہی ہے جو ان لوگوں کی معرفت آئے۔“

اس مقام پر ائمہ حدیث کا تذکرہ فقہاء مجتہدین کے بالمقابل ذکر فرمایا ہے، ان کے تفقہ اور ان کے علم کی حقانیت کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں تقلید اور تقاض اجتہادات کا دنیا میں فروغ ہو رہا ہے اور علوم حقہ اور اہل فن پر طعن کی راہیں کھل رہی ہیں۔

❁ بقی بن مخلد کے تذکرہ میں مرقوم ہے:

”وقد تعصبوا علی بقی لإظهاره مذهب أهل الأثر فدفع عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن المررواني، واستنسخ كتبه، وقال لبقی: انشر علمك“ (تذکرۃ الحفاظ: ۲/۶۳۰)

”بقی بن مخلد نے اہل حدیث اور آثار کے مسلک کا اظہار کیا، لوگ ان پر تعصب کرنے لگے۔ اندلس کے امیر محمد بن عبدالرحمن مروانی نے ان کو ہٹایا اور ان کی کتابیں نقل کرائیں، اور فرمایا: تم اپنے علم، یعنی آثار اور احادیث، کی اشاعت کرو۔“

❁ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر حمیدی کے تذکرہ میں فرمایا:

”كان ورعاً ثقة إماماً في الحديث، وعلله، ورواته، متحققاً في علم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة“^①

”حمیدی پر ہیزگار، متقی اور امام تھے۔ حدیث اور روایۃ کے عقل کو جانتے تھے۔ اہل حدیث کے مذہب کے مطابق اور کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے اصول وضع فرمائے۔“

① تذکرۃ الحفاظ (۴/۱۲۹)

امام نووی صحیح مسلم کے باب المساقاة کی شرح میں فرماتے ہیں:

”وبه قال مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين“ (۱۴/۲)

اسی صفحہ میں مرقوم ہے:

”وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد وسائر الكوفيين، وفقهاء المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة“ (۱۴/۲)

”مساقات اور مزارعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے مالک، ثوری، لیث، شافعی، احمد اور تمام فقہائے محدثین نے۔ اور اسی طرح مزارعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ابن ابی لیلیٰ، ابو یوسف، محمد اور تمام علمائے کوفہ اور فقہائے محدثین اور احمد اور ابن خزيمة نے۔“

ابواب شفعہ میں امام نووی نے فرمایا:

”وقال الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ“ (مسلم: ۳۲/۲)

”منہجہ ذکر علماء اور اہل حدیث کا خیال ہے کہ ہمسائے کو شفعہ کا حق حاصل نہیں۔“
پڑوسی کی دیوار پر لکڑی رکھنے کے متعلق فرمایا:

”والثاني: الإيجاب، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث“ (مسلم: ۳۲/۱)

”احمد، ابو ثور اور اصحاب الحدیث کا خیال ہے کہ ہمسائے کو دیوار پر لکڑی کی اجازت ضروری ہے۔“

ان تمام مواقع میں اہل حدیث کا تذکرہ مکتب فکر کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے تیمم کے تذکرہ میں فرمایا کہ ”وجہ“ اور ”کفین“ پر تیمم کے لیے ایک ضرب کے جواز کی طرف ذیل کے ائمہ گئے ہیں:

”وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خزيمة، ونقله أبو الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث“ (فتح الباري: 1/ 304)

”امام احمد، اسحاق، ابن جرير، ابن منذر، ابن خزيمة اور امام مالک کا خیال ہے کہ تیمم منہ اور دونوں کف پر کیا جائے۔ خطابی فرماتے ہیں: اصحاب الحدیث کا بھی یہی مذہب ہے۔“

❁ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاسماء واللغات“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑے دلنشیں انداز میں کیا ہے، یہ تذکرہ کئی اوراق میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقام پر امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرمایا:

”قال محمد بن الحسن -رحمه الله- إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي“ (50/1)

”اصحاب الحدیث اگر گفتگو کریں گے تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہوگی۔“
یعنی امام شافعی کی کتابیں ان کی راہنمائی کریں گی۔

❁ حسن بن محمد زعفرانی فرماتے ہیں:

”كان أصحاب الحديث رقاداً فأيقظهم الشافعي“ (50/1)

”الحدیث سو رہے تھے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جگا دیا۔“

❁ امام احمد کے ایک توضیحی ارشاد میں فرمایا:

”فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله“ (50/1)

”یہ الحدیث کے امام کا قول ہے۔“

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث امام احمد، امام شافعی اور امام محمد سے پہلے موجود تھے، یہ ائمہ بھی الحدیث تھے، ان کے علوم سے اہل حدیث کو فائدہ پہنچا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ عام علماء اور فقہائے خراسان کی زبان میں امام شافعی کے شاگردوں کا لقب اہل حدیث ہوا۔

تقلید اور جمود کا دور:

تقلید اور جمود کی ان تیرہ صدیوں میں کیا کیفیت رہی؟ اس کے متعلق صحیح اور نقلی رائے اور اس کے مدد جزر کا جائزہ لینے کے لیے گہرے اور عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ ائمہ کی تصریحات اور مذہبی فرقوں کے عروج و زوال کی تاریخ اور مختلف فرق اور ملل و نحل کی کتابوں کے سرسری جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ خیر میں تمام علما مجتہد نہیں تھے، لیکن ائمہ اجتہاد کی کافی تعداد پائی جاتی تھی، اور ایسے اہل علم جو درجہ اجتہاد کو تو نہیں پہنچے، لیکن مسائل اور دلائل پر بقدر ضرورت ان کی نظر تھی، ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ احادیث کے حفظ کے ساتھ انھیں اللہ تعالیٰ نے تلقہ بھی عطا فرمایا تھا۔ عوام، جو دیوبی مشاغل کی وجہ سے علمی مشغلہ نہ رکھ سکے، بڑی تعداد میں موجود تھے، ان میں سب بوقت ضرورت اپنے سے بہتر علماء کی طرف توجہ فرماتے۔

ایک عام آدمی کے لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پہلے مجتہد کی تلاش کرے۔ وہ بچارا اتنا عالم ہوتا تو اسے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی؟ وہ جسے عالم سمجھتے، اس سے دریافت کرتے، نہ اجتہاد کا امتحان لیتے نہ مجتہد کا تعین کرتے، بلکہ تقلید کی اتنا شخص اور غیر شخصی سے وہ لوگ نا آشنا تھے۔ جسے قرآن و سنت اور درس و تدریس میں مشغول دیکھتے، اس سے دریافت فرماتے۔ دینی فطرت کی بنا پر اطمینان ہو جاتا تو عمل کرتے ورنہ دوسرے عالم کی طرف رجوع کرتے، نہ مجتہد کے لیے بے قرار ہوتے نہ کسی ایک عالم کی تعین فرماتے۔ یہ بالکل فطری اور طبعی سا طریقہ تھا، جس کے وہ پابند تھے۔ اس روش کی موجودگی میں فرقہ پردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر فرمایا:

”اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على

التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه“ اھ (حجة الله البالغة: ۱/ ۱۲۲)

”لوگ چوتھی صدی سے پہلے کسی خاص شخص کی تقلید پر جمع نہیں تھے۔“

اس کے بعد ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“ (۲/۳۶) سے ذکر فرمایا کہ شخصی تقلید اور فہیات کے مجموعے سب محدث ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری صدی کے بعد کسی قدر تخریج مسائل کا رواج ہوا۔ چوتھی صدی تک بھی لوگ ایک امام کی تقلید کے پابند نہ تھے۔ اجماعی مسائل میں وہ صرف آنحضرت ﷺ کے ارشادات کی پابندی فرماتے۔ نماز، روزہ، وضو، وغیرہ کے تمام مسائل اپنے شہر کے علماء سے بلا تخصیص دریافت فرمالتے:

”وإذا وقعت لهم واقعة، استفتوا فيها أي مفت و جدوا من غير تعيين مذهب، وكان من خبير الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث“ (۱/۱۶۲)

”اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو بلا تعین کسی مفتی سے دریافت فرمالتے، اور خواص کا یہ حال تھا کہ ائمہ حدیث، حدیث میں مشغول ہوتے۔ احادیث اور آثار صحابہ سے انھیں اتنا ذخیرہ میسر آ جاتا، جس سے انھیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہتی، نہ وہ اقوال رجال کی طرف رجوع ہی فرماتے۔“

دوسری صدی تک ائمہ حدیث کا اثر غالب تھا، عوام اسی مسلک کے پابند تھے۔ تیسری اور چوتھی صدی میں اس کے ساتھ تقلید کی آمیزش ہونے لگی۔ یہ تقلید ازہم جمود نہ تھی، اس کا انداز تلذذ اور درس و تدریس کے اثرات سے زیادہ نہ تھا۔ عقیدت تھی، لیکن عصبیت نہ تھی۔ علم کم ہو رہا تھا، سنت کے حفظ و ضبط سے عوام گھبراتے تھے اور مشہور ائمہ کی آرا اور اجتہادات پر عمل روز بروز بڑھ رہا تھا۔ چوتھی صدی کے اواخر میں تقلید کی رسم عام ہو گئی۔ جمود اور عصبیت کے آثار پیدا ہو گئے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابوطالب مکی صاحب قوت القلوب، ابوشامہ مؤلف المؤمل اور شاہ ولی اللہ صاحب ہدایہ کے ارشادات بھی قریباً اسی طرح ہیں، جن کا اوپر تذکرہ ہوا۔

امام ابو جعفر الطحاوی (۵۳۲ھ) کی مختصر اور معانی الآثار ملاحظہ فرمائیں، امام ابن تیمیہ کو ان کی روش پر اعتراض ہے کہ وہ حقیقت کی نامناسب حمایت فرماتے ہیں۔ ائمہ حدیث کی نظر میں وہ متعصب شمار ہوتے ہیں۔ بیہقی نے سنن کبریٰ معلوم ہوتا ہے انہی کے جواب میں لکھی، لیکن آپ ان دونوں کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام طحاوی کی روش آج کے دیوبند سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف فرماتے ہیں۔ کبھی صاحبین کا قول اختیار فرماتے ہیں، کبھی ان سے کسی ایک کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں۔ بعض مقامات پر امام شافعی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب اور صاحبین "ضب" کو حرام سمجھتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں:

”ونحن لا نرى باكله بأماً“ (مختصر الطحاوی، ص: ۴۴۱)

”ہم گوہ کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔“

امام طحاوی اونٹ کے پیشاب اور گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں۔ (مختصر الطحاوی، ص: ۴۴۱)

یہ چوتھی صدی کے اس امام کا عمل ہے جسے متعصب سمجھا جاتا تھا۔ آج کے

حضرات دیوبند غور فرمائیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟

غرض پانچویں اور چھٹی صدی میں عصیبت اور جمود کے بادل اور بھی گہرے

ہو گئے اور محققین کی شدید قلت محسوس ہونے لگی۔ نمائشی القاب اور فقہی موخگانیاں مدار علم

قرار پائیں، اور قریباً آٹھویں صدی تک یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ مولانا عبدالحی کھنوی رحمۃ اللہ علیہ

بحوالہ سخاوی ”شیخ الاسلام“ کے لفظ کے استعمال کے متعلق فرماتے ہیں:

”ثم امتتہر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتدلت على رأس

المائة الثامنة، فوصف بها من لا يحصى، وصار لقباً لمن ولي

القضاء الأكبر، ولو عرى من العلم والسنن فإننا لله وإنا إليه راجعون“

”ائمہ سلف کے بعد شیخ الاسلام کا لقب آٹھویں صدی ہجری میں ذلیل ہو گیا

اور بے شمار نوجوان لوگوں پر بولا جانے لگا جو علم سے بالکل خالی تھے۔“

یہ امام سخاوی کی رائے تھی۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں:

”ثم صارت الآن لقباً لمن تولى منصب الفتوى، وإن عرى عن لباس العلم والتقوى“ اھ (الفوائد البهية، ص: ۱۰۱)

”اب یہ ان لوگوں کا لقب بن گیا جنہیں اتفاقاً فتویٰ نویسی کا موقع مل گیا، خواہ علم و تقویٰ سے کلی طور پر خالی ہوں۔“

غرض آٹھویں صدی تک جمود کا مرض چھا گیا۔ اہل حق ضرور موجود تھے، لیکن ان کی آواز کو غیر ذوق کر دیا گیا، ان کی کاوشیں نہاں خانوں کی نذر ہو گئیں۔ اگر کہیں موقع ملا تو بعض کتابیں نذر آتش کر دی گئیں۔ لوگوں کو ان کے مطالعہ سے روکا گیا اور ایسے لوگوں کو شدید سزائیں دی گئیں، قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ آٹھویں صدی کے پس و پیش کچھ تیز اور تند آوازیں اس جمود کے خلاف اٹھیں، بعض مجددین نے ارباب جمود کے ساتھ وقت کی حکومت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جو اپنی سیاسی مصالحت کی بنا پر ان غلط نواز حضرات کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، علامہ ابن دینس العید: ان بزرگوں نے اس جامہ فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا اور اصلاح کے ایک ہمہ گیر پروگرام کی طرف متوجہ کر دیا۔ ان حضرات نے پھر سے مسلک اہل حدیث سے پردہ اٹھایا۔ ائمہ حدیث اور فقہائے محدثین کی روش سے عوام کو آگاہ کیا، ان کی کتابوں میں مسلک اہل حدیث کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔

● شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں:

”ومن أهل السنة مذهب معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا، والشافعي، وأحمد، فإنه مذهب الصحابة تلقوه عن نبهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة“ (۲/۲۵۲)

”اہل سنت کا ایک مسلک ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کی پیدائش سے بھی پہلے دنیا میں

موجود تھا، وہ صحابہ کا مذہب تھا جو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سیکھا۔ جو اس کے خلاف ہو وہ بدعتی ہے۔“

● افعال باری کے ذکر میں فرمایا:

”وہذا جواب كثير من الحنفية، والحنبلية، والصوفية، وأهل الحديث“ (ص: ۱۷۹)

● ”یہی جواب ہے اکثر احناف، حنابلہ اور صوفیہ اور اہل حدیث کا۔“
چند سطر کے بعد فرمایا:

”فإن أهل الحديث من أعظم الناس بحثا عن أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها“ (۱۷۹/۲)

● ”اہل حدیث آنحضرت ﷺ کے اقوال کی سب سے زیادہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے اتباع کے لیے ان کو بے حد رغبت ہے۔“

● ”فہم (اہل الحدیث) فی أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، يؤمنون بكل رسول وبكل كتاب، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا“

(۱۷۹/۲، نفض المنطق، ص: ۳۳)

● ”اہل حدیث اسلامی ممالک میں ایسے ہیں جیسے اسلام تمام مذاہب میں، ہر رسول اور ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور تفریق نہیں کرتے۔“
ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

● ”وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اقتصوا باتباع الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم ﷺ في الأصول والفروع“ (۱۷۳/۲)

● ”اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اصول اور فروع میں کتاب و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔“

اس کے بعد مختلف گروہوں کے اختلافات کا ذکر فرما کر فرمایا:

”ثم بعد ذلك اختلاف أهل الحديث، وهم أقل الطوائف اختلافاً في أصولهم“ (۳/۳۱)

”الحدیث کا اصول و عقائد میں بہت کم اختلاف ہے۔“ اہل حدیث کا تذکرہ علماء عقائد کے ضمن میں آیا ہے کہ ان لوگوں میں اختلاف بہت ہی کم ہے۔

اس موضوع کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے شیخ الاسلام نے لکھا ہے:

”فليس الضلال والبعثي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في المرافضة كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث“ (۲/۲۴۲)

”سب سے زیادہ بے راہ روی و انحراف میں ہے اور سب سے زیادہ ہدایت اور نیکی اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔“

منہاج السنہ میں سرسری نظر سے الحدیث کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ استیعاب سے دیکھا جائے تو پوری کتاب الحدیث کے ذکر خیر سے بھرپور ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب ”نقض المنطق“ کا آغاز مندرجہ ذیل سوال سے کیا ہے اور پوری کتاب اس سوال کے جواب میں ہے۔

سوال:

اعتقادات میں متاخرین اور سلف کے مذہب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور ان دونوں سے آپ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ مسلک الحدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حق پر ہیں یا ان کے مخالف؟ فرقہ ناجیہ سے کیا مراد ہے؟ ائمہ اہل حدیث کے بعد کوئی ایسے علوم ہوئے ہیں جسے وہ نہ جانتے ہوں؟ جو لوگ غلطی کو فرض کفایہ کہتے ہیں، آیا یہ درست ہے؟

پوری کتاب (۲۱۱) صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ ابتدا میں شیخ الاسلام نے صفاتِ باری میں تفویض کا ذکر فرمایا، تشبیہ و تجسیم اور تعطیل کی نفی فرمائی اور فرمایا: اس باب میں ائمہ اربعہ اور اہل سنت کا وہی مذہب ہے جو اہل حدیث کی طرف منسوب ہے۔ اعتزال، مجسم، تعطیل و تشبیہ اور تجسیم کی راہیں بدعت کی ہیں۔ فلاسفہ اور مشکمین کے مد مقابل عقل و نقل ہیں۔ جس جماعت نے ان بدعات کا صدیوں مقابلہ کیا وہ اہل حدیث ہی تھے۔ امام اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی (۴۳۹ھ) کا قول ذکر فرمایا:

”إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى۔ بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكيف المشبه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية“ (نقض المنطق، ص: ۴)

”اہل حدیث کتاب و سنت سے تمسک کرتے ہیں اور خدا کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں یا صحیح احادیث میں ثقات سے منقول ہیں، نہ اس میں تشبیہ ہے نہ کیفیت کا بیان، نہ معتزلہ اور جہمیہ کی طرح تحریف۔“

اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”الاجدیث اچھی باتوں میں تمام لوگوں کے ساتھ متفق ہیں۔ بعض چیزوں میں عام لوگوں سے ممتاز ہیں، ان کے مخالف معقول، منقول، قیاس، رائے، کلام، نظر و استدلال، حجت، مجادلہ، مکالمہ، وجد و ذوق وغیرہ سے الاجدیث کا مقابلہ کریں تو اہل حدیث ان تمام طریقوں میں ان سے بدرجہا بہتر اور اعلیٰ ہیں۔“

آخر میں فرمایا:

”وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة

والحدیث بالنسبة إلى سائر الملل“ (ص: ۸)

”مسلمانوں میں ذہانت اور خوبیاں تمام امتوں سے زیادہ ہیں، اہل حدیث

میں باقی مذاہب سے زیادہ ہے۔“

فرمایا: ائمہ اربعہ اور باقی تمام فقہائے محدثین کو دنیا میں اس لیے برتری حاصل ہے کہ وہ ائمہ اہل حدیث اور سنت کے موافق تھے، اسی طرح بدعتی فرقوں کا حال ہے، جہاں تک وہ اہل حدیث کے موافق ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے اور جہاں تک وہ اہل حدیث کے مخالف ہیں علمی حلقوں میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ (ص: ۶ سے ۱۱)

گویا حق و باطل کا معیار ہمیشہ اہل حدیث رہے ہیں۔ شیخ الاسلام اسی لقب کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو

كتابته، أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق لحفظه ومعرفة

وفهمه ظاهراً وباطناً واتباعه باطنياً وظاهراً، وكذلك أهل القرآن“

(نقض المنطق، ص: ۸۱)

”اہل حدیث اور اہل قرآن سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو صرف حدیث

کے سماع یا روایت یا کتابت تک ہی محدود ہوں، بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو

حدیث کے حافظ، اس کے مفہوم کو ظاہری اور باطنی طور پر پوری طرح سمجھتے

ہوں اور پوری طرح اس کا اتباع بھی کرتے ہوں، یعنی ان میں بصیرت

اور تقویٰ بدرجہ اتم موجود ہو۔“

صفحہ (۷۴) پر لکھتے ہیں:

”إن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية“

”بے دین لوگ اہل حدیث کو لفظ پرست اور حشوی کہتے ہیں۔“

اس کے بعد فرمایا:

”فقهاء الحدیث أخبر بالرسول من فقهاء غیرہم، وصوفیتہم أتبع للرسول من صوفیة غیرہم، وأمرأہم أحق بالسیاسة النبویة من غیرہم، وعامتہم أحق بموالاة الرسول من غیرہم“
(نقض المنطق، ص: ۸۱)

”فقہائے اہل حدیث دوسرے فقہاء سے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے صوفیوں سے اہل حدیث صوفی آنحضرت ﷺ کے زیادہ اطاعت گزار ہیں۔ ان کے اہل سیاست، سیاست نبوی کو دوسرے امرا سے بہتر سمجھتے ہیں، ان کے عوام دوسرے فرقوں کے عوام سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔“

ابن ابی قتیبہ نے اہل حدیث کے متعلق ”قوم سوء“ کہا تو امام احمد ناراض ہوئے اور تین دفعہ فرمایا: یہ زندیق ہے۔

ایک جگہ فرمایا: علمائے اہل حدیث کا مخالف منافق ہے یا جاہل۔ (ص: ۸۵)
پھر ارشاد فرمایا:

”انتباہ! ضروری ہے کہ جو آدمی کسی طرح بھی سمجھے کہ کوئی گروہ امور غیبیہ کے حقائق کو اہل حدیث سے بہتر سمجھتا ہے یا اللہ پر ایمان اور واجب الوجود اور نفس ناطقہ اور تزکیہ کو زیادہ جانتا ہے تو اس میں نفاق کی بو ہوگی۔“ (ص: ۱۱۵)
”والثانی: إنا ذکرنا عن نقل مذهب السلف من جمیع طوائف المسلمین من طوائف الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحدیث والتصوف وأهل الکلام کالاشعری“ (ص: ۱۳۵)

”ہم نے سلف کے مسلک کی نقل مسلمانوں کے تمام گروہوں میں سے کی ہے: فقہائے مذاہب اربعہ، اہل حدیث، اہل تصوف اور متکلمین وغیرہ۔“

پوری کتاب میں اسی انداز سے مسلک اہل حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پرانا اور اہم کتب فکر ہے، جس کے تحقیق کارنا سے فقہ، تصوف،

حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، کلام، تجوید، غرض علوم کے تمام گوشوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

القواعد النورانية:

شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸ھ) نے "نقض المنطق" میں منکلمانہ انداز سے مختلف فیہ مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ فقہی فروع میں ان کی کتاب "القواعد النورانية" کے نام سے مشہور ہے، اس میں فقہی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل اور فقہاء محدثین کے فقہیات پر محققانہ بحث فرمائی ہے۔ اس میں مسلک اہل حدیث کا تذکرہ بطور مکتب فکر بار بار فرمایا ہے۔ کتاب کے شروع ہی میں اہل کوفہ اور اہل حجاز کے فقہی نظریات کے تذکرہ میں اہل حدیث کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اہل مدینہ کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر مسکر کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن کھانے کی چیزوں کے متعلق ان کی رائے مختلف ہے۔ وہ شکاری اور غیر شکاری سب پرندوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ حشرات الارض کے متعلق بھی ان کی قریباً یہی رائے ہے۔ ایک روایت میں حلال اور ایک روایت میں انہیں مکروہ سمجھتے ہیں۔ فقہائے کوفہ کی رائے مشروبات کے متعلق اہل مدینہ سے مختلف ہے۔ وہ خمر صرف اگور کی شراب کو سمجھتے ہیں اور باقی مسکرات کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ کھانے کے متعلق یہ حضرات تشدد ہیں، گھوڑے اور ضب کو حرام سمجھتے ہیں۔

شیخ الاسلام اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

"ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط

بين العراقيين والحجازيين" (القواعد النورانية، ص: ۱)

اسی نسق میں شیخ فرماتے ہیں:

"فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة و سائر

أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي -صلى الله

عليه وسلم- وأصحابه في التحريم" (ص: ۳)

”اہل حدیث نے اشرہ کے متعلق اہل مدینہ اور باقی مسلم ممالک کے عمل کو سنت مشہورہ کے موافق حرام سمجھا۔“

اس کے بعد چند سطور میں اس کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

”وَأَخَذُوا فِي الْأَطْعِمَةِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَصِحَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيُورِ، وَتَحْرِيمِ لَحُومِ الْحَمَرِ“ (ص: ۴)

”اور کھانے کے متعلق ائمہ اہل حدیث نے اہل کوفہ کے مذہب کو سنت کے مطابق پابیا، اڑنے والے اور جنگلی درندوں اور اہلی گدھوں کو حرام تصور فرمایا۔“

ان کی نظر میں قرآن اور احادیث کی ایک ہی حیثیت ہے۔ آخر میں اہل حدیث نے ان مسائل میں اہل مدینہ اور اہل کوفہ سے کلی اتفاق نہیں فرمایا، بلکہ گھوڑے اور ضب وغیرہ کو حدیث کی بنا پر حلال فرمایا ہے، اور اہل مدینہ کے ساتھ بعض اشرہ میں اختلاف کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ان مسائل میں مذہب اہل حدیث کا تفصیلی تجزیہ فرمایا ہے، جسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مضمون پھیلتا جا رہا ہے، اس کو مختصر کرنے کے لیے ”توابع نورانیہ“ کے صفحات لکھے جا رہے ہیں، جہاں شیخ الاسلام نے اس مکتب فکر کا بطور مکتب ذکر فرمایا ہے۔ عبارات اور ترجمہ دونوں نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔

صفحات کے نمبر یہ ہیں: (۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳)

شیخ الاسلام نے کہیں اہل حدیث، کہیں فقہائے اہل حدیث کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تذکرہ دوسرے مکاتب فکر ہی کی طرح آیا ہے۔

✽ حافظ جلال الدین سیوطی نے مسلک اہل حدیث کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”فهم حملة علمه، ونقله دينه، وسفرته بينه وبين أمته، وأماؤه
في تبليغ الوحي منه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته
ووفاته، وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه

وسقیمہ، ومعولها عليهم فيما يختلفون في أمره، ثم كل من اعتقد مذهباً فإلى صاحب مقالة التي أخذ بها ينتسب، وإلى رأيه ينتسب إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله ﷺ فهم إليه ينتسبون، وإلى علمه يستندون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفخرون... الخ“

(صون المنطق والكلام، ص: ۱۱)

”اہل حدیث آنحضرت ﷺ کے علم کے حامل، ان کے دین کے ناقل ہیں، آنحضرت ﷺ اور امت کے درمیان سفیر ہیں اور ان کی وحی کی تبلیغ میں ان کے امین ہیں، وہ موت اور زندگی میں آپ کے قریب ہیں۔ تمام گروہ حدیث کی صحت اور سقم میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اختلاف میں ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر صاحب مذہب اپنی نسبت اپنے امام کی طرف کرتا ہے اور اس کے مقالات کو اپناتا ہے لیکن اہل حدیث اپنا تعلق آنحضرت ﷺ کے ساتھ بتاتے ہیں اور آپ ہی کے مقالات سے استناد کرتے اور انہی سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے دل کی بے قراریاں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کی اقتدا کرتے ہیں، وہ آپ ہی کی ذات گرامی پر فخر کرتے ہیں، ان کی نسبت قرآن کی طرف ہے، کیونکہ وہ احسن الحدیث ہے اور حدیث کی طرف بھی اس لیے کہ وہ اس کے حافظ اور حامل ہیں۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں:

”فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله بدليلاً، ولا عن قوله تبديلاً، ولا عن سنته تحويلاً“ (ص: ۱۱)

”طاائف منصورہ، فرقہ ناجیہ، اجماعت کا گروہ، عادل جماعت جس نے سنت سے تمسک کیا۔ کسی کو آنحضرت ﷺ کا بدل نہیں سمجھتے، نہ آپ کے قول اور سنت میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔“

سیوطی نے حافظ مہبہ اللہ بن حسن ابوالقاسم لاکھانی کی کتاب ”اصول السنۃ“ سے یہ تفسیر فرمائی ہے۔

● ”الاتصار لأهل الحديث“ سعانی (۲۸۹ھ) کے حوالے سے نقل فرمایا:

”قد لهج بدم أصحاب الحديث صنفان: أهل الكلام، وأهل الرأي، فهم في كل وقت يقصدونهم بالثلب والعيب، وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم“ (صون المنظر، ص: ۴۷)

”مشکلمین اور اہل الرائے کی زبانیں اجماعت کے خلاف چلتی رہتی ہیں، وہ انھیں کم علم اور جاہل کہتے ہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔“
● خبر واحد کے متعلق فرمایا کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے:

”هذا قول عامة أهل الحديث والمتقين من القانمين على السنة، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم شيء اخترعته القدرة والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت“ (صون المنظر، ص: ۱۶۱)

”خبر واحد کی حجیت اور مفید علم ہونا اہل حدیث اور ارباب سنت کا قول ہے، اور خبر واحد کا غیر مفید ہونا اور خبر کے مفید علم ہونے کے لیے تواتر کی شرط؛ یہ معتزلہ اور قدریہ کا اختراع ہے، جس سے ان کا مقصد احادیث کے رد کے سوا کچھ نہیں، بعض کم علم فقہانے ان سے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے۔“

● نیز دیکھیں: الاتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (ص: ۱)

یہ کتاب کئی کتابوں کی تلخیص ہے، اس میں سیوطی نے بڑی کثرت سے اہل حدیث کتب فکر کا ذکر فرمایا ہے۔^۱ یہ کتاب سیوطی نے منطق اور کلام کی اغلاط کے متعلق لکھی ہے، اگر سنت کی کئی کتابوں کی تلخیص فرمائی اور جاہجا مسلک اہل حدیث کا ذکر کیا ہے۔^۲ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہائے حنفیہ سے اصول فقہ میں جہاں جہاں لغزش ہوئی ہے، وہ دراصل معتزلہ کا اثر ہے، کیونکہ فقہائے عراق ابتدا میں معتزلہ سے متاثر ہو گئے تھے، ان حضرات ہی نے بعض کتابیں اصول فقہ پر لکھیں، جن میں جاہجا اعتزال کا اثر پایا جاتا ہے۔^۳ ”الجواهر المضیة“ اور ”الفوائد البہیة“ میں ایسے بہت سے احناف کا ذکر فرمایا ہے جو اعتزال سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ متاخرین علمائے اصول زیادہ تر انہی حضرات پر اعتماد فرماتے ہیں۔ آج کل کی درسیات اصول فقہ میں اعتزال ہی کا اثر ہے۔ پچارے ملا جیون اور علامہ نظام الدین معتزلہ ہی کے خوش چمن ہیں۔^۴

① دیکھیں: (ص: ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۱) [مؤلف]

② دیکھیں: صون المنطق والكلام (ص: ۱۶۴-۱۶۸)

③ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وكذلك يخلط بملذم أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية، ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة، وهذا من جنس الرافض والتشيع“
(منهاج السنة النبوية: ۵/۱۸۱)

نیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وبعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذلك، ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة، وليس عليه بناء مذهبهم“ (حجة الله البالغة، ص: ۳۳۶)

④ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فكم من حنفي في الفروع معتزلي عقيدة كالزمخشري وغيره كمؤلف الفتنه والحاري، والمجتبي شرح مختصر القدوري نجم الدين الزاهدي.. وقد ترجمتهما في الفوائد البهية وغيرهم -وكم من حنفي حنفي فرعا مرجعي أو زیدی العقيدة، فعنهم الشيعة، ومنهم المعتزلة، ومنهم المرجئة“ (الرفع والتكميل، ص: ۳۸۵)

حافظ ابن قتیبہ دینوری (۲۷۶ھ) نے مسلک اہل حدیث کی حمایت میں مستقل کتاب لکھی ہے: "تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی أعداء اهل الحدیث"۔ اس میں حدیث اور اہل حدیث دونوں کا دفاع فرمایا ہے:

"ذکر أصحاب الحدیث: قال أبو محمد: فأما أصحاب الحدیث فإنهم التمسوا الحق من وجهته، وتبعوه من مظانه، وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وطلبهم لأناره وأخباره برا وبحرا، شرقاً وغرباً... إلى أن قال: وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافياً، وبسق بعد أن كان دارساً، واجتمع بعد أن كان متفرقاً، وانقاد للسنن من كان عنها معرضاً، وتنبه عليها من كان عنها غافلاً، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم"

"الحدیث نے حق کی تلاش اس کے اصل مقام سے کی اور آنحضرت ﷺ کے آثار اور سنن سے اللہ کا قرب تلاش کیا، اور احادیث کی تلاش میں خشکی اور سمندر، مشرق اور مغرب کے سفر کیے۔ ایک حدیث کی تلاش میں طویل سفر کیے، تاکہ اصل راویوں سے صحیح حدیث سن سکیں، اور بحث و تنقید سے صحیح، ضعیف اور منسوخ کا ہٹا چلایا، اور فقہاء اور اہل الرائے کی مخالفت پر بھی متنبہ کیا، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا، متفرق احادیث جمع ہو گئیں اور جو لوگ فلاں فلاں کی اطاعت کرتے تھے، وہ حق کی اطاعت کرنے لگے۔"

ایک مقام میں فرمایا کہ لوگوں نے اہل حدیث کے مختلف نام رکھے، لیکن نام

بے محل استعمال سے صحیح نہیں ہو سکتے، حقیقت کرنے والا موچی نہیں کہا جاسکتا، نہ بڑھئی ہی کو لوہار کہا جاسکتا ہے۔ یعنی اجماع حدیث کو حشوی یا ظاہری کہا جائے تو وہ حشوی یا ظاہری نہیں ہوگا، نام کی کچھ حقیقت ہوتی ہے جس پر وہ بولا جاتا ہے۔^①

② علامہ ابو بکر محمد بن حسن بن فورک (۳۰۶ھ) نے ”مشکل الحدیث“ میں ملحدین کے تذکرہ میں تعارف کے طور پر فرمایا:

”وخصوا بتقییح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق لسانا وبيانا وقهرا وعلوا وإمكانا، الطاهرة عقائدها من شوائب الأباطيل وشوائب البدع والأهواء الفاسدة، وهي المعروفة بانها أصحاب الحديث“ (ص: ۳)

”ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس گروہ کی تنقیص کرتے ہیں جن کی زبان و بیان پر ظاہراً باطناً حق غالب ہے، ان کے عقائد بدعات اور باطل سے پاک ہیں، وہ اصحاب الحدیث کے نام سے مشہور ہیں۔“

اس کے بعد ان کی دو قسمیں ہیں: ایک جن کا مشغلہ اسانید اور ان کے متون کا ضبط ہے، اور دوسرے وہ جو اسباب و علل اور قیاس و نظر سے احادیث میں بحث کرتے ہیں۔^③

④ اسی طرح ابو الفتح محمد بن عبدالکریم شہرستانی (۵۴۸ھ) نے ”الملل والنحل“ میں اس مکتب فکر کا ذکر فرمایا۔^⑤

⑥ حافظ ابن حزم اندلسی الظاہری (۳۵۶ھ) گو ظاہری ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث شمار فرماتے ہیں، تقلید و جمود پر سختی سے تنقید فرماتے ہیں۔ اپنے وقت کے مالکی علما و صحابہ کے فروعی اختلافات کے متعلق فرمایا:

① تاویل مختلف الحدیث (ص: ۸۱)

② دیکھیں: مشکل الحدیث و بیانہ لابن فورک الأصبہانی (ص: ۳۷)

③ دیکھیں: الملل والنحل للشہرستانی (۱/ ۲۰، ۲۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۰۵)

”فأما ما اجتمعوا عليه فنحن الذين اتبعوا إجماعهم، ولله الحمد كثيرا، وإنما خالف إجماعهم من دعا إلى تقليد إنسان بعينه كما فعل هؤلاء في تقليدهم مالكا دون غيره، ولم يكن قط في الصحابة، ولا في التابعين، ولا في القرن الثالث واحد فما فوقه فعل هذا الفعل، ولا أباحه لفاعل“^۱ اھ (التعريف، ص: ۸۹)

”اگر صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہو تو ہم بجز اللہ سے قبول کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تقلید شخصی کی دعوت دی، ان لوگوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے، جس طرح مالکیوں نے صرف امام مالک کی تقلید کی۔ صحابہ، تابعین اور تیسری صدی تک کوئی آدمی نہیں، جس نے یہ فعل کیا ہو یا اس کو جائز کہا ہو۔ اجماع کے مخالف دراصل وہی لوگ ہیں جو تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں۔“

حافظ ابن حزم کی ”الإحكام“، ”المحلی“، ”الفصل“ وغیرہ اسی سواد سے

بھری پڑی ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کے تجدیدی کارناموں سے ساتویں اور آٹھویں صدی دونوں متاثر تھیں۔ شیخ کی آواز مدارس اور ایوان حکومت میں یکساں گونجتی تھی۔ شیخ کی تقلید سے حکومت کے دربار لرزتے تھے۔ صوفیوں کی خانقاہیں شیخ کے اصلاحی پروگرام کے سامنے جھکتی تھیں۔ غرض شیخ کے اصلاحی کارنامے زندگی کے ان تمام گوشوں پر اثر انداز ہوتے تھے، جن کا دین سے کچھ بھی تعلق تھا۔

شیخ کا حلقہ درس بھی کافی وسیع تھا۔ دعوت و تبلیغ کی مساعی بھی ہمہ گیر تھیں۔ شیخ کے شاگرد اور رفقاء کا حلقہ بھی اسی طرح وسیع تھا۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جلال الدین المرزی، حافظ ذہبی، حافظ غناء الدین ابن کثیر، محمد بن احمد ابن عبد الہادی مقدسی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کبار ائمہ، امام کے علوم سے مستفیض تھے۔ یقیناً شیخ الاسلام کا اثر شیخ کے بعد برسوں قائم رہا ہوگا۔

۱ دیکھیں: رسائل ابن حزم (۳/۷۷)

شیخ کے تلامذہ میں سے ابن القیم رحمہ اللہ، ان کے تلامذہ سے شیخ محمد بن یعقوب رحمہ اللہ فیروز آبادی (۸۱۷ھ) صاحب قاموس، ان کے تلامذہ سے حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ)، احمد بن علی المقریزی المؤرخ (۸۳۵ھ) ایسے ائمہ کو ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ پھر حافظ ابن حجر کے تلامذہ میں یہ اثر قائم رہا، تحقیق کی یہ شمع جلتی رہی اور جمود کا اثر غالب نہ ہوسکا، گودونوں نظریات میں تصادم کے آثار ملتے ہیں۔

حافظ سیوطی (۹۱۱ھ) شیخ علی المتقی (۹۷۵ھ) شیخ عبدالوہاب المتقی (۱۰۰۱ھ)، شیخ محمد طاہر پٹھوی صاحب مجمع البحار (۹۸۶ھ) اور حضرت شیخ احمد بن عبدالاحد المجدو السمرہندی (۱۰۳۳ھ) قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (۱۲۲۵ھ) مرزا مظہر جان جاناں (۱۲۱۸ھ) فاخر الہ آبادی (۱۲۶۳ھ) حضرت شاہ ولی اللہ (۱۱۷۶ھ) شاہ عبدالعزیز (۱۲۳۹ھ) شاہ اسماعیل شہید (۱۲۳۶ھ) رحمہم احوال کی وجہ سے حنفیت کی طرف معمولی رجحان کے باوجود ان میں سے کوئی بھی تقلید اور جمود کا داعی نہیں، بلکہ ہندوستان اور پاکستان میں تقلید و جمود کے خلاف جو جذبہ اس وقت کارفرما ہے، اس کے مؤسس و بانی دراصل یہی مقدس حضرات ہیں۔ رحمة اللہ علیہم۔ ان تمام اعلام کے ارشادات کے تذکرہ سے مضمون اور بھی واضح ہوگا۔ ان بزرگوں کے کارنامے اور علمی نوشتے اہل علم کی نظروں میں پوشیدہ نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ”حجة اللہ البالغة“، ”الانصاف“، ”عقد الجید“، ”الخیر الكثير“، ”تفہیمات اول و ثانی“، ”المقائلة الوضیة“ اور ”الانتباه“ وغیرہ میں اس موضوع پر اتنا لکھا ہے کہ اس سے زیادہ لکھنا مشکل ہے۔

✽ حجة اللہ البالغة (۱/۱۲۳) میں عز بن عبد السلام سے نقل فرمایا:

”ومن العجب العجیب أن الفقهاء المقلدین یقف أحدہم علی ضعف مأخذ إمامہ بحیث لا یجد لضعفہ مدفعا، وهو مع ذلك یقلدہ فیہ، ویترك من شہد الكتاب والسنة، والأقیسة الصحیحة

لمذہبہم جموداً علی تقلید إمامہ، بل یتحیل لدفع ظاہر الكتاب والسنة، ویتأولہا بالتأویلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلدہ، وقال: لم یزل الناس یسألون من اتفق من العلماء من غیر نقيید لمذہب، ولا إنکار علی أحد من الصائِلین إلی أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدین“

”توجہ ہے کہ فقہاء مقلدین کو اپنے امام کے ماخذ کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی مدافعت بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے اور ظاہر کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتا ہے، اور کتاب و سنت کو ٹالنے کے لیے بہانے بناتا ہے، تاکہ اپنے امام کو بچا سکے۔ لوگ ہمیشہ حسب اتفاق علما سے دریافت کرتے رہے، یہاں تک کہ مرہجہ مذاہب اور متعصب لوگ پیدا ہو گئے، جو امام کو پیغمبر کی طرح سمجھتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

”یہ لوگ دوسرے مسلک کے سختی سے فتویٰ پوچھنا جائز نہیں سمجھتے اور نہ اقتدا ہی کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین اور قرون اولیٰ کے اجماع کے خلاف ہے۔“ (حجة اللہ البالغة: ۱/۱۲۴)

نیز حجۃ اللہ (۱/۱۲۲) میں فرمایا:

”وكان صاحب الحديث أيضاً قد ينسب إلی هذه المذاهب لكثرة موافقته له كالنسائي والبيهقي، ينسبان إلی الشافعي“ اھ
”یعنی طبقات کی کتابوں میں بعض اہل حدیث علما کو مرہجہ مذاہب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تحقیق ان سے موافق ہو جاتی ہے، جیسے نسائی اور بیہقی، لوگ انہیں شافعی کہتے ہیں حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں۔“
شاہ صاحب نے تفسیحات میں فرمایا:

”فقہ حنفی و شافعی کو ملا کر کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے، جو موافق ہو اس پر عمل کیا جائے، ورنہ مختلف فیہ مسائل کو روایات کے طور پر قبول کر لیا جائے۔“^۱

شاہ صاحب عملی فروع میں بھی عموماً شوافع کی طرف جھکتے ہیں۔ آمین بالجہر، رفیع الیدین، زیارت قبور، قراءت فاتحہ وغیرہ میں شافعی مذہب کو رائج سمجھتے ہیں۔

✽ خیر کثیر میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب انداز سے تعریف فرمائی ہے:

”أما المتعمقون في الرأي فليسوا من أهل السنة في شيء، وأما هذه المذاهب الأربعة فأقربها إلى السنة مذهب الشافعي المنقح والمصفى، وكان نظره يصل إلى حقيقة العلل والأسباب“^۲ (خیر کثیر، ص: ۱۲۴)

”رائے اور قیاس میں غالی قسم کے لوگ یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہیں، اور مذاہب اربعہ سے امام شافعی کا مسلک سنت سے زیادہ قریب ہے، ان کی نظر اسباب و علل پر زیادہ گہری ہے۔“

✽ تفہیمات (۲/۲۳۰) میں پہلے عقائد کا ذکر اور تاکید فرمائی ہے کہ تاویل سے بچ کر مسلک سلف کا اتباع کیا جائے۔ فروع کے متعلق فرمایا:

”و در فروع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و تفریحات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و آنچه موافق باشند در چیز قبول آوردن والا کالائے بد بریش خاندادون امت بیج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و جن متقدمہ فقہاء کہ تقلید عالمے را دست آویز ساختہ تتبع سنت را ترک کردہ اند شنیدن و بدیشاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری ایشان“^۳

① تفہیمات، (۱/۲۱۲)

② تفہیمات (۲/۲۴۰)

”فروع میں فقہاء محدثین کی پیروی کرنا، فقہی جزئیات کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، موافق کو قبول کرنا، مخالف کو پھینک دینا، امت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اجتہادیات کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور فتک فقیہ نے، جن کے لیے تقلیدِ شخصی سے بڑی کوئی دستاویز نہیں، کتاب و سنت کے تتبع کو ترک کیا ہوا ہے، ان سے دوری میں خدا کی رضا مندی ہے۔“

جامد تقلید کے متعلق شاہ صاحب کے جذبات قابلِ ملاحظہ ہیں:

”وترى العامة سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين، يرون خروج الإنسان من مذهب من قلده، ولو في مسألة، كالخروج من الملة، كأنه نبي بعث إليه، وافترضت طاعته عليه، وكان أوائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد“ (۱/۱۵۱)

”ہر علاقے کے عوام مرجع مذاہب سے ایک کی تقلید کرتے ہیں، اسے ترک کرنا ارادہ کے برابر سمجھتے ہیں، گویا امام ان کا نبی ہے، جس کی اطاعت ان پر فرض ہے، چوتھی صدی سے پہلے یہ کیفیت نہ تھی۔“

آج احبابِ دیوبند غور فرمائیں! آپ جس انداز سے تقلید کی دعوت دیتے ہیں، ترکِ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، یہ وہی انداز تو نہیں جس کی شاہ صاحب نے شکایت فرمائی ہے!

اسی طرح تہہمات (۱/۱۵۲) میں ایسے متحققین کا ذکر فرمایا ہے جو تقلید نہیں کرتے تھے، جیسے ابنِ العربی، ابو محمد جوینی۔ نیز تہہمات (۲/۲۰۲، ۱/۲۱۵) میں فرمایا:

”إن أمتكم بنبيكم فاتبعوه خالف مذاهبا أو وافقه“ اھ
 ”اگر آئندہ حضرت ﷺ پر ایمان ہے تو ان کی اطاعت کرو، مذہب کے خلاف ہو یا موافق!“

تہہمات اس قسم کی دعوت سے بھرپور ہے۔

تلقہ اور ظاہریت:

● شاہ صاحب کے نزدیک حق تلقہ اور ظاہریت کے عین عین ہے:

”ومنهم أني أقول لهؤلاء المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح، وقد ذهب إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين، ولا يمنعهم إلا التقليد لمن لم يذهب إليه، ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم، وأئمة أهل الدين أنهم جميعا على سفاهة وسخافة و ضلالة، وأن الحق أمر بين بين“ (تفهيمات: ۲۰۹/۱)

”میں ان برائے نام فقہاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ تقلید جامد کی وجہ سے جن کو صحیح حدیث پہنچتی ہے اور وہ فقہاء کو معلوم بھی ہے، لیکن وہ اپنے علماء کی تقلید کے سبب اسے نہیں مانتے، اور یہ ظاہری حضرات جو فقہ کے انکار اور فقہاء اور ائمہ دین رضی اللہ عنہم پر یقین نہیں رکھتے، یہ سب بے وقوف اور غلط کار ہیں اور حق ان کے عین عین ہے۔“

مسکب اللہ حدیث بالکل یہی ہے۔

● پھر (۱/۲۱۱) فرمایا:

”وأشهد لله بالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطئ ويصيب، أن الله كتب علي اتباعه حتما، وأن الواجب علي هو الذي يوجبه هذا الرجل علي، ولكن الشريعة الحقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعها العلماء، ورواها الرواة، وحكم بها الفقهاء، وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء علي معنى أنهم روة الشريعة عن النبي ﷺ، وأنهم علموا ما لم نعلم، وأنهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل، ولذلك قلدوا العلماء،

فلو أن حديثا صحيح، وشهد بصحته السحدثون، وعمل به طوائف، فظهر فيه الأمر، ثم لم يعمل به هو؛ لأن متبوعه لم يقل به، فهذا هو الضلال البعيد“ اھ

”میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق جس سے خطا اور ثواب سرزد ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت فرض ہے، جس چیز کو یہ واجب کہے، وہ واجب ہے، کفر ہے، حالانکہ شریعت اس شخص سے پہلے موجود ہے، علما نے اسے حفظ اور روایت کیا، فقہانے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ تقلید کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے کہ علما شریعت کے راوی ہیں، وہ جانتے ہیں جو عوام نہیں جانتے۔ علما نے اسے اپنا مشغلہ قرار دیا کہ عوام ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے علما کی تقلید کی گئی۔ اب اگر ایک حدیث کی صحت ثابت ہو، علما نے اس پر عمل بھی کیا ہو اور بات واضح ہو جائے، پھر اس پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ فلاں امام نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔“

ایک مقام پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دل میں ملائے اعلیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ حنفی اور شافعی امت مرحومہ میں دونوں مشہور مذاہب ہیں اور اکثر لوگ انہیں دونوں مذاہب کے متبع ہیں۔ اکثر فقہاء، محدثین، مفسرین اور متکلم صوفی شافعی تھے اور عام بادشاہ اور یونان کے لوگ حنفی تھے۔ ملائے اعلیٰ کا منشا یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک مذہب قرار دیا جائے اور احادیث پر پیش کیا جائے، جو موافق ہو اسے رکھ لیا جائے، جس کی اصل نہ ملے، اسے دو قول یا دو روایت قرار دے دیا جائے۔ (۱/ ۲۱۶)

شاہ صاحب کے ان ارشادات کا آج دیوبند کی دعوت جمود میں کیا ربط ہے؟ اس پر ارباب ربط کو غور کرنا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کا اجمالاً یہی تقاضا ہے کہ جمود کو قطعاً جگہ نہ دی جائے اور نصوص پر نظر رکھی جائے۔

اسی دعوت کا ایک اور مقام پر اس طرح اعادہ فرماتے ہیں:

”کیا تم نہیں جانتے کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا؟ بہت لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی حدیث پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے: میں فلاں مذہب پر عمل کروں گا، حدیث پر عمل نہیں کروں گا۔ پھر یہ خیال کرتا ہے کہ حدیث صرف ائمہ اور ماہرین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ائمہ رحمہم نے ایسی حدیث پر عمل کسی وجہ سے ہی ترک کیا ہوگا، منسوخ ہو یا مرجوح۔ یقیناً جان لو یہ قطعاً دین نہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ پر ایمان ہے تو آپ کی اطاعت کرو، کسی مذہب کے مطابق ہو یا مخالف۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت پر عمل کیا جائے۔ اگر آسانی سے سمجھ میں آجائے تو بہتر، ورنہ پہلے علما کی رائے سے، جو کتاب و سنت کے قریب ہو، اس پر عمل کرو۔“

(فتاویٰ: ۱/۲۶۵)

یعنی بلا تعین ان کے انکار کی اطاعت کی جائے۔ الفاظ کی بحث بے سود ہے۔ حقائق کی وضاحت کے بعد ظاہر ہے کہ مسلک اہل حدیث نے ہندوستان کے مذہبی جمود کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، جس قدر شاہ صاحب نے فرمایا۔ اس کا نام تقلید رکھیے یا ترک تقلید، حنفی کہیے یا اہل حدیث، اس میں وہ جمود بہر حال نہیں جس کی دعوت آج کل بریلی اور دیوبند سے دی جا رہی ہے۔ مرجح تقلید کے خلاف اہل حدیث نے اب تک جو کچھ کہا، شاہ صاحب کے ارشادات میں وہ پورا مواد موجود ہے، اس کے خلاف اکابر دیوبند یا عظمائے بریلی نے جو فرمایا، شاہ صاحب کے ارشادات کی روح اس کے خلاف ہے۔ شاہ صاحب سے عقیدت کے ساتھ جمود اور تقلید کی دعوت بے جوڑی بات معلوم ہوتی ہے! عرصہ ہوا بعض بزرگان دیوبند نے اکتشاف فرمایا کہ حضرت مولانا شہید کا ابتدا میں رجحان ترک تقلید کی طرف تھا، لیکن حضرت سید احمد صاحب کی تفسیر کے بعد یہ رجحان ختم ہو گیا اور رفع الیدین وغیرہ مسنون اعمال پر شاہ صاحب نے عمل ترک کر دیا۔ میرے

خیال میں حضرت شہید پر یہ محض بدگمانی ہے، جس کے لیے ثبوت ملنا مشکل ہے۔
مصالح جہاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس پر کسی وقت عمل نہ کیا گیا ہو، لیکن ذہن نہیں بدلا،
سید احمد صاحب کا ذہن یہی تھا، پھر یہ تفہیم کیسی؟

شاہ صاحب کی مشہور تصانیف سے ”ایضاح الحق الصریح فی احکام
المیت والضریح“ ہے۔ یہ مرحوم کی نامکمل اور آخری کتاب ہے، جس میں مرحوم
جمعہ و عقیقین وغیرہ کے متعلقہ رسوم کے متعلق لکھنا چاہتے تھے۔ بدعت کے متعلق لکھا تھا
کہ شہادت کا حادثہ پیش آ گیا۔ کتاب مطبع اشرفیہ دہلی میں مع ترجمہ چھپی ہے۔ شاہ شہید
کا یہ ارشاد قابل غور ہے:

”بخلاف قسم ثانی کہ ہر کے راتقیق احکام قیاسیہ و اشغال صوفیہ و قوانین عربیہ
ضروریست و ارادہ تقلید شخصے معین از مجتہدین مشائخ و ارکان دین نہ بلکہ ہمیں
قدر کافی است کہ وقعہ کہ حاجتے پیش از کے از ایشان استفار کردہ شود نہ آنکہ
ارادہ و تقلید اہم مثل ایمان بالانبیاء از ارکان دین شمرده شود و لقب حنفی و قادری
بمشابہ لقب مسلمان و سنی اظہار کردہ شود“ الخ (ایضاح، ص: ۸۸)

یعنی ہر آدمی کے لیے قیاسی احکام، صوفیوں کے مشاغل اور عربی قواعد کا جاننا
ضروری نہیں۔ ائمہ اجتہاد اور مشائخ سے معین آدمی کی تقلید بھی ضروری نہیں۔ صرف اس
قدر کافی ہے کہ ضرورت کے وقت علما اور صوفیہ میں کسی سے دریافت کر لیا جائے۔ تقلید
کو انبیاء پر ایمان کی طرح نہ سمجھ لیا جائے، حنفی قادری کا لقب مسلمان سنی کی طرح واجب
نہ تصور کیا جائے۔

صفحہ نمبر (۹۰) میں فرمایا:

”عنوان شعار خود محمدیہ خالصہ و تسنن قدیم باید داشت نہ تمذہب بہ مذہب
خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ“

”اپنا عنوان نشانِ خالص محمدی رکھنا چاہیے۔ کسی خاص مذہب اور طریقے میں منسلک نہیں ہونا چاہیے۔“

شاہ صاحب نہ تو فروغِ فقہیہ میں کسی خاص امام یا کسی فرقے کا تعین پسند فرماتے ہیں نہ تصوف کے متعارف سلاسل میں کسی خاص سلسلہ سے انسلاک ان کی نظر میں مناسب۔ محمدیتِ خالصہ ان کے پیشِ نظر ہے۔ یہ بالکل شاہِ ولی اللہ صاحب کی دعوت ہے، جسے ان کے ابناء و احفاد نے رواج دیا، بلکہ اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف فرمائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ، ان کے تلامذہ اور ان کا خاندان؛ ان الفاظ سے بالا رہ کر نقیبی جمود اور تصوف میں جمود کو توڑنا چاہتے ہیں اور وہ اس مہم کو کسی تنفر کے بغیر ذہنوں میں نقش کرنا چاہتے تھے۔ ۱۲۳۶ھ جب بالاکوٹ میں ان کی شہادت کا دل فگار واقعہ پیش آیا، ترکِ تقلید سے وابستگی میں تصادم نہیں۔ موحدین کے اس شک میں اختلافِ خیال تو ہوگا، مگر اسے کبھی ابھرنے کا موقع نہیں ملا۔

ساتھ شہادت کے چند ماہ بعد جماعتِ مجاہدین کے پورے نظم کی ذمہ داری صادق پوری حضرات نے اپنے سر پر لے لی۔ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی وغیرہم نے جہاد اور تبلیغ کے دونوں نظام بڑی کامیابی سے چلائے۔ یہ حضرات شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متاثر تھے، اس لیے یہ اتباعِ سنت کے ساتھ تقلید اور جمود کی حوصلہ افزائی نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے ۱۲۳۶ھ کے بعد تقلید پسند طبقہ کچھلی صفوں میں چلا گیا۔ یہ حضرات فقہیات پر تنقید فرماتے، لیکن فقہا پر تنقید نہ کرتے۔ ائمہ اربعہ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے اجتہادات کے لیے صحیح عمل تلاش فرماتے تھے، لیکن حنفی نقطہ نظر سے نہیں گھبراتے تھے، مگر تقلید اور جمود کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا ولایت علی ۱۲۶۹ھ میں جماعت کے امیر قرار پائے۔ ان کی کتاب ”عمل بالحدیث“ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مولانا نے فرمایا:

”باید دانست کہ انسان اگر عامی باشد و بسبب مشاغل دیگر از نوشتن و خواندن در اکتفا برداریافت از علماء نماید برائے آں مناسب این است کہ از علمائے محدثین و پندار کہ در دیانت و خوفِ خدا دانست قرآن و حدیث مشہور شدہ باشند سوالی نمائند باین طور کہ ما را درین مسئلہ طور محمدی تعلیم نمایند و اگر مرد طالب علم است و شوق تعلیم در دل دارد مناسب این است اول قرآن و حدیث بخواند بعد از اں بکتب دیگر نظر ہمت گمارد تا آئینہ دار ظاہر شود کہ رائے کدام بزرگوار در کدام جا صواب یافتہ و کجا روئے خطا دیدہ، پس ہر مسئلہ کہ معرغ بقرآن و حدیث باید در آں تقلید بچج مجتہد نہ کنند کہ در مصرحات اجتہاد را و نقل نیست“ (ص: ۱۶)

یعنی اگر عام آدمی عقل کی وجہ سے علم نہ حاصل کر سکے تو وہ علمائے اہل حدیث کی طرف، جن کے علم و دیانت کی شہرت ہو، رجوع کرے کہ مجھے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی طرف راہنمائی کی جائے۔ اگر آدمی علم کا شوقین ہو تو اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خواہر انصوف میں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا اور تلامذہ کرتے رہے۔ اس نے تیرھویں صدی ہجری میں سکھوں اور انگریزوں کے استعمار اور کم فہم علمائے ہند کی مخالفت کی وجہ سے سیاسی اسباب و دواعی کے ماتحت تحریک جہاد اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ابتدائی کوشش کی صورت اختیار کی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں سید احمد کی قیادت اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی بدھانوی وغیرہ کی راہنمائی میں جہاد کا پروگرام بنانا پڑا۔ کلکتہ کے اطراف میں انگریزوں اور پنجاب میں سکھوں کے اثر کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی حریت پسند مساعی کے لیے صوبہ سرحد کا انتخاب کیا، ان کا خیال تھا کہ یہاں کی مسلمان اکثریت ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔

تحریک حریت کے مقاصد:

ان کے سامنے اس وقت دو مقصد تھے: پورے ہندوستان کی انگریزوں اور سکھوں سے آزادی اور اس ملک میں ایک ایسی حکومت کی تاسیس جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو۔ اس ضمن میں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مغل دربار کی لاطینی کی وجہ سے جو بدعات اور مشرکانہ رسوم اور تشیع کے مہلک اثرات، جو اس ملک کی گھریلو زندگی کا جزو بن چکے ہیں، انھیں زائل کیا جائے اور سلفی انداز کی سادہ حکومت اس ملک میں قائم کی جائے۔ اس کے لیے ان کے سامنے دو پروگرام تھے: وعظ و تبلیغ، درس و تدریس اور نشر و اشاعت کے ذریعے کتاب و سنت کی اشاعت، اور جہاد کے ذریعے انگریزوں اور سکھوں کے ظلم سے نجات۔

جہاد کی تحریک زیر زمین چلتی رہی، اس کا خاتمہ قریباً ۱۹۳۷ء میں تقسیم کے بعد ہوا، جبکہ پاکستان کے نام سے ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کی تفصیل ایک مستقل موضوع ہے، جو مستقل وقت اور فرصت کا محتاج ہے۔ تبلیغ و وعظ اور نشر و اشاعت کے لیے نواب صدیق حسن خاں اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی کی مساعی اپنے وقت میں غیر مترقبہ نعمت تھیں۔

اس ضمن میں بھوپال، بنارس، کلکتہ، دہلی، لاہور، پشاور، راولپنڈی وغیرہ شہروں سے بے شمار لٹریچر شائع ہوا۔ حدیث، شروح حدیث اور تراجم حدیث کے انبار لگا دیے گئے۔ فقہ الحدیث کے ذخائر سے اہل علم کی الماریاں بھر پور ہو گئیں۔ ان تمام مساعی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے حکیمانہ تجزیاتی کارنامے جلوہ افروز تھے، اس وقت کسی تنفر کے بغیر جمود کو توڑنے اور علم و تحقیق کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حضرت شیخ الکل و شیخ الاسلام سید نذیر حسین صاحب اور ان کے تلامذہ کی قریباً یہی حکیمانہ روش رہی کہ کسی ہنگامہ آرائی کے بغیر حق کی آواز کو دلوں میں جگہ دلائی جائے۔

یمن کی راہ:

تقلید و جمود کے خلاف ایک آواز یمن سے بھی آئی۔ امام شوکانی کے تلامذہ اور ان کی تصانیف میں جمود کے خلاف لہجہ کسی قدر تیز اور جارحانہ تھا۔ مولانا ولایت علی بھی شوکانی کے شاگرد تھے، لیکن ان پر ولی الملکی انداز غالب تھا۔ اس کے ساتھ جمود پسند علما کی جارحیت نے تحریک میں شدت پیدا کر دی، جارحانہ رسائل کا باہم تبادلہ ہوا، دروس، مواعظ، مدارس، مجالس میں چند سال خاصی گرمی آگئی، انگریزی عدالت تک مقدمات پہنچے۔

شاہ صاحب تقلید و جمود کی مخالفت کے باوجود حنفی شافعی قسم کے القاب سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ اسے بسا اوقات پسند کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اور ان کے اتباع ایک حد تک حنفی شافعی کہلانا کچھ عیب نہیں سمجھتے، بشرطیکہ تقلید اور جمود کے زیر اثر کتاب و سنت اور فقہ الحدیث کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

شاہ صاحب کی اس واضح حکیمانہ دعوت کے بعد آج کے حضرات بریلی اور دیوبند کے لیے دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں: یا جمود کو رخصت کریں اور تقلید کی طرف دعوت سے کلیتاً پرہیز کریں یا پھر شاہ صاحب سے عقیدت کو ختم کریں۔ ان دونوں چیزوں کا معاہدہ چلنا ”منکر بے بودن و ہرنگ متاں زیستن“ کے مترادف ہوگا۔ شاہ صاحب کی مصلحت آمیز حقیقت سے کوئی غلط فہمی نہیں ڈھنی چاہیے۔

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور، یکم جولائی ۱۹۶۶ء، جلد: ۷، شمارہ: ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، شمارہ: ۲۵)

www.KitaboSunnat.com

① انکار بھی کرنا اور متانوں کے ہمراہ بھی ہونا۔

مسئلہ حیات النبی ﷺ
ادلہ شرعیہ کی روشنی میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله كبريا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد:

کچھ عرصہ ہوا، ایک موضوع عالم نے مسلمان میں توحید کے موضوع پر تقریر فرمائی، جو عوام اور خواہش میں پسند کی گئی، مگر ان کے طلقے کے بعض حضرات نے عقیدہ توحید میں استواری کے باوجود اس تقریر کے بعض حصوں پر اعتراض اور اسے ناپسند کیا، اور کوشش کی گئی کہ تقریر کے اثرات کو کم یا زائل کیا جائے۔ مقرر نے توحید کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے انتقال کا ذکر فرمایا اور جو لوگ آپ ﷺ کو اپنی طرح زندہ سمجھتے ہیں، ان کے خیالات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر آنحضرت ﷺ کی زندگی ”دنوی زندگی“ ہو تو صحابہ کرام نے آپ کو زندہ سمجھتے ہوئے کیسے دفن کیا؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ کو اپنی طرح زندہ سمجھیں اور زمین میں دفن کیے رکھیں۔ (یہ مفہوم ہے، ممکن ہے الفاظ میں فرق ہو)

چونکہ مخالفت با اثر اور اہل علم حضرات کی طرف سے تھی، اور یہ حضرات بھی دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس کا اثر پاکستان میں دوسرے مقامات پر بھی ہوا اور کوشش ہوئی کہ اس قسم کے صاف گو بلیغین کا مقاطعہ کیا جائے، بلکہ اس کا اثر ہندوستان تک بھی پہنچا، چنانچہ ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند میں ایک مضمون مولانا زاہد امینی کے قلم سے اور ایک تعارفی نوٹ مولانا سید محمد انظر صاحب کے قلم سے شائع ہوا، مگر دونوں مضامین میں کوئی جدت نہیں۔ حیات انبیاء کے متعلق وہی بریلوی نقطہ نظر ہے، جسے پھیلا دیا گیا

ہے۔ دلائل کا انداز بھی جو عموماً بریلوی حضرات کی تحریرات میں ہوتا ہے، دہرا دیا گیا ہے، اس قدر فرق کے ساتھ کہ نفسِ مسئلہ کی تفصیل ہے، ذاتیات میں الجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اہل علم سے یہی امید ہونی چاہیے۔

دلائل میں کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، لیکن مضمون کے ڈانڈے پاکستان سے ملتے ہیں، پھر اس کی اشاعت دیوبندی مکتب فکر کی مرکزی درس گاہ کے مجلہ میں ہوئی ہے۔ مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے دانشمندوں نے مقامی مصالح کی بنا پر مرکزی اکابر کو استعمال فرمایا ہے اور وہ حضرات بلا تحقیق و تعین استعمال ہو گئے ہیں۔ اس اختلاف سے بریلوی مکتب فکر جو فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔

راقم الحروف، مولانا محمد انظر اور مولانا زاہد الحسینی سے ذاتی طور پر نا آشنا ہے، اس لیے اس جسارت پر معافی چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بحث مسئلے کی حد سے تجاوز نہیں کرے گی۔ و ما توفیقی إلا باللہ۔

محمد اسماعیل، کان اللہ

مسئلہ حیات النبی ﷺ

پاکستان کی تشکیل کے بعد بریلویت نے جس طرح انگڑائیاں لینا شروع کی ہیں اور قادیانیت اور رفض کو جس طرح فروغ ہو رہا ہے، اس کے اثرات اور اہل توحید مبلغین کی مشکلات میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے اور ان میں دن بہ دن ترقی کی جو رفتار ہے، اسے شاید ہندوستان کے اکابر نہ سمجھ سکیں۔

پاکستان کے دیوبندی اکابرین جن مصالِح اور مقصدیاتِ وقت میں روز بہ روز گرفتار ہو رہے ہیں، ”پیری مریدی“ کے جراثیم جس عجلت سے یہاں اثر انداز ہو رہے ہیں، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس پورے ماحول سے آشنا ہیں۔ احسان ہوتا اگر دور کے حضرات اس میں مداخلت نہ فرماتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حکومتِ پاکستان کے مزاج اور یہاں کے اہلِ ہوئی کے مزاج میں جس قدر توافق کار فرما ہے، اس کا علاج مصلحت اندیشوں سے نہیں ہوگا اور نہ مدارس کی مسندیں اس عوامی فتنے کا مداوا ہو سکیں گی۔ یہ طویل سفر طے ہونے تک ممکن ہے مریض زندگی کی آخری گھڑیاں شمار کرنے لگے۔

کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک

اس مسئلے کو جو صورت دی جا رہی ہے، چونکہ اس سے بہت سی شرکیہ بدعات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے نامناسب نہ ہوگا اگر اس اصلاحی تحریک پر اجمالی نظر ڈال لی جائے، جو ان بدعات کا قلع قمع کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، کیونکہ اس سے مسئلے کا پس منظر سمجھنے میں مدد مل سکے گی، گو اس طرح قدرے طوالت ضرور ہو گئی ہے۔

اصلاحی تحریکات کا مد و جزر:

گیارہویں صدی ہجری کے آغاز سے تیرہویں صدی تک طاغوتی طاقتیں گोकافی مضبوط تھی، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت کی تابانیاں بھی نصف النہار پر رہیں۔ اس اثنا میں اللہ اتالی نے مصلحین کی ایک باوقار جماعت کو حوصلہ دیا اور کام کا موقع مہیا فرمایا۔ مصلحین کے پرشکوہ اور فعال گروہ اطراف عالم میں نمودار ہوئے۔ فتح و ککست کے اثرات اور نتائج گومختلف ہیں، لیکن مقام شکر ہے کہ ان حضرات کی صبر و عزیمت نے دنیا میں جو گہرے نقوش اور نشننے والے آثار آنے والوں کے لیے چھوڑے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے۔ ﴿وَوَفَىٰ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ۱۳۶]

نجد میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اور سعودی خاندان۔ ایران، افغانستان، مصر اور شام میں جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اور تلامذہ۔ ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا اور اپنی مساعی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور سیاسی طور پر کامیاب ہوئے۔ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کامیاب، قابل اور مخلص دماغوں کو تربیت دی، جن کی وجہ سے مصر و شام علم و اصلاح کا گہوارہ قرار پایا اور ان کے نقوش نے ذہنوں کی کایا پلٹ دی۔ ان حضرات کی کوششوں نے یورپ کے مادی منصوبوں کے سامنے ایسی دیواریں کھڑی کر دیں، جن کو عبور کرنا ایسی طاقتوں کے لیے آسان نہیں۔

مصر و شام کی آزادی اور دینی تحریکات میں ان مساعی کو بڑا دخل ہے، جن کا آغاز مجدد وقت شیخ جمال الدین افغانی اور سید عبدہ نے فرمایا اور اس کی تکمیل میں سید رشید رضا، علامہ مراغی، سعد زنگلول، امیر کلیب ارسلان ایسے بیدار مغز لوگوں نے شب و روز محنت فرمائی اور کافی حد تک ان کو کامیابی ہوئی۔

ہندوستان کی تحریک جدید:

ہندوستان کی تحریک احیاء و تجدید، جس کی ابتدا حضرت سید احمد سرہندی نے فرمائی اور اس کی تکمیل شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے فرمائی، ابتدا میں علمی اور اصلاحی تھی۔ علمائے سوء اور انگریز کے منحوس وفاق نے اسے مجبوراً سیاست میں دھکیل دیا۔ ستموں کی حماقت نے اقلیاء کی اس جماعت کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ کی آگ میں کودیں اور اپنی قیمتی زندگیاں حق کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر گمراہ کن فتوؤں کی سیاہی نے ملت کے چہرے کو اس قدر بد نما کر دیا تھا کہ اسے دھونے کے لیے شہادت کے خون کے علاوہ پانی کے تمام ذخیرے بے کار ہو چکے تھے۔ وہابیت کی تہمت مستعار نے ذہن ماؤف کر دیے تھے۔ الخاند کا گرد ان پر اس قدر جم چکا تھا کہ اسے صاف کرنے کے لیے صرف شہد اکا خون ہی کار آمد ہو سکتا تھا۔

چنانچہ مئی ۱۸۳۱ء کی صبح کو یہ مقدس جماعت انتہائی کوشش اور ممکن تیاری کے ساتھ بلاکوٹ کے میدان میں اترتی اور دوپہر سے پہلے صداقت کے نہ مٹنے والے نشان دنیا کی پیشانی پر ثبت کرنے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گئے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا

تَشْعُرُونَ﴾ [البقرہ: ۱۵۴]

تحریک کا مزاج:

پیش نظر مسئلے کے متعلق بحث و نظر سے پہلے ضروری ہے کہ اس تحریک کے مزاج کو سمجھ لیا جائے۔ حضرت مجدد بریلوی سے شاہ ولی اللہ کے ابنائے کرام تک یہ تمام مصلحین عظام ظاہری اعمال میں عموماً حنفی فقہ کے پابند تھے، لیکن ذہنی طور پر تین مقاصد کی تکمیل ان کا مطمح نظر تھا:

① تصوف کے علو آمیز مزاج میں اعتدال۔

② فقہی اور اعتقادی جمود کی اصلاح اور اشعریت اور ماتریدیت کے ساتھ فقہ العراق

نے تحقیق و استنباط کی راہ میں جو مشکلات پیدا کی تھیں، انہیں دور کیا جائے اور نظر و فکر کی روانی میں جمود و سکون سے جو رکاوٹ نمایاں ہو چکی تھی، اسے یک سر اٹھا دیا جائے۔ قرآن و سنت اور ائمہ سلف کے معیار پر نظر و فکر کو آزادی بخشی جائے۔

۴) بے عملی اور بد عملی نے چند بدعات کو جو سنت کا نعم البدل تصور کر لیا تھا اور بت پرست قوموں کے پڑوس اور مغل بادشاہوں کی عیاشیوں نے ان بدعات کو نجات کا آخری سہارا قرار دے لیا تھا، اس ساری صورتِ حال کو بدل کر اس کی جگہ سادے اسلام کو دے دی جائے۔ تو کتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا^۱۔

میں آپ کو اس کی تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، نہ اپنی تائید میں ان کی تصانیف سے اقتباسات پیش کر کے آپ کا وقت ضائع کروں گا۔ صرف چند امور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد علیہ السلام نے مکتوبات میں بدعات کے خلاف کس قدر کڑی تنقید فرمائی ہے۔ بدعت کی حفاظت کے لیے حسد اور سید کی تقسیم اہل بدعت کو قلعہ کا کام دے رہی تھی اور عز بن عبدالسلام نے جب سے اس تقسیم کی نشاندہی کی تھی، اس کے بعد سے ہندوستان میں حضرت مجدد علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ قلعہ پاش پاش کر کے رکھ دیا۔^۲

سجدہ تعظیم کے خلاف گوالیار کے قلعہ میں تین سال قید گوارا فرمائی، لیکن سجدہ تعظیم کی گندگی سے اپنی مقدس پیشانی کو آلودہ نہیں فرمایا۔ فقہی مسائل میں حضرت کے کچھ اختیارات تھے، دوسرے علماء کی مخالفت کے باوجود متاخرین اور متقدمین کی راہ پر رجماً بالقیب چلنے سے حضرت مجدد علیہ السلام نے انکار فرمایا۔

اس کی زندہ شہادت حضرت کے مایہ ناز شاگرد مرزا مظہر جان جاناں موجود ہیں، جنہوں نے فاتحہ خلف الامام، رفع الیدین عند الركوع، وضع الیدین علی الصدر ایسے مشہور مسائل

۱ صحیح. مسند احمد (۴/ ۱۲۶) سنن ابن ماجہ (۴۳)

۲ یکھیں: مکتوبات مجددیہ (۱/ ۸۲۲)

میں فقہائے محدثین کی راہ اختیار فرمائی اور فقہ العراق کے ساتھ کئی تعاون سے انکار فرمایا۔

(أبجد العلوم: ۲/۹۰، محبوب العارفین، ص: ۷۶)

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ فرمایا۔ ان کی تصانیف: ارشاد الطالبین اور تفسیر مظہری شاہد ہیں کہ حنفی ہونے کے باوجود، بدعات اور عبادِ قبور کے خلاف ان کا لہجہ کس قدر تلخ ہے اور بدعتی رسوم سے انھیں کس قدر نفرت!

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ، البلاغ المسبین، مصلیٰ اور مسویٰ، انصاف، عقد الجید اور تختۃ الموحدین میں فقہی جمود، بدعات اور شرکاتہ رسوم کے خلاف ایسی حکیمانہ روش اختیار فرمائی، جس سے حقیقت بہت حد تک واضح ہو گئی۔ اصول فقہ کی بعض مسلمات پر ایسی شخصی تنقید فرمائی، جس سے ذہین طبائع کو جرات پیدا ہوئی۔ ازمانہ اٹھنا میں بدعت تشیع کو اس قدر عریاں فرمایا کہ ذہین اور دانشمند طبائع کو محبتِ اہل بیت کے عنوان سے دھوکا دینے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ان مختصر ارشادات سے اس تحریک اصلاح اور اقامتِ دین کا مزاج آپ کو سمجھنا مشکل نہیں۔

دیوبندی اور اہل حدیث:

یہ دونوں کتب فکری طور پر اسی تحریک کے ترجمان ہیں یا کم از کم مدعی ہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شاہ صاحب کے مندرجہ ذیل گرامی قدر ارشاد سے یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس تحریک کا مزاج کیا ہے:

”وصیت اول اس فقیر چنگ زدوں است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوستہ بندر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ درتے از ہر دو شنیدن و در عقاید مذہب قدامہ اہل سنت اختیار کردن و تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش کرده اند اعراض نمودن و بہ تشکیکات

معتولیاں خام التفات نکردن و در فروع بیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دائماً تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در حیز قبول آوردن والا کالائے بریش خامدہ دادن امت را بیج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن متعلقہ فقہا کہ تقلید عالمی را دست آویز ساختہ تنبیح سنت را ترک کردہ اند نشیدان و بدیشاں التفات نکردن و قربت خدا بستن بدوری ایشان“ (تفہیمات: ۲/ ۲۴۰)

”فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کی پابندی کی جائے اور ان دونوں سے شغل رکھے اور پڑھے، اگر پڑھ نہ سکے تو ایک ورق کا ترجمہ سے۔ عقائد میں متقدمین اہل سنت کی پیروی کرے۔ سلف نے جن چیزوں کی تفتیش نہیں کی، ان کی تفتیش نہ کرے اور خام کار فلاسفرہ کی پروا نہ کرے۔ فروع میں ائمہ حدیث کی پیروی کرے، جن کی فقہ اور حدیث دونوں پر نظر ہو۔ فقہ کے فروعی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتا رہے، جو موافق ہوں ان کو قبول کرے، باقی کو رد کر دے۔ امت کو اپنے اجتہادی مسائل کتاب و سنت پر پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ متعلقہ فقہا کی بات قطعاً نہ سے۔ جن لوگوں نے اہل علم کی تقلید کر کے کتاب و سنت کو ترک کر دیا ہے، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ان سے دور رہ کر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔“

اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”نسبہائے صوفیہ نعمت کبریٰ است و رسوم ایشان بہ بیج نمے ازرد، این سخن بر بسیارے گراں خواہد بود، اما مرا کارے فرمودہ اند و بر حسب آں ہی باید گفت و برگفتہ زید و عمر و تعرض نمے باید کرد“ (تفہیمات: ۲/ ۲۴۲)

”صوفیوں سے نسبت نعمت ہے، لیکن ان کی رسوم بالکل بیکار ہیں۔ یہ بات

اکثر لوگوں کو ناگوار ہوگی، مگر مجھے جو فرمایا گیا ہے وہی کہتا ہے۔ زید و عمرو کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”نحن لا نرضى بهؤلاء الذين يباعدون الناس ليشتروا به ثمناً قليلاً أو ليشربوا أغراض الدنيا بتعلم علم، إذ لا تحصل الدنيا إلا بالتشبه بأهل الهداية، ولا بالذين يدعون إلى أنفسهم وأمرؤن بحب أنفسهم، هؤلاء قطاع الطريق، دجالون كذابون، مفتونون فتنون، إياكم وإياهم، ولا تتبعوا إلا من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله“ الخ (نہیمات: ۱/ ۳۴)

”مجھے قطعاً یہ لوگ پسند نہیں جو دنیا کمانے کے لیے بیعت کرتے ہیں اور نہ یہ لوگ مجھے پسند ہیں جو دنیوی اغراض کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے ساتھ تخبہ ضروری سمجھتے ہیں۔ نہ ہی وہ لوگ مجھے پسند ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں۔ یہ لوگ ڈاکو اور دجال ہیں۔ خود فتنے میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو اس میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کا اتباع کرنا چاہیے، جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیں۔“

ظاہر ہے کہ شاہ صاحب ریاکارانہ تصوف اور دنیا کمانے کے لیے بیعت کے سلسلوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے، بلکہ ایسے لوگوں کو دجال، ڈاکو اور فتنہ انگیز سمجھتے ہیں۔ آج کے خانقاہی نظام اور پیر پرستی کے اداروں کی شاہ صاحب کی نظر میں کیا آبرو ہو سکتی ہے؟ وہ سرے سے پیر پرستی کی دعوت ہی کو نا پسند فرماتے ہیں۔

مردہ فقہی مسالک اور ان پر جمود کے متعلق شاہ صاحب کی مزید وضاحت:

”رب إنسان منكم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم فلا يعمل به، ويقول: إنما عملي على مذهب فلان لا على الحديث، ثم احتال

بأن فهم الحديث والقضاء به من شأن الكمل المهرة، وإن أئمة لم
 يكونوا ممن يعضون عليهم هذا الحديث، فما تركوه إلا لوجه ظهر
 لهم في الدين من نسخ أو مرجوحية“ الخ (تفهيمات: ۱/۲۱۵، ۲۱۶)

”بہت سے لوگوں کو جب آنحضرت ﷺ کی حدیث معلوم ہو جاتی ہے، تو وہ
 اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے مذہب پر میرا
 عمل ہے۔ حدیث سمجھنا معمولی آدمی کا کام نہیں، امام اس حدیث سے بے خبر
 نہیں تھے، یہ حدیث منسوخ ہوگی یا مرجوح۔ یہ قطعاً دیانت نہیں، اگر پیغمبر پر
 ایمان ہے تو اس کا اتباع کرنا چاہیے، مذہب اس کے مخالف ہو یا موافق۔ خدا
 تعالیٰ کا فتنہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔“

فقہی فروع میں مسلکی جو دشاہ صاحب کو سخت ناپسند ہے، اسی طرح وہ ظاہریت
 محض (امام داؤد ظاہری کا مسلک) کو بھی ناپسند فرماتے اور لکھتے ہیں کہ اگر حدیث کی
 صحت ائمہ حدیث کی شہادت سے ثابت ہو اور اہل علم نے اس پر عمل بھی کیا ہو اور اس پر
 صرف اس لیے عمل نہ کیا جائے کہ فلاں امام نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ ضلالا بعید ہے۔
 (تفهيمات: ۱/۲۰۹، ۲۱۱)

اس قسم کی تصریحات شاہ صاحب کی باقی تصنیفات میں بھی بکثرت موجود ہیں۔
 میں نے یہ طویل سح خراشی اس لیے کی ہے کہ اس پاکیزہ تحریک کا مزاج معلوم ہو جائے،
 تاکہ اس کے دو صدی کے اثرات کا صحیح اندازہ کیا جاسکے۔

ان مقاصد کے خلاف ان بزرگوں کی تصانیف میں اگر کوئی حوالہ ملے تو اس کا ایسا
 مطلب نہ لیا جائے جو مقاصد تحریک کے خلاف ہو، بلکہ وقتی مصالح پر محمول کیا جائے، کیونکہ
 ان بزرگوں نے جن سنگلاخ حالات میں کام کیا ہے، ان کے مصالح اور ان کے متقیات
 بدلتے رہتے ہیں۔ جن مشکلات میں ان حضرات کو کام کرنا پڑا، ان مشکلات کا ہم تصور بھی
 نہیں کر سکتے۔ شکر اللہ مساعیہم۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام:

اس تحریک میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا برزخ ہیں کہ حضرت مجدد اور ان کے ارشد تلامذہ کی علمی مساعی سے شاہ صاحب نے پورا پورا اثر لیا اور شاہ صاحب نے اپنے ابناء و اتحاد اور تلامذہ کو ان برکات سے علمی اور عملی استفادہ کا موقع دیا ہے۔ اس لیے میں نے شاہ صاحب کے ارشاد کو کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا مناسب سمجھا۔

مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

تنازع فیہ مسئلے میں مجلہ ”دارالعلوم“ کے مضمون نگار حضرات نے جو کچھ فرمایا ہے، اس میں حیاتِ نبوی کی صراحت شیخ عبدالحق صاحب کے بعد صرف اکابر دیوبند ہی نے فرمائی ہے۔ ہاں شاہ عبدالحق سے پہلے حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مستقل رساں لکھے، مگر انیسویں صاف نہیں فرما سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان حضرات نے اس قسم کا ذخیرہ جمع فرمایا ہے، جس کے متعلق ان کے ذہن بھی صاف نہیں کہ وہ حیات ثابت فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی نوع متعین نہیں فرماتے۔

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے میں سبکی کے سوا حیاتِ نبوی کا کسی نے ذکر نہیں کیا، بلکہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بعض مواقع میں حیاتِ برزخی کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ حافظ سیوطی انتہائی کوشش کے باوجود آیت: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر اور حدیث: ﴿رَدَّ اللَّهُ عَلَنِي رَوْحِي﴾ اور حدیث: ﴿الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يَصَلُّونَ﴾ میں

① امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”حیۃ الأنبياء بعد وفاتهم“ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”انبياء الأذکبَاء بحیۃ الأنبياء“ کے نام سے مطبوع ہے۔

② مسند أحمد (۲/ ۵۲۷) سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۲۰۴۱)

③ البحر الرخا (۶۲۹۱، ۶۸۸۸) الکامل لابن عدی (۲/ ۳۲۷) تاریخ دمشق (۱۳/ ۳۲۶)

تعارض نہیں اٹھا سکے، بلکہ حافظ سبیل نے تو صاحبِ لیل کی طرح ایک غیر موثق ذخیرہ جمع فرما دیا ہے، جس سے حضراتِ قورینین کو مد ملے گی اور سادہ دل اہل توحید کے دل شبہات سے لبریز ہوں گے۔

قریباً یہی حال حافظ ابن القیم کی کتاب الروح کا ہے۔ فحول الحمدیث اور ماہرین رجال کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن عوام کے لیے یہ مورد مزملہ اقدام ہے۔

تفسیر کی صورت:

اس لیے تفسیر کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تحریک کے مزاج کی روشنی میں شاد صاحب سے تعلق رکھنے والے اور اس خاندان کے عقیدت مند مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اکابر ہی کی اقتدا اور تقلید سے اس مسئلے کو سمجھنا ہے، کتاب و سنت اور بحث و استدلال سے صرف نظر ہی کا فیصلہ فرمایا گیا ہے، تو پھر اکابر کے اکابر اور بائیان تحریک کے نظریات سے کیوں استفادہ نہ کیا جائے؟ مولانا حسین احمد مرحوم اور حضرت مولانا نانوتوی مرحوم کی رائے فیصلہ کن ہے، تو بائیان تحریک اور تحریک کے مدارج کو حکم کیوں نہ مان لیا جائے؟

شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ:

مولانا شاہ محمد اسماعیل کی شہادت اور عبرت نے پوری تحریک کو نظریات اور تصورات کی دنیا سے عمل کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اشارات اور تعریضات کو تصدیقات سے بدلا۔ جو کچھ کتابوں کے اوراق کی زینت تھا، اسے بالاکوٹ کے میدان میں علی راس انتمام رکھ دیا گیا۔ سنکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ حق و صداقت، ایثار و قربانی کے جوہر مناظرات اور مکالمات ہی سے ظاہر نہیں ہوتے۔ ان کے ظہور کا بہت بڑا ذریعہ تلوار اور میدان جنگ ہی ہے۔ قلم کی دو زبانوں اور دوات کی روشنی سے جو کچھ کیا جاسکتا تھا، اس سے کہیں زیادہ قوتِ گویائی خون کے چھینٹوں میں ہے، اس لیے گل رنگ قطرات ہزاروں زبانوں پر تالے ڈال سکتے ہیں اور وہ برسوں گنگ ہو سکتی ہے، اور سینکڑوں دلوں سے تالے

اتار کر انہیں فہم و فراست عطا کی جاسکتی ہے، لیکن یہ کام اصحابِ امد ریس اور اربابِ تصانیف کا نہیں، یہ وہ لوگ کریں گے جو کاغذ اور دوات، قلم اور روشنائی کے علاوہ سیف و شان سے نہ صرف واقف ہوں، بلکہ انہیں آلاتِ حرب سے گہرا تعارف ہو۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

حضرت شہید **ابن علی** نے تحریک کے مقاصد کی اشاعت کے لیے شہادت سے پہلے تقویۃ الایمان لکھی اور ساتھیوں کے مشورے کے بعد اسے شائع فرمایا۔ تذکیر الاخوان کا سودہ لکھا، معترضین کے جوابات لکھے اور یہ سب کچھ تحریک کی تائید اور اس کے مقاصد کی روشنی میں تھا۔ آج اگر اکابر دیوبند اور علمائے اہلحدیث کوئی ایسی چیز فرمائیں، جو تحریک کے مزاج سے متصادم ہوں تو اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

تیسرا ہنگامہ:

شاہ ولی اللہ **رحمۃ اللہ علیہ** کی تحریک نے احيائے سنت اور تجدیدِ اثرِ دین کی راہ میں جہاں عظیم الشان قربانیاں پیش کیں، وہاں ایک تحریک اس کے بالمقابل شروع ہوئی، جس نے بدعات کے جواز میں دلائل کی تلاش کی اور عوام کی بد عملی کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بدعت ہر زمانے میں رہی۔ حالات کے ماتحت اس کی مختلف صورتیں بنتی اور بگڑتی رہیں۔ بدعت کا وجود کبھی منظم طور پر موجود نہ رہا۔ مغل حکومت میں بدعت عام تھی، لیکن بہ ظاہر غیر منظم، اسے ترجمانی کے لیے علماء کی باقاعدہ خدمات میسر نہ آسکیں۔

مغل زوال کے بعد سکھ، مرہٹے، انگریز، اہل توحید؛ سب نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ موحدین کے لشکر کی سیاسی شکست نے اہل بدعت پر سکتہ طاری کر دیا، لیکن باطل نے اقتدار کی زمام سنبھال لی۔ ۱۸۵۷ء کے معرکہ حریت میں اسے محسوس ہوا کہ علماء کی خدمات کے بغیر اقتدار پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو مطمئن کرنا مشکل ہے۔ جو بوندہ یا بندہ

اسے کچھ ”اہل علم“ میسر آ گئے، جن سے انگریز کا کام چل نکلا۔ تحریک توحید کی سرپرستی رائے بریلی کے ایک فقیر نے فرمائی تھی۔ شرک و بدعت کی سرپرستی بانس بریلی کے ایک خاندان کے حصے میں آئی۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب ۱۲۷۲ھ میں پیدا ہوئے۔ خاندان میں پڑھنے پڑھانے کا چرچا موجود تھا۔ سن رشد کو پہنچے بقول موصوف ان کے والد مولانا نقی علی خاں نے اپنے ہونہار فرزند کو ۱۲۸۲ھ میں مسند افتا پر بٹھا دیا۔

خان صاحب نے مسند سنبھالتے ہی بدعت کی تائید اور شرک کی حمایت شروع فرمائی۔ شرک کو مدلل اور اہل بدعت کو منقلم کرنے کے لیے موصوف نے اپنے اوقات عزیزہ وقف فرما دیے۔ کوشش فرمائی کہ عوام میں جس قدر بد عملی اور بدی رسوم موجود ہیں، ان سب کو مسند جواز عطا فرمائی جائے۔ عوام کو معاصی پر جرأت دلائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہر بدعت جائز قرار پا جائے۔

خاں صاحب کی چھوٹی موٹی تصانیف کو دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد فی سبیل اللہ فساد کے سوا کچھ نہیں۔ ان تصانیف میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے مسلمانوں کی دینی، معاشی یا سیاسی زندگی میں تبدیلی نمایاں ہو سکے۔ خان صاحب نے مدۃ العرکسی سیاسی یا علمی تحریک میں حصہ نہیں لیا، البتہ ہزاروں مسلمان جناب کے علم اور قلم کے زور سے کافر قرار پائے اور ان ساری کوششوں میں انگریز کا دستِ شفقت خاں صاحب کو سہارا دیتا رہا۔

مخالف توحید تحریک کی ناکامی:

حقیقت یہ ہے کہ رضا خوانی تحریک کا براہ راست مقابلہ کتاب و سنت سے اور اس کی جنگ مجاہدین اسلام اور شہدائے حق سے تھی۔ ان کی تکفیر کا نشانہ شہدائے بالا کوٹ تھے۔ ان لوگوں کا خوشگوار مشغلہ صرف تقویۃ الایمان، تصدیق المسلمین، راہ سنت اور کتاب التوحید جیسی مدلل کتابوں بلکہ قرآن عزیز کے بھی بعض بنیادی حصص کی تردید کرنا ہی رہ گیا تھا، اور

ان کے مد مقابل جو لوگ تھے، وہ تھے اکابر اولیاء اللہ، وہ جنہوں نے کتاب و سنت کی اشاعت و تبلیغ اور مسلمانوں میں احيائے جہاد میں اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ ظاہر ہے ان مقدس ہستیوں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں مل سکتی تھی؟ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»^① (مشکوٰۃ)

یعنی جو شخص میرے اولیاء سے دشمنی رکھے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ یہ تحریک حق تعالیٰ کے غضب کی گرفت میں آگئی، جس کے نتیجے میں ان میں چند ایسی خصوصیات پیدا ہو گئیں جن کے ہوتے ہوئے ان حضرات کی کامیابی ناممکن ہے۔ وہ خصوصیات مختصراً ذیل میں معروض ہیں:

① اہل حق اور اقتیاء سے بغض۔

② زبان درازی و بدزبانی۔

③ مسلمانوں کی تکفیر۔

④ بے ضرورت اور بے مقصد مسائل پر زور، مثلاً آنحضرت ﷺ کو اب بھی دنیوی زندگی حاصل ہے، وغیرہ۔

⑤ آنحضرت ﷺ ہر جگہ حاضر موجود ہیں۔

⑥ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات اور خصائص اپنے بندوں کو دے دیے ہیں۔ یعنی تمام اولیاء۔ محاذ اللہ۔ عطائی و وہابی خدا ہیں۔

⑦ قریباً تمام سیاسی لیڈر اور تمام سیاسی جماعتیں کافر و مرتد ہیں۔

(ملاحظہ ہو: فتاویٰ رضویہ، ملفوظات، تجانب اہل السنۃ وغیرہ و دیگر "ارشادات" بریلویہ)

واقعات شاہد ہیں کہ یہ لوگ بالکل باطنی فرقے کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں اور توحید و سنت کی ترقی سے کچھ بوکھلا سے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بالکل یاس

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۱۳۷)

کی حالت طاری ہوگئی ہے، اور مولانا محمد اسماعیل شہید۔ قدس اللہ روحہ۔ جیسی ہستی کی بے ادبی کرنے کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ ان کے بزرگوں سے علم سلب کر لیا گیا ہے۔ سمجھ اور علماء حضرات ان میں کم ہو رہے ہیں۔ جہلا کے ساتھ ربط، عوام کی شورش و شرارت پسندی کے سوا دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں۔ اہل توحید کی مساجد پر قبضہ، شرفاء پر کاٹلانہ حملے، خانقاہوں کے مجاوروں کی سفارشوں اور رشوتوں سے مقدمات جیتنا؛ ان حضرات کا پاکستان میں عمومی مشغلہ ہے، مگر مشترکہ امور میں عوام سے اشتراک، دوسری شیجوں سے اور معقولیت سے گفتگو کرنے، افہام و تفہیم اور نزاعی امور میں اصلاح سے عموماً اس جماعت کے اکابر پرہیز کرتے ہیں۔ احساس کہتری اور لامساس کے مرض میں عموماً یہ لوگ جہلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح ذات البین کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ مختلف الخیال جماعتیں مل کر اپنے تنازعات کا منصفانہ فیصلہ کر سکیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ باطنی فررتے کی طرح یہ حضرات نسادات کو سرمایہ حیات سمجھتے ہیں!!

محل نزاع:

اس موضوع پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں محل نزاع کا تعین نہیں فرمایا گیا۔ امام بیہقی نے ائمہ حدیث کی طرح اس موضوع کے متعلق مواد جمع فرمایا ہے۔ حافظ سیوطی نے ”کتاب الروح“ اور ”حیات الانبیاء“ سے استفادہ بھی فرمایا ہے اور بعض احادیث کی توجیہات بھی کی ہیں۔ حافظ سیوطی نے کتاب الروح سے تو استفادہ فرمایا ہے، لیکن معلوم نہیں تصدیق نوئیہ کی طرف ان کی توجہ کیوں مبذول نہیں ہوئی؟ حالانکہ تصدیق نوئیہ میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو بہت زیادہ متبحر فرمایا ہے۔^①

المحدیث اور فقہاء:

اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر: اصحاب الزرائع و اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق

① اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

ہے کہ شہدا اور انبیاء زندہ ہیں۔ برزخ میں وہ عبادات، تسبیح و تہلیل فرماتے ہیں، ان کو رزق بھی ان کے حسبِ حال اور حسبِ ضرورت دیا جاتا ہے۔ شہداء کے متعلق حیات کی وضاحت قرآن عزیز میں موجود ہے۔ انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں۔ صحیح احادیث میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق عبادت وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔

پاکستان میں جو لوگ توحید کا وعظ کہتے ہیں، وہ عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں مہینوں مسلسل سفر کرتے ہیں۔ انبیاء اور شہداء کی برزخی زندگی اور اس زندگی میں مراتب کے تفاوت کے قائل ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ بالکل درست ہے۔

جو شخص قبر میں عذاب یا ثواب کو احادیثِ نبویہ کی روشنی میں مانتا ہو، وہ ان صحابہ کے متعلق عدم محض و فقدانِ صرف کا قائل کیوں ہوگا؟ ہاں مراتب کا فرق یقینی ہے۔ انبیاء کا مقام یقیناً شہداء سے اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے۔ بحث اس میں ہے کہ آیا یہ زندگی دنیوی زندگی ہے؟ دنیوی زندگی کے لوازم اور تکالیف ان پر عائد ہوتی ہیں؟ قیوم میں نماز یا تسبیح برزخی طبیعت کا تقاضا ہے یا شرعی تکلیف کا نتیجہ؟ جو لوگ دنیوی زندگی کے اس معنی سے قائل ہیں، ان سے واقعی اختلاف اور آئندہ گزارشات میں مولانا انظر اور مولانا محمد زاہد صاحب کے ارشادات کی چھان پھلک اسی زندگی کے پیش نظر کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے جسم اطہر کی سلامتی اور مرضی سے غیر متاثر ہونا، اس میں بھی اختلاف نہیں۔ غرض جو کچھ کتاب و سنت میں صراحتاً آیا اور صحیح احادیث اس پر مطلق ہیں، اس میں کوئی نزاع نہیں۔

حیات النبی ﷺ کے متعلق بریلوی عقیدہ:

اس معاملے میں مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قائلِ شکر یہ ہیں، انھوں نے موضوع کو وضاحت سے سامنے رکھا ہے، دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن انھوں نے فرمانے میں کوئی گلی لہنی نہیں رکھی۔ فرماتے ہیں:

”فإنہم (الأنبياء) صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم، طیبون

طاهرون، اَحیاء و اَمواتا، بل لا موت لهم إلا انیا تصدیقا للوعده، ثم هم اَحیاء اَبداً بحیاة حقیقیة دنیویة روحانیة وجسمانیة، كما هو معتقد اهل السنة والجماعة [بریلویہ] ولذا لا یورثون، ویمتنع تزوج نساءهم صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم، بخلاف الشهداء الذین نص الکتاب العزیز انہم اَحیاء، ونہی أن یقال لهم اَموات“ (فتاویٰ رضویہ: ۱/ ۶۱۰)

خان صاحب فرماتے ہیں:

”انبیاء ﷺ پر ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی اور جسمانی لحاظ سے ان کو حقیقی زندگی اور ابدی حیات حاصل ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے (مگر جو اہل سنت ہیں، ان کی کتابوں میں نہیں) اسی لیے ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ازواج کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، لیکن شہداء کی زندگی اس کے خلاف ہے، ان کا ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے اور بیویاں بھی نکاح کر سکتی ہیں۔“ اور اس قسم کی صراحت خان صاحب نے فتاویٰ رضویہ (ص: ۶۱۱) میں فرمائی ہے۔

دیوبندیوں کی بریلویوں سے ہم نوائی:

مولانا حسین احمد صاحب مرحوم مکاتیب میں فرماتے ہیں:

”آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی

بھی اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر۔“ (۱۳۰/۱)

سن ہے مولانا نانوتوی اور بعض اکابر دیوبند بھی اس قسم کی حیات کے قائل تھے۔ شیخ

عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) نے بھی ”مدارج النبوة“ میں حیات دنیوی کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل کیے ہیں۔^① لیکن عام

① فتاویٰ رضویہ (۳/ ۴۰۳ طبع جدید)

② ابناء الأذکیاء (ص: ۱۲ مطبع مطلع انوار دکن)

نقہا اور محدثین احناف، شوافع، موالک، حنابلہ رضی اللہ عنہم سے اس قسم کی صراحت منقول نہیں ہوئی۔ حضرات دیوبند سے بھی حضرت مولانا حسین علی مرحوم (واں بھجراں) اور ان کے تلامذہ مولوی نصیر الدین صاحب وغیرہ بھی صراحتاً اس کے خلاف ہیں۔

غور و فکر کے لیے چند گزارشات:

۱۔ یہ ایسا خیال ہے کہ امت میں کتنی کے دس آدمی بھی نہیں، جو اس کی صراحت کرتے ہوں، اور اسے اجماعی عقیدہ کہنا اہل علم کے لیے مناسب نہیں۔

۲۔ اسے متواتر کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ تواتر کی کوئی شرط بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ کم از کم تواتر میں حواس کا ادراک لازمی ہونا چاہیے۔ قرآن جس زندگی کو خارج از شعور فرما رہا ہے، وہاں حواس اور اس کے استعمال اور ادراک کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟

۳۔ جس اصلاحی تحریک کے ساتھ تعلق کی بنا پر آپ حضرات کو وہابیت کا سرخاب لگایا گیا، اس کے مزاج میں تو سماع موتی کی بھی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ حیات دنیوی اس میں کہاں بچے گی؟ مرحوم مولانا حسین علی صاحب (واں بھجراں) اور پوری جماعت اہل حدیث نے کتاب و سنت اور اس مقدس تحریک کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان ”الہامی“ ادہام کا انکار کر دیا ہے۔

و کنا سلکنا فی صعود من الهویٰ فلما توافینا ثبت وزلت

۴۔ خان صاحب بریلوی اور مولانا حسین احمد رضی اللہ عنہ نے انبیاء کی حیات کو شہداء کی منصوصی حیات سے ممتاز فرمایا ہے کہ انبیاء کی حیات اتوی ہے، مگر اس طرح شہداء کو مقیس علیہ قرار دے کر انبیاء کی حیات کو ثابت کرنا درست نہ ہوگا۔ اتوی کو اضعف پر قیاس کرنا اصول کی تصریحات کے خلاف ہے۔

۵۔ انبیاء کے ترکہ کی تقسیم اور نکاح ازواج کی حرمت کی علت اگر واقعی دنیوی زندگی ہے تو اس کا حکم شہداء کی ازواج اور ترکہ کے متعلق بھی وہی ہونا چاہیے۔ خان صاحب

اور مولانا نے اس میں خلاف کی صراحت فرمائی ہے، اس لیے حیاتِ انبیاء کے لیے سورت بقرہ اور آل عمران کی آیات کو اساسی نہیں قرار دینا چاہیے۔¹

یہ ایسے اوہام کو عقیدہ کہنا بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کتب عقائد (شرح عقائد نسفی، عقیدہ طحاویہ، شرح العقیدۃ الاصغریہ، عقیدہ صابونیہ وغیرہ) میں اس کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ کتب عقائد کے سارے مشمولات کے مستقل عقیدے کی حیثیت بھی محل نظر ہے۔ عقیدے کے لیے حسب تصریح مکلفین اور اشاعرہ و ماتریدہ یہ قطعی دلائل کی ضرورت ہے۔ حیاتِ انبیاء کی احادیث اسناد کے لحاظ سے اخبار آحاد صحیحہ سے بھی فرود تر ہیں۔

كما لا يخفى على من له نظر في فن الرجال.

آنحضرت ﷺ کے انتقال کے وقت بعض امہات المؤمنین کی عمر بہت کم تھی۔ خان صاحب بریلوی نے اہل اللہ کی حیاتِ دنیوی کے ساتھ شبِ باشی کا راستہ بھی کھول دیا۔ (ملفوظات: ۳/۳۶) لا حول ولا قوة إلا باللہ۔

اکابر دیوبند صرف زندگی کے قائل ہیں اور خیال فرماتے ہیں کہ عقلاً زندگانی کافی ہے، حالانکہ حقوقِ زوجیت کے لیے صرف حیاتِ کافی نہیں۔ کیا اس قسم کے بھونڈے استدلال سے پرہیز ہی زیادہ مناسب نہ تھا؟

موت کی پوری حقیقت تو معلوم نہیں، بہ ظاہر فوتِ جسم اور روح کے انفصال کا نام ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس پر شریعت نے عدت اور تقسیم ترکہ کے احکام مرتب فرمائے ہیں۔ اہل سنت موت کے بعد جسم اور روح کے غیر شعوری تعلق کو مانتے ہیں، عدم محض اور کلی فقدان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مولانا محمد زاہد صاحب کے ارشادات کا آخری حصہ بالکل بے ضرورت ہے۔ پاکستان کے اہل توحید انبیاء ﷺ کے متعلق موت کی کسی نئی قسم کے قائل نہیں۔

1 سورة البقرة، آیت (۱۵۴) اور سورت آل عمران، آیت (۱۶۹) کی طرف اشارہ ہے۔

۱ دنوی زندگی ماننے سے کوئی عقلی مشکل تو قطعاً حل نہیں ہوگی، البتہ بیسیوں مشکلات اور سامنے آجائیں گی، جن کا حل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔

تفہم آپ سے دریافت کریں گے کہ زندہ نبی کو دیوار کی اوٹ میں چھپانے میں کیا حکمت ہے اور اس سے کیا حاصل؟ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسندِ خلافت پر کیسے تشریف رکھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ترکہ کیوں طلب کیا؟ کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ والد کی زندگی میں یہ مطالبہ درست ہی نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث «نحن معاشر الأنبياء»^۱ فرما کر ان کو مطمئن فرمایا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ مطالبہ قبل از وقت ہے؟ فقہ ارتداد اور بعض دوسرے مہائب میں نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کی طرف رجوع کیا، نہ آنحضرت ﷺ نے کوئی مفید مشورہ دیا، حالانکہ زندگی میں بوقتِ ضرورت دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

حافظ ابن قیمؒ کیا خوب فرماتے ہیں:

لو كان حياً في الضريح حياته	قبل الممات بغير ما فرقان
ما كان تحت الأرض بل من فوقها	والله هذا سنة الرحمان
أترأه تحت الأرض حياً ثم لا	يفتيهم بشرائع الإيمان
ويريح أمته من الآراء وا	لخلف العظيم وسائر البهتان
أم كان حياً عاجزاً عن نطقه	وعن الجواب لسائل لهفان
وعن الحراك فما الحياة اللات قد	
أبتموها	أوضحوا
	ببيان

(نصيده نونية، ص: ۱۵۱، طبع مصر)

”اگر آنحضرت ﷺ کی زندگی دنوی ہے تو زمین کے نیچے کی بجائے عادت کے مطابق آپ کو زمین کے اوپر رہنا چاہیے۔ آپ زمین کے نیچے زندہ ہوں

اور فتویٰ نہ دیں، صحابہ کو اختلاف اور ان پر بہتان سے نہ بچائیں، اگر زندہ ہوتے تو سوال کا جواب دیتے، نیز اگر حرکت کرنے سے عاجز ہیں تو پھر وہ زندگی نہ رہیں، جسے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔“

دنیوی زندگی ماننے کی صورت میں اس قسم کے سینکڑوں عقلی سوال آپ پر عائد ہوں گے اور اسلامی تاریخ ایک معما ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح، مختار بن عبید ثقفی کی عیاریاں، حرہ کا فتنہ، میلہ اور اسود کی نبوت، حجاج بن یوسف کے مظالم، عباسی انقلاب، سقوط بغداد اور ترکوں کے مظالم، قادیانی نبوت جیسے حوادث، لیکن کہیں بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت فرمائیں۔ مسجد کے ایک خادم کی موت پر حضرت بے قرار ہوں اور قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائیں اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی شہادت پر تعزیت کے لیے بھی تشریف نہ لائیں! عقل مند اور ذہین لوگ آپ سے دریافت کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہے؟

حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تلخی بالکل بر محل ہے:

يا قومنا استحيوا من العقلاء
والله لا قدر الرسول عرفتم
من كان هذا القدر مبلغ علمه
ولقد أبان الله أن رسوله

والمبعوث بالقرآن والرحمان
كلا ولا للنفس والإنسان
فليستتر بالصمت والكتمان
ميت كما قد جاء في القرآن

(قصيدة نونية، ص: ۱۴۲)

”اے قوم! تمہیں خدائے ذوالجلال، قرآن اور عقلمندوں سے شرم محسوس ہونی چاہیے۔ نہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو پہچانا نہ انسانیت اور روح کی اقدار کو تم نے سمجھا۔ جس کا اسی قدر مبلغ علم ہو، اسے خاموش ہو کر چپ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد ہو چکی ہے۔“

① دیکھیں: صحیح البخاری (۱/ ۵۶)

انبیاء کی حیاتِ دنیوی اہل بدعت کا مذہب ہے:

ابن القیم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیاتِ دنیوی اہل بدعت اور معطلہ کا مذہب ہے۔ قصیدہ نوئیہ (ص: ۱۴۰) ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں:

”ہماری یہ شہادت ہے کہ تم زمین پر قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے، نہ آسمان پر خدا کو تم قابلِ اطاعت سمجھتے ہو اور نہ ہی تمہارے خیال میں آنحضرت ﷺ قبر میں مدفون ہیں۔“

اگر مولوی احمد رضا اس قسم کی ہلکی باتیں کہیں تو تعجب نہیں، اہل توحید اور مدرسین حدیث سے اس قسم کے خیالات کا اظہار تعجب انگیز ہے!!

کیا موت انبیاء کے لیے موجبِ توہین ہے؟

یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انبیاء ﷺ اور اہل اللہ کے حق میں ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ موت کوئی بُری چیز نہیں۔ نطفہ سے شروع ہو کر قبضِ روح، طفولیت، صبا، مراهقت، شباب، کھولت، شہنوش، زندگی کے مختلف مراتب ہیں۔ ان میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ عوارض ہیں، مگر انبیاء، صلحاء، اہل اللہ! سب کو اس راہ سے گزرنا ہے، اس لیے کسی کے لیے ان میں سے کوئی منزل نہ تو خوشگوار ہے، نہ موجبِ توہین ہے۔ زندگی بہر حال ان ہی منازل سے تعبیر ہے۔

قرآن عزیز نے فرمایا:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [المائدہ: ۲]

یعنی موت و حیات اسی دارالابتناء کی منازل ہیں، جن سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ دنیوی زندگی سے آخرت تک پہنچنے کے لیے موت ایک ہل ہے، جسے سب کو عبور کرنا ہے، اس میں نہ تخفیر ہے نہ لہانت۔ اگر موت کوئی بری چیز ہے تو انبیاء اور صلحاء پر اسے ایک آن کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے اور اگر واقعی آخرت کے سفر کی یہ بھی ایک منزل ہے تو اس کے لیے بیچ و تاب کھانے کی ضرورت نہیں۔ اسے اسی قانون سے آنا چاہیے جو ساری کائنات

کے لیے اس کے خالق نے تجویز فرمایا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ کو فرمایا:

«لعلی لا ألقاك بعد عامي هذا» (مجمع الزوائد)^①
 ”شاید میں تمہیں آئندہ نہ مل سکوں۔“

اسی طرح ایک خاتون سے فرمایا:

«إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (مشکوٰۃ)^②

”اگر میں زندہ نہ رہا تو تم (حضرت) ابو بکر کے پاس آنا۔“

سورت نصر کے نزول پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کو خطرہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ رو دیے۔ آنحضرت ﷺ نے کچھ سنا اور ایک لمحہ کے لیے اسے ناپسند نہیں فرمایا۔ تاریخ، سیرت اور سنت کے دفاتر موت کے حوادث سے بھرپور ہیں، پھر معلوم نہیں ہم لوگ اس کے ذکر سے لرزہ بر اندام کیوں ہیں؟ آنحضرت ﷺ کی وفات کے تذکرہ سے از دیوبند تا بریلی ارتعاش کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے!!

احادیث کی کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی وفات، موت، تجھیز و تکفین، دفن کے عنوان موجود ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ بعض اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد سر کے بال کٹوا دیے، اس لیے کہ اب ان کی ضرورت نہیں۔^③ (صحیح مسلم) بعض اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم نے سر بالکل منڈوا دیا۔^④ (مجمع الزوائد)

① مسند أحمد (۵/۲۳۵) صحیح ابن حبان (۲/۵۸) حدیث کے الفاظ ہیں: «لا عسى أن لا نلقاني

بعد عامي هذا» نیز دیکھیں: مجمع الزوائد (۴۰۳۶) وقال: «رواه البزار، ورجاله ثقات»

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۴۵۹) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۳۸۶)

③ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۲۰)

④ مسند إسحاق بن راہویہ (۴/۲۲۴) صحیح ابن حبان (۹/۴۴۲) مسند أبی یعلیٰ (۱۳/۱۷)

اس روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے سر منڈوانے کا تذکرہ ہے، جس کا سبب مسند اسحاق کی روایت میں سر میں تکلیف کے سبب سنگی لگوانا مرقوم ہے۔

کیونکہ حضرت انتقال فرما چکے۔ اسے موت کہیے، وصال کہیے، آنحضرت ﷺ کو خلوتِ مگزین فرمائیے؛ کوئی عنوان اختیار فرمائیے، حقیقت یہ ہے کہ جسم اور روح کا دنیوی پیوند ٹوٹ چکا ہے۔ یہی موت ہے جو برزخی احوال اور قبر کی زندگی کے مابین نہیں، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا ایک صحیح ذریعہ ہے۔ آپ فرمائیں کہ عالم برزخ میں موت اور زندگی میں تداخل ہے تو مجھے اس اعتراض سے انکار نہیں، مگر موت کا انکار اہل علم سے ایک شرمناک سانحہ ہے۔

عنوان سے حقیقت نہیں بدلتی:

عنوان اور تعبیرات کی تبدیلی سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ مولانا حسین احمد جلالی قدر اور مولانا نانوتوی کی غزارتِ علمی اور شیخ عبدالحق بلوچ کی سادگی اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی، جس کا اقرار قرآن حکیم نے محکم آیات میں فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع فرمایا ہو، اور دنیا کی تاریخ نے اس کی تصدیق فرمائی ہو۔ غرض موت سے گھبراہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں، یا پھر صراحت فرمائیے کہ موت بڑی چیز ہے، اس میں خفارت پائی جاتی ہے اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی مت تسلیم فرمائیے۔ واقعی آنحضرت ﷺ کی بے ادبی کفر ہے۔

کراہیۃ الموت:

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے موت سے کراہت کفر کی علامت ہے۔ یہودی اور مشرک موت کو ناپسند کرتے تھے:

﴿وَلَوْ لَتَجِدَنَّهٗمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوَةٍ ۖ وَ مِنَْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ

أَحْذَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ۱۹۶]

یہودی اور مشرک دنیوی زندگی کے زیادہ خواہشمند تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ہزار سال زندہ رہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں، عذاب بہر حال ہو کر رہے گا۔

غزوہ احد میں منافق بھی موت ہی سے گھبراتے تھے۔ قرآن عزیز نے فرمایا:

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ كُفْرُكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَّشِيدَةٍ﴾

النساء: 178

”تم کج گنبدوں میں بھی قیام کرو، موت ضرور آئے گی۔“

آنحضرت ﷺ کی دعوتِ مباہلہ:

انبیاء ﷺ اور صلحاء امت! جن کا مستقبل انتہائی تابناک اور روشن ہے، وہ اس سے کیوں گھبرائیں؟ آنحضرت ﷺ، فداہِ روحی، نے مخالفین کو دعوتِ مباہلہ دی۔ ہم اگر ان سے موت کی نفی کریں تو مدعی ست اور گواہ پُست کی مثال صادق آئے گی۔ الٰہی توحید کا مقام ہے کہ اس میں انبیاء ہی کی طرح وہ راضی بہ رضا ہیں، نہ زندگی سے سرت نہ موت کا غم، جو حکم آئے اس کے لیے ہر وقت تیار۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے، مولانا بریلوی ایک آن کے لیے موت تسلیم کرتے ہیں، اگر موت مقامِ نبوت کے منافی ہے تو ایک آن کے لیے بھی کیوں ہو، اگر یہ منافی نہیں تو ان کے لیے کیوں بدلا جائے؟

خان صاحب بریلوی کی طویل ایک ”آن“:

اور خان صاحب بریلوی کی ”آن“ تو اتنی طویل ہے کہ آنحضرت ﷺ کا انتقال سوموار کو ہوا، ذہن بدھ کو فرمایا گیا، گھر والوں نے جمعیت و مخلصین کے انتظامات کیے، دوسرے ساتھیوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں آئندہ خلافت کے متعلق دانشندانہ فیصلہ فرمایا، آنحضرت ﷺ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی، ایک لاکھ سے زائد صحابہ نے پڑھی۔ خان صاحب کی ربڑکی ”آن“ ختم نہ ہو سکی یا پھر ملائکہ اور صحابہ کو آنحضرت ﷺ کی دنیوی زندگی کا احساس نہ ہوا۔ تیسرے دن اٹکبار آنکھوں کے ساتھ جیتے پیغبر کو دفن کر دیا، اس زندگی کو نہ بیویاں سمجھ سکیں، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جان سکیں۔ مشہد کے شیعہ حضرات آپ سے دریافت کریں گے کہ زندہ درگور کرنے والے آیا آنحضرت ﷺ کے سچے ساتھی تھے؟ علمائے اہلسنت دریافت

کریں گے: یہ ”آن“ کتنے گھنٹوں کی تھی؟ یا للعقول الطائشة وسا للمضحكات!
وقد صدق ابن القيم:

والله ما قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والانسان

حیاتِ شہداء کی تحقیق اور اس کی نوعیت:

کفار موت کو عدم محض یا کھلی فندان سمجھتے تھے۔ قرآن نے موت کے اس اصطلاحی مفہوم کا شہداء کے حق میں انکار کیا۔ یہ درست ہے، لیکن قتل کے عنوان سے جسم اور روح کے انفصال کا اعتراف فرمایا۔ یا ان کا خیال تھا کہ موت کے بعد داعی فنا میں ان اعمال پر کوئی جزا مرتب نہ ہوگی۔ قرآن نے اس معنی سے نفی فرمادی اور اس دنیا سے رخصت کے بعد رزق اور نئی زندگی کا اعلان فرمایا، جو دنیوی زندگی سے مختلف ہوگی، اتنی مختلف کہ دنیا والے اس کا شعور بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن موت بمعنی انفصالِ روح سے انکار قطعاً غلط ہے اور ہدایتِ حسی سے جنگ۔ ولا یرغب عن نفسه إلا من سفہ نفسه.

پھر یہ زندگی اگر دنیوی زندگی ہی تھی تو «لا تشعرون» کیوں فرمایا گیا؟ اور انسان اس قدر بے شعور ہیں کہ اس زندگی کو بھی نہیں سمجھتے۔ جس کی زلف پریشان کے بناؤ سنگار میں پوری زندگی صرف ہو رہی ہے، وہی سوسفطائیت ہوئی، جسے عقل گوارا کرتی ہے نہ نقل اس کی تائید کرتی ہے۔

دلائل:

سابقہ عمومی گفتگو کے بعد اس موضوع پر مزید گفتگو کی چنداں ضرورت معلوم نہیں ہوتی اور محلِ نزاع کی تعیین کے بعد دونوں بزرگوں نے جو دلائل ارقام فرمائے ہیں۔ وہ خود بہ بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آیات اور احادیث اور ائمہ سلف کے اقوال میں دنیوی زندگی کا ذکر بالکل نہیں اور حضراتِ علماء کی آرا قابلِ احترام ہونے کے باوجود شرعاً حجت نہیں، اس کے باوجود مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کمزور تسکات پر بھی مختصر گفتگو ہو جائے۔ قرآن عزیز نے شہداء کی زندگی کا ذکر سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں فرمایا ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۵۴]

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آن عمران: ۱۶۹]

دونوں آیات شہداء کی زندگی میں نص ہیں۔ اہل سنت کے مکاتب فکر سے کسی نے اس زندگی کا انکار نہیں کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد راضی فرماتے ہیں:

”آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہدا کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیاتِ دنیوی بلکہ بہت وجہ سے اس سے قوی تر۔“
(مکاتیب: ۱/۱۳۰، بحوالہ ”دارالعلوم“ نومبر ۱۹۵۷ء)

مولانا شہدا کی زندگی کو روحانی سمجھتے ہیں اور انبیاء کی جسمانی دنیوی کو اس سے قوی تر۔ ظاہر ہے کہ حسب ارشاد مولانا، یہ آیت روحانی برزخی اور کمزور زندگی کے لیے دلیل بن سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیوی جسمانی طاقتور زندگی اس سے بالکل مختلف ہے، اس کے لیے یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی، نہ ہی اس پر اس کا قیاس درست ہو سکتا ہے۔

آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ شہداء کی زندگی کے باوجود ان کی بیویاں نکاح کر سکتی ہیں، ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اور انبیاء کی زندگی چونکہ قوی تر ہے، اس لیے نہ ان کی ازواج نکاح کر سکتی ہیں نہ ان کا ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اندریں صورت حال یہ آیت اس کے لیے کیا دلیل ہو سکے گی؟

شہداء کی زندگی کے متعلق سورت بقرہ میں: ﴿لَا تَشْعُرُونَ﴾ فرمایا ہے، یعنی یہ زندگی تمہارے شعور سے بالا ہے۔ آل عمران میں ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ فرمایا۔ محط فائدہ قید زائد ہے، ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ کا تعلق ﴿أَحْيَاءٌ﴾ سے ہو یا ﴿يُرْزَقُونَ﴾ سے، دونوں ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ہوں گی۔ ”فی الدنيا“ نہیں ہوگی۔ اس لیے شہداء کی زندگی تو بیس قرآن

﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ہے اور انبیاء کی برزخی زندگی جسمانی دنیوی ہے۔ وہیں ہما بوند۔ اس لیے انبیاء کی زندگی کے لیے ان آیات سے استدلال نہیں ہو سکتا۔

اب آپ حضرات اگر اس گزارش سے متفق ہوں تو شہداء کی زندگی کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا اور حیاتِ دنیوی پر ان سے استدلال بھی درست نہیں ہوگا۔ جب زندگیوں ہی دونوں الگ الگ ہیں تو نہ ایک کا قیاس دوسری پر ہو سکے گا، نہ ایک کے دلائل دوسری کے لیے دلیل بن سکیں گے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے معادِ رزق سے اگر دنیوی معاد سمجھا ہے تو یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ شہداء کی زندگی جب عند اللہ ہے تو دنیوی رزق وہاں کیسے جاسکتا ہے؟ اگر معادِ برزخی مراد ہے تو حیاتِ دنیوی کے لیے یہ رزق دلیل نہیں بن سکے گا۔

رزق سے استدلال بے معنی ہے:

ایسے رزق سے زندگی کا استدلال بالکل بے معنی اور غلط ہے۔ رزق انبیا اور شہداء کے علاوہ برزخ میں باقی ایمان دار مرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ ارشادِ ربانی پر غور فرمائیں:

﴿وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ

رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الحج: ۱۵۸]

آیت میں موت اور قتل دونوں پر رزق کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ پس جب رزق طبعی موت سے مرنے والوں کو بھی ملتا ہے تو رزق سے زندگی پر استدلال صحیح نہ رہا۔ آپ حضرات کے نظریات سے لازم آتا ہے کہ کوئی بھی مرتا نہیں، یوں ہی موت کا لفظ لغت میں رکھ لیا گیا ہے!!

شاہ عبدالعزیز کی تحقیق:

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں:

”آرے ارواحِ شہیدان از صححاتِ ایں جہاں و تکلیفاتِ دنیا دور افتادہ اند،

اما صحعات جسمانیہ بے تکلفات دارند اصلاً روئے غم و الم نے بیند، بس در حقیقت حیات ایساں آتم از حیات دنیوی است“ (تفسیر عزیزی، ص: ۴۷۱)

یعنی شہدا کی روحیں اس دنیا کے فوائد اور تکلیفات سے تو بہت دور جا چکی ہیں، لیکن عالم برزخ میں ان کو دوسرے اجسام (سبز پرند وغیرہ) عطا ہوتے ہیں، ان سے وہ بے تکلف مستفید ہوتے ہیں، انھیں فکر اور غم نہیں ہوتا، ان کی یہ زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”اس نوع تعلق کہ ارواح شہداء رابا جانوراں پرندہ بہم میرسد ہم بیروں از عالم عناصر است“ (تفسیر عزیزی، ص: ۴۷۱)

”شہدا کا جن پرندوں سے تعلق ہے، یہ بھی اس عنصری دنیا سے بالکل الگ ہیں۔“

”پس حیات شہداء در عالم برزخ حیات جزائی ست بہ حیات ابتدائی۔“

(تفسیر عزیزی، ص: ۴۷۲)

”برزخ میں شہدا کی زندگی جزائے اعمال کے لیے ہے، ابتدائی اور اعمال کی زندگی نہیں۔“

شاہ صاحب کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی زندگی اس عنصری دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ وہ عالم برزخ اور دار الجزاء کی زندگی ہے۔ معلوم نہیں ہمارے ان اکابر کو دنیوی زندگی کہاں سے سمجھ میں آئی اور دنیوی زندگی سے ان کو کیوں محبت ہے؟ دنیوی زندگی کو ترجیح کفار کا خیال تھا:

﴿إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ۲۹] (جو کچھ ہے دنیا ہی دنیا ہے)

انبیاء اور شہداء کے تو تصور میں بھی ایسا نہیں آسکتا۔ ابن القیم کا تجزیہ کس قدر درست ہے:

والله لا الرحمان أنتم ولا
عظمتكم الأبدان من أرواحها
أرواحكم يا مدعي العرفان
والعرش عظمتكم من الرحمان

جیسا کہ گزرا۔ یہ عقیدہ ابن قیم کی تحقیق کے مطابق فرقہ معطلہ کا تھا۔ عقائد کے بارے میں یہ لوگ اپنے وقت کے بدعتی تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ شہداء اور انبیاء کی حیاتِ دنیوی کا نہیں، حیاتِ برزخی ہے، جس کی صراحت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔

علامہ آلوسی حنفی کی تصریحات:

شیخ شہاب الدین ابو الفضل السید محمود آلوسی بغدادی (۱۲۷۰ھ) نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محقق، عراق کے مفتی اور مسلک حنفی ہیں، روح المعانی (پارہ ۲، سورہ بقرہ) میں اس موضوع پر کس قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ انھوں نے حیاتِ شہداء کے متعلق پانچ مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اول جسمانی، دوسرا روحانی، باقی مسائل باطل ہیں۔ پہلے مسلک کے متعلق فرماتے ہیں: یہ راجح ہے۔ ابن عباس، قتادہ، مجاہد، حسن، عمرو بن عبید، واصل بن عطاء، جبائی، ربائی اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہی پسند کیا ہے۔

جسم کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض اسی جسم کے قائل ہیں، جس پر شہادت وارد ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس حیات کا تعلق پردوں سے ہے، جن کا رنگ سبز ہوگا، ان کے آشیانے قدیمیں ہوگی۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ دنوں جسم سے ملتا جلتا جسم ان کو عطا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من شهيد وغيره، وأن الأرواح وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما حس به من البدن، لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف“^① (ص: ۲۱، ب: ۲)

یعنی حیاتِ برزخی سب کے لیے ثابت ہے۔ شہید اور دوسرے سب اس میں شامل ہیں۔ ارواح قائم بالذات ہیں (مذہب اہل سنت) اس محسوس دنیوی

① تفسیر روح المعانی (۲/۲۱)

بدن سے مغایر ہیں، لیکن برزخی جسم سے تعلق میں کوئی مانع نہیں۔ یہ دنیوی کثیف بدن سے مختلف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”وإن أرواح الشهداء يثبت لها هذا التعلق على وجه يستأزرون به عن عمداهم، إما في أصل التعلق أو في نفس الحياة بناء على أنها من المشكك لا المتواطئ“ اھ

”شہداء کی ارواح کا یہ تعلق باقی اموات سے امتیازی ہے، یہ امتیاز روح کے تعلق میں ہو یا زندگی ہی کلی مشکل ہو۔“ دنیوی جسم کے متعلق فرماتے ہیں:

”خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ چنداں مستبعد نہیں، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ دنیوی جسم کے ساتھ زندگی سے کمزور اعتقاد لوگوں کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے اور ایک سفاہت پر یقین دلانے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔“

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ برزخی زندگی کے قائل ہیں اور اسی زندگی میں شہدا اور عام اموات کو شریک سمجھتے ہیں، لیکن اس زندگی میں تو اٹوکی بجائے تشکیک سمجھتے ہیں، تاکہ شہدا اور باقی اموات کا امتیاز رہے۔ ان کے اس مفصل ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ سنت سے ان کے زمانے ۱۲۷۰ھ تک دنیوی زندگی کا کوئی بھی قائل نہیں۔ دنیوی جسم کے ساتھ تعلق کے جو لوگ قائل ہیں، وہ بھی تعلق کی نوعیت برزخی سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں اکابر دیوبند میں یہ غلط عقیدہ کہاں سے آ گیا ہے؟ علامہ آلوسی آخر میں فرماتے ہیں:

”وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مئات سنين، وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دماء، إذا رفعت العصابة عنها فذلك مما رواه هيان بن بيان، وما هو إلا حديث خرافة، وكلام يشهد على مصدقيه تقديم الخرافة“ اھ (ص: ۲۲، پ: ۲)

”اور ایسی حکایات جن میں صدیوں کے بعد شہدا کے اجسام سے خون بہنے کا ذکر ہے، یہ سب خرافات ہیں، ان کے راوی غیر مستند ہیں اور ان حکایات کی تصدیق کرنے والے نحیف العقل ہیں۔“

تعب ہے مولانا بدر عالم صاحب ایسے ثقات نے بھی ان روایات کا تذکرہ مجمل تنقید کے ساتھ فرمایا ہے، حالانکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب اور ان کی پارٹی کے مزخرفات کے جواب میں اس قسم کی روایات پر محمد ثناء تنقید ہونی چاہیے، تاکہ شکوک وغیرہ عامۃ المسلمین کے ذہن کو مآذف نہ کر دیں۔

حافظ ابن جریر کی تصریح:

حافظ ابن جریر سورت بقرہ کی تفسیر میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ برزخی زندگی تو سب کے لیے ہے، پھر شہدا کی خصوصیت کیا ہے؟

”إنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها الله أحدا في برزخه قبل بعثه“^① (ابن جریر: ۲/۲۶)

”شہدا، کو جنت کے لذیذ کھانے برزخ ہی میں ملیں گے، دوسرے لوگوں کو یہ انعامات برزخ کے بعد جنت میں ملیں گے۔“

یعنی شہدا، کی زندگی برزخی ہے، دنیوی نہیں، ان کا برزخ جنت کی نظیر ہے۔ جنت کے لذائذ ان کو قبر ہی میں مرحمت فرمائے جائیں گے۔ یہی حریت ہے جسے حیات سے تعبیر فرمایا اور انھیں میت کہنے سے روکا گیا ہے۔

مولانا نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ والی بھوپال مکتب فکر کے لحاظ سے اہلحدیث ہیں،

① تفسیر ابن جریر (۲/۲۶۶)

اس لیے آپ حضرات کو ان سے یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دقتِ نظر، وسعتِ مطالعہ، زہد و تقویٰ کے لحاظ سے ان کا مقام یقیناً بہت اونچا ہے اور فہمِ قرآن میں ان کا ذہن بے حد صاف ہے۔ بہت سے اکابرِ تداء سے بھی ان کی رائے صائب معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”بل ہم أحياء في البرزخ تصل أرواحهم إلى الجنان، فهم أحياء من هذه الجهة، وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح من أجسادهم“ اھ (فتح البیان: ۱/۱۰۴)

”شہداء برزخ میں زندہ ہیں، ان کی روہیں جنت میں جاتی ہیں، گو روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ چکا ہے۔“
صفحہ (۲۰۵) میں فرماتے ہیں:

”روح جو ہر قائم بالذات بدن سے حسی طور پر مغایر ہے، جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے نزدیک موت کے بعد بھی اس کا ادراک باقی رہتا ہے، کتاب و سنت کا یہی فشا ہے۔“

درسیات کے مشہور عالم ملا جیون (صاحب نور الانوار) نے ”التفسیرات الأحمدیة“ (ص: ۳۹، ۴۱، طبع کریمی بمبئی) میں حیاتِ شہدا پر طویل بحث کے سلسلے میں اسے برزخی ہی قرار دیا ہے۔

پیش کردہ احادیث پر ایک نظر:

حیاء الانبیاء بیہقی کے حوالے سے اس مسئلے میں دس احادیث مرقوم ہیں۔ مقامِ نزاع کے تعین کے بعد ان میں سے کوئی استدلال کے قابل نہیں، پھر حیاتِ دنیوی کا ذکر کسی میں بھی نہیں۔ احادیث کے نام کی اہمیت اور اسلام میں سنت کے مقام کی رفعت کے پیش نظر اس کے متعلق اختصار سے کچھ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوا۔ نامہ نگار کا تعلق دیوبند جیسی علمی درس گاہ سے ہے، اس لیے بعض اہم احادیث کو جرح و توثیق کے لحاظ سے یہاں جانچا جاتا ہے۔

پہلی حدیث:

«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»^① (بیہقی کارسالمہ، خصائص کبریٰ)

تحقیق:

اس حدیث کی سند میں حسن بن حمیہ خزاعی ہے، جس کے متعلق ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابن عدی کا قول ”لا بأس به“ ذکر کر کے اپنی اور دوسرے ائمہ کی رائے ذکر فرمائی:

”قلت: بل هو هالك. قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث. قال أبو حاتم: ضعيف. قال الأزدي: واهي الحديث. قال العقيلي: كثير الوهم“ (۱/ ۲۴۱)

یعنی ائمہ جرح و تعدیل کی نظر میں یہ ”هالك“، ”متروك الحديث“، ”ضعيف“، ”واهي الحديث“، ”أو كثير الوهم“ ہے۔

حافظ ابن حجر نے ”لسان الميزان“ (۱/ ۲۴۶) میں ذہبی کی پوری عبارت نقل فرما کر اس جرح کی تصدیق فرمادی ہے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اسے ”واهي الحديث“ اور ”متروك الحديث“ فرمایا ہے۔ (تاریخ بغداد: ۷/ ۴۰۵)

باقی رہا شوکانی کا تحفۃ الذاکرین میں »رد اللہ علی روجی« کی تشریح میں یہ لکھنا: »لأنه ﷺ حي في قبره، و روحه لا تفارقه لما صح أن الأنبياء أحياء في قبورهم« (ص: ۲۸) تو سابق مفصل جرح کے موجود ہوتے ”صح“ سے مصطلح صحت مراد لینا تو مشکل ہے۔ یہ ”صَحَّ“ بمعنی ”ثَبَّتَ“ ہی ہو سکتا ہے، جب تک حدیث پر وضع کا حکم یقینی نہ ہو، محدثین کے نزدیک ”ثَبَّتَ“ سے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ نیل الاوطار میں شوکانی نے یہی لفظ اختیار فرمایا ہے:

① حياة الأنبياء لبيهقي (ص: ۲۸)

”وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم“ (۳۰۵/۳)

ایسی احادیث کا تذکرہ مواعظ اور فضائل کی مجالس میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی۔ اہل حدیث اور ائمہ فن کے نزدیک اعتقاد کے لیے خبر واحد صحیح ہونی چاہیے۔ کما ذکرہ ابن القیم في الصواعق المرسلۃ۔ اس حدیث کے متعلق ابن القیم فرماتے ہیں:

وحدیث ذکر حیاتہم بقبورہم لما یصح وظاہر النکران فانظر إلى الإسناد تعرف حاله هذا ونحن نقول هم أحياء والتراب تحتهم وفوق رؤوسهم مثل الذي قد قلموها معاذنا

لكن عندنا كحياة ذي الأبدان وعن الشمائل ثم عن إيمان بالله من إفاك ومن بهتان

”انبیاء کی حیات فی القبور جس حدیث میں مذکور ہے، اس کی سند صحیح نہیں۔ اہل فن کو اس کی سند پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مبارک جسم کے دائیں بائیں نیچے اوپر مٹی موجود ہے اور جس زندگی کے تم قائل ہو، اس جھوٹ اور بہتان سے خدا کی پناہ۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز:

حدیث نمبر ۲، ۳، ۴ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے انھیں قبر میں نماز ادا فرماتے دیکھا۔^① یہ بھی حیات دنیوی نہیں، برزخی ہے۔ قبر میں بھی دیکھا، بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہوئے، پھر آسمان پر بھی آپ سے ملاقات فرمائی اور مفید مشورے دیے۔

① القصبة النونية (ص: ۱۸۴)

② مسند أحمد (۲/ ۵۹) سنن الترمذی (۳/ ۳۶۶)

آنحضرت ﷺ نے حضرت یونس علیہ السلام کو احرام باندھے شتر سوار تلبیہ کہتے سنا۔^① وہاں کو بحالت احرام حج کے لیے جاتے دیکھا۔ عمرو بن لُحی کو جہنم میں دیکھا۔^② یہ برزخی اجسام ہیں اور کشفی رؤیت ہیں۔ اگر اسے دنیوی حیات سے تعبیر کیا جائے جو وہاں جیسے نصیحت لوگوں کو بھی حاصل ہوئی تو انبیاء کی فضیلت کیا باقی رہی؟ انبیاء کی حیات اہل سنت کے نزدیک شہدا سے بہتر اور قوی تر ہے۔ برزخ میں عبادت، تسبیح، تہلیل اور رقتِ درجات ان کو حاصل ہے اور بعض واقعات صرف مثالی ہیں، جو آنحضرت ﷺ کو آیاتِ کبریٰ کے طریق پر دکھائے گئے، ان سے زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولانا نے کتاب الروح لابن القیم سے بعض حکایات نقل فرمائی ہیں، تعجب ہے کتاب الروح کے اہم مباحث کیونکر ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے؟

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے امام ابن حزم کا ایک حوالہ ان کی کتاب ”الفصل“ سے نقل فرما کر اس کے بعض حصص پر تنقید فرمائی ہے، اس میں اس حیات کا واضح تذکرہ فرمایا ہے:

”قلت ما ذكره ابن حزم، فيه حق و باطل، أما قوله: من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ. فهذا فيه إجمال، إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيه الروح بالبدن، وتدبره وتصرفه، وتحتاج معها إلى الطعام والشراب، فهذا خطأ كما قاله، والحسن والعقل يكذبه، كما يكذبه النص، و إن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة، بل تعاد الروح إليه غير الإعادة المألوفة في الدنيا لیسال ويمتحن في قبره، فهذا حق، ونفيه خطأ، قد دل عليه النص الصريح

① صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٦)

② صحيح البخاري، رقم الحديث (١١٥٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٨٥٦)

وہو قولہ: "فتعاد روحہ فی جسدہ" اہد (کتاب الروح، ص: ۵۲) یعنی اگر زندگی سے دنیوی زندگی اور اس کے لوازم مراد ہیں تو یہ یقیناً غلط ہے، ایسی زندگی میت کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس سے مراد دنیوی زندگی کے علاوہ ہے، جس میں روح کا اعادہ عقاد زندگی کی طرح نہ ہو، اس کا مقصد صرف سوال اور امتحان ہو تو یہ درست ہے، اس کا انکار غلطی ہے۔ یہ زندگی نص صریح سے ثابت ہے۔

پھر صفحہ (۵۳) میں فرماتے ہیں:

"جسم کے ساتھ روح کا تعلق پانچ طرح ہوتا ہے:

① ماں کے پیٹ میں بصورت جنین۔

② پیدائش کے بعد۔

③ نیند کے وقت من وجہ تعلق، من وجہ علیحدگی۔

④ برزخ کا تعلق، اس میں گو علیحدگی ہو جاتی ہے، لیکن تجرد کلی نہیں ہوتا، بلکہ سلام کے

جواب کے لیے اسے لوٹایا جاتا ہے، لیکن یہ دنیوی زندگی نہیں ہوتی، جو اسے قیامت سے پہلے حاصل تھی۔

⑤ قیامت کے دن یہ کامل ترین تعلق، ہر پہلے چاروں قسم کے تعلق کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔"

حافظ ابن القیم نے اہل سنت کے مسلک کی اس میں پوری وضاحت فرمادی ہے۔

دنیوی زندگی کا ائمہ سنت سے سلف امت میں کوئی بھی قائل نہیں۔ معلوم نہیں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ

اور مولانا حسین احمد بریلوی نے یہ مصیبت کہاں سے خرید فرمائی؟ درحقیقت یہ بات بے تکی سی

ہے، جو کسی پہلو بھی درست نہیں بیٹھتی۔ عفا اللہ عنہما

① مسند أحمد (۴/ ۲۸۷)

② کتاب الروح لابن القیم (ص: ۴۳) نردیکھیں: الفصل فی الملل والأہواء والاحلال لابن حزم (۵۶/ ۲)

حدیث نمبر ۵:

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»

رواہ اصحاب السنن وابن حبان، اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔^①

”تنقیح الرواة فی تخریج أحادیث المشکوة“ میں بعض ائمہ سے اس حدیث کی تصحیح نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

”وللحدیث طرق، جمعها المنذری فی جزء، فتعدد الطرق^②

یشد بعضها بعضاً“ (تنقیح الرواة: ۱/ ۲۵۵)

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی جلاء الافہام میں ابن حاتم کی جرح کے جواب میں کوشش فرمائی ہے، جس کی بنیاد عبدالرحمان بن یزید بن جابر اور عبدالرحمان بن یزید بن تمیم کے اشتباہ پر رکھی ہے۔^③ حقیقت یہ ہے کہ جلاء الافہام کی ساری بحث پڑھنے کے بعد بھی ذہن صاف نہیں ہوتا۔ اجلہ محدثین رحمہم کی تنقید ایسی نہیں جو مناظرانہ احتمالات کی نذر کر دی جائے۔

حافظ عبدالعظیم منذری مختصر سنن ابی داؤد (۳/۲) میں اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

”أخرجہ النسائی و ابن ماجہ، وله علة دقيقة، أشار إليها

البخاری وغيره، قد جمعت طرقه فی جزء“ اھ

① سنن ابی داؤد۔ رقم الحدیث (۱۰۴۷) سنن النسائی، رقم الحدیث (۱۳۷۴) سنن ابن ماجہ،

رقم الحدیث (۱۳۷۴) مسند أحمد (۸/۴) صحیح ابن حبان (۳/ ۱۹۰)

② جہاں تک «إن الله حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء» کے تعلق ہے، وہ صرف تین

سندوں سے مروی ہے اور تینوں منقووش ہیں: نمبراً۔ حدیث ابی الدرداء پر امام بخاری بڑک اور امام ابو

حاتم رحمہم جیسے بالغ نظر ائمہ حدیث کی جرح کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ سنن ابن ماجہ کا حال

علامہ سندھی کے کلام سے معلوم کر لیجئے۔ ایک روایت طبرانی کے حوالے سے حافظ سخاوی نے ذکر کی

ہے، مگر ساتھ ہی حافظ عراقی سے نقل کر دیا ہے: «لا يصح» (القول البدیع فی الصلوۃ علی

الحبیب الشمع، ص: ۱۱۹) [مؤلف]

③ جلاء الافہام لابن القیم (ص: ۸۱)

اسی طرح انھوں نے ”الترغیب والترہیب“ (۱/۱۲۹- مصری) میں فرمایا ہے۔ اس
 ”عدۃ دقیقہ“ کی وضاحت علامہ تفتی، سبکی اور حافظ سجاوی رحمہم نے کر دی ہے۔ سبکی لکھتے ہیں:

”وعلمته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمان
 ابن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن
 تميم وهو ضعيف، فلما حدث به الجعفي، غلط في اسم
 الجعد، فقال: ابن جابر“ (شفاء القمام، ص: ۴۷)

اسی کے قریب قریب حافظ سجاوی رحمہ اللہ لکھ کر فرماتے ہیں:

”ولهذا قال أبو حاتم: إن الحديث منكر“ (القول البدیع، ص: ۱۱۹)

امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ اشارہ ”التاریخ الکبیر“ اور ”التاریخ الصغیر“ میں ہے۔ اول

الذکر میں بذیل ترجمہ عبدالرحمان بن یزید بن تميم لکھتے ہیں:

”يقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين، فقالوا:

عبد الرحمان بن يزيد بن جابر“ (التاریخ الکبیر: ۳۶۵/۲، قسم اول)

اور التاریخ الصغیر (ص: ۱۷۹) میں فرماتے ہیں:

”وأما أهل الكوفة فرووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو

ابن يزيد بن تميم، ليس بابن جابر، وابن تميم منكر الحديث“ اھ

حافظ ابوحاتم کا ارشاد ان کے صاحبزادے حافظ عبدالرحمن نے نقل کیا ہے:

”سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا

من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه

أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم“

پھر اس علت کو بنیاد بنا کر زیر بحث روایت نقل کی اور لکھا ہے:

”وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي“

(علل الحديث لابن أبي حاتم: ۱/۱۹۷)

ان ائمہ کے علاوہ علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی فرماتے ہیں:

”إن الحديث لم يثبت“ (نیل: ۳/۳۰۴)

اسی مضمون کی دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں «فنبی اللہ حی یرزق» کی زیادتی مرقوم ہے۔^① (کتاب الجنائز، ص: ۱۱۹) شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو بسند جید لکھا^② اور صاحب تنقیح الرواة نے بھی ان کی متابعت میں اس سند کو جید فرمایا ہے،^③ مگر یہ درست نہیں۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”رجاله ثقات لكنہ منقطع“ (القول البدیع، ص: ۱۱۹)

تعلیق سندھی حنفی علی ابن ماجہ (۱/۵۰۳) میں ہے:

”منقطع فی موضعین، لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسله،

وزيد بن أيمن عن عبادة مرسله، قاله البخاري“^④ اھ

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال البخاري: زيد بن أيمن عن عبادة مرسل“ اھ (تہذیب: ۳/۳۹۸)

امام بخاری کا یہ ارشاد تاریخ الکبیر (۲/۳۵۳، قسم اول، طبع حیدرآباد) میں ہے۔

حضرت ابو الدرداء کی حدیث میں بروایت ابن ماجہ «فنبی اللہ حی یرزق» زائد

ہیں۔^⑤ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ درج ہیں۔ مجد بن تیمیہ نے منشی

میں اس زیادتی کا ذکر نہیں فرمایا۔^⑥ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے «أشعة اللمعات» میں

① سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۶۲۷)

② نیل الأوطار (۳/۳۰۴)

③ تنقیح الرواة (۱/۲۵۵)

④ یہ «مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجہ» المصوری کے الفاظ ہیں۔ ویکھیں: مصباح الزجاجة

(۵۹/۲)

⑤ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۶۲۷)

⑥ نیل الأوطار شرح منشی الاخبار (۳/۳۰۳)

اور اج کو بطور شبہہ قبول فرمایا ہے۔ (۱/۵۰۹) خاں صاحب بریلوی نے بھی اس زیادتی کو مدرج تسلیم کیا ہے۔ (حاشیہ حیات الاموات، ص: ۱۷۸) خود ابن ماجہ میں یہ حدیث اس بن اویس اور شداد بن اویس سے مروی ہے، اس میں یہ زیادتی نہیں^①۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس کی سند کو ”جید“ کہنا تسامح سے خالی نہیں۔

بر تقدیر تسلیم یہ احادیث صحیح بھی ہوں تو ان سے دنیوی زندگی ثابت نہیں ہوتی، لیکن میں نے کسی قدر تفصیلی تذکرہ اس لیے ضروری سمجھا، تاکہ ان احادیث کی حقیقت معلوم ہو جائے، جنہیں حضرات اجلہ دیوبند دینی زبان سے متواتر فرما دیتے ہیں اور ”مدارج النبوة“ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفات پر اس قدر اتماد کیا جاتا ہے، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین سے انتہائی موجب استعجاب ہے۔

ان احادیث میں ضعف اور انقطاع موجود ہے، لیکن مسئلہ چونکہ درود کے فضائل کا ہے، اس میں حلال و حرام یا عقائد کی بحث نہیں، اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ حدیث تک نے تسامح سے کام لیا ہے، بنا بریں تعدد و طرق سے اس کی تصحیح کی گئی اور عوام میں مشہور ہے کہ فضائل میں اس قسم کی احادیث کو قبول کر لیتے ہیں، اہل تحقیق کے نزدیک یہ اصل بھی خود محل نظر ہے۔^②

جاء الافہام میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پر طویل بحث فرمائی ہے۔ انقطاع اور تضعیف کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انقطاع کے لیے شواہد جمع فرمائے ہیں، گو وہ شواہد خود محل نظر ہیں۔ خود حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان شواہد کے متعلق بھی علل کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یہ تمام شواہد کثرتِ صلوة کے متعلق جمع فرمائے گئے ہیں اور یوم الجمعہ کی تخصیص کو زیادہ تر پیش نظر رکھا گیا ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں۔ جمعہ کے دن کثرتِ صلوة کے متعلق ان شواہد سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

① سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۰۸۵، ۱۶۳۶)

② تفصیل کے لیے دیکھیں: صحیح الجامع الصغیر للعلامة الالبانی رحمۃ اللہ علیہ (۱/۲۹)

عقیدہ حیات اور اس کے نتائج:

لیکن اب مشکل یہ ہے کہ بریلوی مکتب فکر اور بعض اکابر دیوبند نے ان ضعاف اور مقطوعات سے عقیدہ حیات دنیوی ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور اس بدی تصور کو متواتر عقیدے کا نام دینا شروع کیا ہے، اس لیے پورے یقین سے سمجھ لینا چاہیے کہ تعدد طرق اور شواہد کے باوجود یہ اسناد اس قابل قطعاً نہیں کہ ان پر کسی عقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔

پھر ان طرق اور شواہد میں حیات انبیاء کا ذکر نہیں، بلکہ «أكثر وأعلى الصلوة يوم الجمعة» پر زور زیادہ دیا گیا ہے۔ جن طرق اور شواہد میں حیات کا ذکر صراحۃً آیا ہے، وہ کوئی بھی صحیح نہیں۔ صحیح لغیرہ احادیث سے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، امت میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ جن اہل علم سے ان احادیث کی توثیق نقل کی جا رہی ہے، ان میں نہ کوئی دنیوی زندگی کا قائل ہے نہ ہی ان مباحث میں کسی نے اس بدی عقیدے کو ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ بحث اس مقام پر حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ حیات دنیوی کے قائل نہیں، ان احادیث سے مطلق حیات کو بھی انھوں نے ثابت کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے ان مباحث سے اس فخرتہ عقیدے پر استدلال "تأويل القول بما لا يرخص به القائل" ہوگا، جسے اہل علم و دانش نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔

چھٹی حدیث:

حدیث نمبر (۶) صحیح ہے۔^① اس میں سلام کے وقت رو بروی کا ذکر ہے۔ یہ حیات دنیوی کے خلاف ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر جوابات دیے ہیں، ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذہن بھی اس حدیث کے متعلق صاف نہیں۔ جواب میں تذبذب اور خبط نمایاں ہے۔^②

① یعنی حدیث «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحه حتى يرد عليه السلام» (سنن ابی

داؤد، رقم التحابث: ۲۰۴۱)

② دیکھیں: الحاوی للفتاویٰ للسیوطی (۲/۱۴۲)

رہا مولانا حسین احمد صاحب مرحوم کا ارشاد گرامی سو وہ نص حدیث کے مخالف ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک سلام کا جواب دینے کے لیے روکی جاتی ہے۔ مولانا کے ارشاد کے مطابق روکا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس حدیث کے مفہوم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مولانا عدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے تو حدیث کا مفہوم صاف نہیں ہوتا۔

ساتویں حدیث:

حدیث نمبر (۷) میں اسراء کی رات کو انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ معلوم نہیں اس سے حیات دنیوی کا استخراج کیسے ہوگا؟ ائمہ سنت کے اس کے متعلق دو ہی مشہور مسلک ہیں، بعض اس ملاقات کو روحانی سمجھتے ہیں۔

فتح الباری (ص: ۳۵۲، پ: ۱۰) میں ایک حدیث بزار اور حاکم سے منقول ہے:

«إنه صلى بييت المقدس مع الملائكة، وإنه أتى هناك بأرواح الأنبياء فآثنوا على الله»^① اھ

”آنحضرت ﷺ نے بیت المقدس میں ملائکہ کو نماز پڑھائی اور وہاں انبیاء علیہم السلام کی رو میں لائی گئیں۔“

دنیوی زندگی کا یہ غلط دعویٰ مصیبت ہو گیا ہے اور احادیث میں تطبیق ناممکن۔

دوسرا مسلک یہ ہے کہ برزخ میں ان ارواح کو ماضی اجسام دیے گئے اور ان

اجسام نے بیت المقدس میں یا شب اسراء میں ملاقات فرمائی۔

ان کا ذکر بھی حافظ ابن حجر فتح الباری (۳/۳۰۹، پ: ۱۵) میں فرماتے ہیں:

”إن أرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء ابن عقيل“^② اھ

① فتح الباری (۷/۲۰۰)

② فتح الباری (۷/۲۰۰)

یہ دونوں صورتیں برزخ ہی میں ہو سکتی ہیں، اسے دنیوی زندگی کہنا دانشمندی نہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں:

«لأنه بعد موته وإن كان حياً فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة

الدنیا»^① (۴/۳۶، پ: ۱۶)

اور (۳/۲۸۲، پ: ۳) میں فرمایا:

«وهذه الحياة ليست دنيوية، إنما هي أخروية»^② انتہی

«تلخیص الحییر» (ص: ۱۲۲) میں پہنچتی سے نقل فرمایا:

«الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء»^③

یہ عند اللہ حیات برزخی اخروی ہو سکتی ہے، اسے کبھی کوئی سمجھدار دنیوی حیات تو

نہیں کہہ سکتا۔

موسیٰ علیہ السلام کی نماز، حج، ہارون علیہ السلام و یونس علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور دجال کا احرام؛ یہ

سب حقائق مثالی ہیں یا برزخی، دنیوی تو نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت

ابراہیم فوت ہوئے تو آنحضرت نے فرمایا:

«لله فظن ان تكملان رضاعه في الجنة»^④ (مشکوٰۃ، ص: ۵۲۰)

«اس کی مدت رضاع جنت میں عورتیں پوری کریں گی۔»

آپ کے خیال سے حضرت ابراہیم کو دنیوی زندگی ملی، حالانکہ نہ وہ نبی ہیں نہ

شہید!! اس مطلب کی بیسیوں احادیث سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اگر ان سے دنیوی

حیات ثابت کی جائے تو پھر یوں فرمائیے کہ دنیا میں کوئی مرتا ہی نہیں!!

① فتح الباری (۷/۳۲۹)

② فتح الباری (۷/۲)

③ دیکھیں: حیاة الأنبياء للبيهقي (ص: ۵۱)

④ صحيح مسلم (۲/۲۵۴)

حدیث ۸، ۹، ۱۰ بالکل حیاتِ دنیوی کا پتا نہیں دیتیں۔ معلوم نہیں مولانا زاہد صاحب نے انہیں کیوں نقل فرما دیا؟ سابقہ گزارشات کے بعد ان احادیث پر مزید گفتگو سے کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔

حکایات و قصص:

① حضرت جعفر کی شہادت، بعض ارواح کا اپنے قرضوں کے متعلق اطلاع دینا، کتاب الروح، شرح الصدور، خصائص کبریٰ وغیرہ میں اس قسم کی کئی حکایات مرقوم ہیں۔ اولاً: یہ قصے شرعاً حجت نہیں۔ ثانیاً: عقائد کے لیے یہ دلائل قطعاً قابلِ اطمینان نہیں۔ ثالثاً: اس سے حیاتِ روح اور ان کی نقل و حرکت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، حیاتِ جسمانی یا حیاتِ دنیوی ان سے ثابت نہیں ہوتی۔ رابعاً: خواب اور کشف کا ظہور جب غیر نبی سے ہو تو صاحبِ کشف ممکن ہے اس پر یقین کر لے، عامۃ المسلمین اس کے پابند نہیں۔

② واقعہ ۷ میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی میں اذان سننا؛ مدعا کے لحاظ سے بالکل بے معنی ہے۔ سعید بن مسیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہچانتے تھے۔ ممکن ہے یہ آواز کسی پاکباز جن یا فرشتے کی ہو، اس سے آنحضرت کی دنیوی زندگی کیسے ثابت ہوئی؟

③ ابن القاسم رضی اللہ عنہ سے مولانا نے انسان کے چار دور ذکر فرمائے ہیں:

① رحم۔ ② دنیا۔ ③ برزخ۔ ④ آخرت۔

ہر دوسرا دور پہلے سے بہتر۔ اس وسعت پر غور فرمائیے! یہ دلیل آپ کے خلاف ہے یا آپ کے موافق؟ جب برزخ میں وسعت ہے اور یہ دور دنیا سے بہتر ہے تو فرمائیے! آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ سے دنیوی زندگی میں لانے کی کیوں کوشش فرماتے ہیں؟

④ دیکھیں: الحاوی للفتاویٰ (۱۶/۲) اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

برزخی زندگی دنیوی زندگی سے بدرجہا اعلیٰ اور ارفع ہے۔

خان صاحب بریلوی اور ان کے اتباع عقل اور علم سے بے نیاز ہیں، لیکن آپ حضرات غور فرمائیں! اہل توحید تو علم و عقل سے خالی نہیں ہوتے۔ ان فی ذلك لآیات لأولی النہی!

مضمون کے بعض حصص پر مزید لکھا جا سکتا ہے۔ میرا مقصد بحث و مناظرہ نہیں۔ یہاں کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بیرونی حضرات ان کے متعلق اظہار رائے کی کوشش نہ فرمائیں۔ یہاں کا ماحول یہاں کے اہل علم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لادینی کے حالات پیدا کرنے کے لیے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، شاید آپ حضرات ان سے ناواقف ہیں، اس لیے مناسب نہ ہوگا کہ مستقبل کی ذمے داری آپ حضرات پر عائد کی جائے اور آپ کے ان مکاتیب اور خطابات سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے کچھ کر سکیں۔ قادیانیت، رقص اور بدعت جن چور دروازوں سے آرہی ہیں، ہم ان ابواب کے کھولنے کا سبب نہ بنیں۔

مندرجات رسالہ ”حیات النبی“ پر ایک سرسری نظر:

مجلد ”دارالعلوم“ دیوبند کے مضمون حیات النبی سے متعلق میں اپنی تنقیدی گزارشات ”رحیق“ میں اشاعت کے لیے دے چکا تھا، اتفاقاً رسالہ ”حیات النبی“ مؤلف مولانا اخلاق حسین ملاء، جس کا پیش لفظ مولانا سید ابو ذر بخاری نے لکھا ہے، مگر افسوس کہ اس میں جوانی کے جوش کے سوا کچھ نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جہاں دلائل بالکل ناپید اور نصوص صراحتاً خلاف ہوں، وہاں کتب خیال کی دہائی اور کھینچا تانی کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ نوجوان مل کر زور لگائیں، زبان کی طاقت اور قوت بازو سے نصوص کو پھیرنے کی کوشش کریں، اس سے کم از کم تھوڑی دیر تک اذہان کا رخ پھیر لیں گے اور

مکتب خیال کے بزرگوں کی رفعتِ شان کا واسطہ دے کر گرتی دیوار کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھالا دے دیں۔ مولانا اخلاق حسین اور ابو ذر صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے، اس لیے مجھے اس رسالے کے ابتدائی حصے کے متعلق کچھ بھی گزارش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ میں نے اپنے بعض دوستوں سے سنا تھا کہ حضرت مولانا قاسم رشتہ نے اسی موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے، مجھے یہ رسالہ کوشش کے باوجود نہ مل سکا، مگر پیش نظر رسالے کے صفحہ (۱۸) پر حضرت مولانا قاسم رشتہ کے رسالے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا کے رسالے کا نام ”آبِ حیات“ ہے۔ یہ اقتباس صفحہ (۲۳۲) سے لیا گیا ہے۔ مولانا نے اسی حدیث «یرد اللہ علی روحی» کی توجیہ فرمانے کی کوشش فرمائی۔ یہ حدیث چونکہ دیوبندی مکتب خیال کے خلاف ہے، اس لیے اس کی تادیل فرمائی گئی ہے کہ یہ راستے سے ہٹ جائے۔

حضرت کا ارشاد:

”روح پر فتوح نبوی ﷺ جب منبع اور اصل ارواح باقیہ خصوصاً ارواحِ مومنین امتِ ظہری تو جو نسا امتی آپ پر سلام عرض کرے گا، اس کی طرف کا شعبہ لوٹے گا، ارتداد جملہ شعبہ لازمی نہیں اور ظاہر ہے کہ اس شعبہ کا ارتداد باعث اطلاعِ سلام تو ہوگا، پر موجب زوالِ استغراقِ مطلق نہ ہوگا، آخر شعبہ غیر متناہی اور ہیں۔“

حضرت مولانا کی جلالتِ قدر، وسعتِ نظر، وسعتِ معلومات، تقویٰ، للہیت معلوم اور مسلم ہے۔ قلم لرزتا ہے کہ مجھ جیسا کم سواد علم و حکمت کے سمندر کے خلاف تنقید کا انداز اختیار کرے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بھم اللہ ذہن میں تقلید و جمود کے جراثیم نہیں ہیں اور آنحضرت ﷺ، فداہِ آبیِ دائمی، کے بعد یقین سے کوئی معصوم نہیں، اس لیے سوچتا ہوں کہ اس مختصر سے اقتباس میں ہے کیا؟ اتنے بڑے مہرِ فاضل نے افسوس ہے کوئی دلیل نہیں دی اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں لکھ سکے جو ذہن کو اپیل کر سکے، اور یہ مصیبت اس لیے پیش آئی

کہ ان حضرات نے ایک غلط نظریہ اپنایا کہ انبیاء کی حیات برزخی نہیں جسمانی اور دنیوی ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے مجازات کی زبان میں روح کو جسے قرآن نے امر فرمایا، مرکب تصور کیا، پھر شعب لانتہا ہی تصور فرمایا، پھر اس مرکب کے اجزاء سے ہر ایک کی توجہ مختلف سمتوں میں منقسم ہو سکتی ہے، پھر انقسام توجہ کے باوجود استغراق پر مطلق اثر نہیں پڑتا، پھر یہ روح عالم ارواح کے لیے اور مومنین کی ارواح کے لیے مخرج ہے، یعنی مسلم اور غیر مسلم ارواح کا اشعب اسی روح سے ہوتا ہے اور مومنین کی ارواح کو آنحضرت ﷺ کی روح پر فوج سے خاص نسبت اور تعلق ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی کا اقتباس آپ کے سامنے ہے، بظاہر اس میں کوئی اغلاق نہیں۔ مجاز و استعارات کے انداز میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ الفاظ کے بہر پھیر کے سوا کچھ نہیں، کتاب و سنت سے کوئی نص یا اشارہ، حضرت نے اپنے اس فکر کی تائید میں ذکر نہیں فرمایا۔

قرآن عزیز نے روح کے تذکرے میں جامع اور مناسب راہنمائی فرمائی ہے:

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

[بنی اسرائیل: ۸۵]

ذرا غور کر لیا ہوتا کہ امر کی تفصیلات میں جانا، اس کے غیر متناہی شعب کا تذکرہ ہوتا تو قرآن اسے ضرور بیان فرمادیتا۔

مولوی اخلاق حسین صاحب نے صفحہ (۱۷) میں زاد العاد سے ایک اقتباس نقل فرمایا ہے۔ اس کا اور مولانا کے اقتباس کا موازنہ فرمائیے، حافظ رضی اللہ عنہ کا ارشاد کس قدر اقرب الی اللہ ہے اور احادیث میں تطبیق کے لیے کس قدر موزوں اور مناسب۔ ادھر مولانا قاسم کی منطق ملاحظہ فرمائیے، وہ قطعی بے جان ہے۔ الفاظ کی شعبہ بازی سے زیادہ اس میں کچھ نہیں۔ اور حدیث «یرد اللہ علی روحی» کے سامنے رکھا جائے تو پوری تقریر کی حیثیت ہوئی ہی ہو جاتی ہے اور حدیث کے الفاظ سے بالکل الگ اور مختلف!

بریلوی علم کلام:

ہم نے بریلوی علم کے تین اصول سمجھے ہیں:

اول: مخالف کو پیٹ بھر کے گالیاں دینا۔

دوم: جہاں تک ممکن ہو اس پر جھوٹی تہمتیں تراشتے چانا کہ پچارا الزامات کا جواب دیتے ہی تھک جائے۔

سوم: جس بدعت کی تردیح مقصود ہو اس کے ساتھ ”شریف“ کے لفظ کا اضافہ؛ گیارہویں شریف، میاں شریف، چہلم شریف۔ جو بدعت اور شرک کا مرکز ہو، اس کے ساتھ ”شریف“ لگا دو۔ جتنا بڑا پانی اور مہا شرک ہو، اس کے نام کے ساتھ جھوٹے خطابات کا ایک طویل سلسلہ ضم کر دو، عوام حق سے نفرت کرنے لگیں گے، بدعت اور اہل بدعت کو پسند کرنے لگیں گے۔

اخوانِ دیوبند!

حضرات دیوبند پہلی دو بیماریوں سے قریباً محفوظ ہیں، گالیاں نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اکابر کے محاسن میں غلط مبالغہ اور بے ضرورت غلو، اساتذہ کی نقائص باندازِ عقلمت یہاں بھی موجود ہے، اور بدرجہ اتم!

آپ نے مولانا قاسم رحمہ اللہ کا اقتباس پڑھ لیا۔ اب مبالغہ آمیزی ملاحظہ فرمائیے:

”آپ حیات وہ کتاب ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے یہ کتاب استاد رحمہ اللہ سے درساً ورسماً پڑھی، تب مصنف کے مدارک پر مطلع ہوا ہوں۔ میں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ سے اس واقعہ کا حوالہ دے کر عرض کیا تھا: مجھے یہ کتاب آپ پڑھا دیں تو انہوں نے بایں ذہن و ذکا فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو ایسی کتاب ہم جیسے نالائقوں کے بس کی بات کیا ہو سکتی ہے۔“

آپ نے اقتباس ملاحظہ فرمایا۔ اردو میں ہے، اس میں کوئی إغلاق بھی نہیں اور گہرائی بھی نہیں، لیکن میں مولانا طیب صاحب کی یہ غلو آمیزی پہلے دیکھ لیتا تو شاید میں بھی آنکھیں ملنے لگتا کہ شاید کوئی شیر سوراہا ہو۔ روات کی ثقاہت میں شبہ نہیں، لیکن جب اسے واقع پر عرض کیا جائے تو ذہن میں کشمکش ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اکابر کیا فرما رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی مقام کتاب دقیق ہو، جس کے لیے شیخ الہند نے استاد محترم کی طرف رجوع فرمایا، مگر پوری کتاب درسا پڑھنا عجیب بات ہے۔

ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ بریلوی علم کلام کا (۱/۳) حصہ ہے، جو حضرات دیوبند کو ورثے میں ملا ہے اور اسی مبالغہ آمیزی کی بنا پر یہ غلط نظریہ کہ ”انبیاء کی حیات دنیوی ہے“ دیوبندی مکتب خیال میں چل نکلا ہے۔ ہمارے دیوبندی نوجوان اساتذہ کے ارشادات کو چھوٹی موٹی سمجھتے ہیں اور ان کے حسن و قبح کا تجزیہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔

﴿ قَبِيْرٌ عِبَادٍ ۗ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاٰلُوبَابِ ۗ ﴾ [الزمر: ۱۷، ۱۸]

احباب کرام! علم و دانش کی راہ یک سراس سے مختلف ہے۔ اساتذہ کا احترام دوسری چیز ہے اور علم و دانش سے صرف نظر بالکل دوسرا امر، اس میں حضرت امام ابو ضیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تلامذہ کرام کا اسوہ آپ کے سامنے ہے کہ احترام اور اختلاف بیک وقت چل رہے ہیں، نہ اختلاف اظہار حق سے مانع ہے، نہ اظہار حق ادب و احترام کی راہ میں حائل۔ اظہار حق کے جذبے کو ادب و احترام میں اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ سینکڑوں مسائل میں اختلاف کے باوجود استاد کی جبین احترام پر شکن کے آثار تک پیدا نہیں ہوتے ہیں اور تلامذہ کے مزاج میں اونٹنی سا ٹکڑر رونما ہوتا ہے نہ ہی طرفین میں مبالغہ آمیز تنازع کی کبھی نوبت آئی۔ رحمہم اللہ ورضی عنہم۔

اولئک آبا ئی فجنی بمثلہم
إذا جمعنا یا جریر المجامع

اس کے بعد مولانا طیب صاحب کا ایک طویل خط ملا، جو اخلاق حسین صاحب نے نقل فرمایا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ایک غیر مفید بحث میں ناظرین کا وقت ضائع ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی فصوص الحکم یا فتوحات کے انداز کی ایک مستقل تقریر یا نظریہ ہے، جس سے حدیث کے الفاظ کی روشنی میں حدیث کا حل نہیں ہوتا۔ پھر حضرت مولانا طیب صاحب کی تشریح حضرت نانوتوی کے ارشاد سے چنداں متعلق بھی نہیں۔ اپنی جگہ کچھ خیالات ہیں، جن کی پیدائش کا ذمے دار مولانا کا ذہن ہے، جو مظاہرہ اور معتقدین کی مغل میں کہنے کے لیے اچھی چیز ہے، دلائل و براہین کے معیار پر اترنا مشکل ہے۔ ایک مستقل ہی تقریر ہے، اس سے نہ حدیث کے حل میں مدد ملتی ہے نہ مولانا نانوتوی کے ارشادات پر تشریحی روشنی پڑتی ہے، البتہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نانوتوی کے ارشادات کو ابن قیم کے ارشاد اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بعض کثوف سے ضم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔

میں نے اسے ناتمام کہنے کی جسارت کی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کو کل ارواح باقیہ اور خصوصاً مومنین کی اصل تصور فرماتے ہیں، لیکن حضرت قاری صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ”حقیقی مومن“ فرما کر اس کے عموم کو ختم فرماتے ہیں اور اہل ایمان کی تخصیص کی ترجمانی اس انداز سے فرماتے ہیں، گویا روح اور ایمان بالکل مرادف ہیں۔ اصطلاح کا حق ہر ایک کو ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن ارباب علم غور فرمائیں کہ اس سے کس قدر ضبط ہوگا اور پرویز اور خلیفہ عبدالحمیم کو اصطلاحات کی تخریب سے روکنا کتنا مشکل ہوگا؟ بہتر ہے لوگوں سے گفتگو ان کی زبان میں کی جائے، جس طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔

اس کے بعد مولانا نے سورج اور اس کی دھوپ کو تمثیلی انداز میں بہت طول دیا ہے، لیکن یہ کوشش بھی اس لیے ناتمام ہے کہ «رد اللہ علی روحی» میں لفظ «رد» کا تقاضا اس سے پورا نہیں ہوتا، البتہ طول سے ذہن میں ضبط ضرور ہو جاتا ہے۔

اگر یہ تقریر آنحضرت ﷺ کی اطاعت کے وجوب کے متعلق کی جاتی اور متصوفانہ اور فقہی جمود پر اس سے پابندی لگائی جاتی تو بہت مناسب ہوتا۔ حدیث کے فہم کے لیے تو اس تقریر کے ہوتے ہوئے یہ لفظ حدیث سے نکالنا ہی پڑے گا۔

اس حدیث سے مخلصی کی ایک اور راہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کے رداۃ میں ابو صحر حمید بن زیاد ہیں۔ مسلم نے اس کی متابعت کے طور پر روایت کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے اسے بعض اوقات ضعیف کہا ہے، اس سے بعض منکرات بھی مروی ہیں۔^۱ حدیث پر جرح کر کے مخلصی ہو سکتی ہے۔ حدیث کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد یہ اصطلاحات کی ہیرا پھیری بے دین اور اہل بدعت کے لیے راستہ کھول دے گی اور اس کی ذمے داری اہل علم پر ہوگی۔

یا پھر وہی عام اہل سنت کی راہ کہ حیات برزخی ہے اور یہ دشواری موت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں۔ اہل تحقیق اور ہمارے اکابر کی بھی یہی راہ ہے۔ قاری صاحب نے استغراق کی بھی کئی صورتیں بنا دی ہیں:

① فی ذاته صلی اللہ علیہ وسلم۔

② استغراق فی ارواح الأمة۔

③ استغراق فی ذات اللہ تعالیٰ۔

روح کا معاملہ جب ہمارے فہم و فراست سے بالا ہے تو پھر ان تکلفات سے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر الفاظ سے فرار آپ جیسے حدیث کے ماننے والوں کے لیے قطعاً مناسب نہیں۔ یہ ابن عربی اور ابن سعید کے انداز کا کثیف تصوف امام احمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے

① دیکھیں: تہذیب التہذیب (۳/۳۶)

زہد و ورع کے مطابق نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت قاری صاحب کا پورا خط خطابی انداز کا ہے، یہی حال مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کے اقتباس کا ہے۔

اگر پاکستان میں اہل بدعت ان تمویہات اور الفاظ سے غلط فائدہ اٹھا کر اہل توحید کو دق نہ کرتے تو ان تلخ گزارشات کی ضرورت نہ تھی۔ ہم دُور افتادہ مساکین پر آپ حضرات کسی اچھے طریق سے کرم فرمائیں تو ہم ممنون ہوں گے، جو انداز اب تک اختیار فرمایا گیا ہے، قابلِ شکایت ہے:

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة

ولكن يفيض الكأس عند امتلائها^①

ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات سے توحید و ملت کی بات سنیں، ائمہ سلف اور ان کے اعتصام بالسنہ کے قصے سنیں۔ یہ جنس جو دارالعلوم لا رہا ہے، پاکستان میں ضرورت سے زیادہ موجود ہے، آپ حضرات کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ مولانا خیر محمد صاحب کی رضامندی کے لیے کوئی اور راہ اختیار فرمائیے۔

دور دستاں را بہ نعت یاد کرون ہمہ است

ورنہ ہر نعلے پپائے خود ثمرے اگلند است^②

قاری صاحب کے مکتوبِ گرامی کے بہت حصوں پر میں نے گزارشات نہیں کیں، ورنہ اس پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً۔

- ① میں نے ٹھکرو کیا ہے، حالانکہ ٹھکو کرنا میری عادت نہیں، لیکن پیالہ بھرنے کے بعد پانی باہر گرنے لگتا ہے۔
- ② جن تک رسائی نہ ہو انہیں نعت کے ساتھ یاد کرنا سب کی عادت ہے، ورنہ ہر درخت اپنے نیچے پھل گرائے ہوئے ہوتا ہے۔

چند شبہات کا حل

آج سے چند ماہ پہلے اس موضوع پر چند گزارشات ”مجلد حقیق“ میں پیش کرنے کا موقع ملا تھا۔ بریلوی حضرات کا موقف اس موضوع پر معلوم ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو جسمانی اور دنیوی قرار دیا ہے،¹ لیکن ان حضرات کے خیالات عموماً دلائل کے بجائے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے علمی حلقوں میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔

خود مولانا احمد رضا خاں صاحب جب اس قسم کے مسائل پر لکھتے ہیں تو استدلال کے بجائے مخالف پر طعن و تشنیع اور الزامات سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ مثبت طریق پر بہت کم لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم و نظر کے حلقوں میں ان بزرگوں کے ارشادات کو چنداں اہمیت نہیں دی جاتی۔ حضرات علمائے دیوبند کا مقام اس سے بالکل مختلف ہے، ان میں محقق اہل نظر ہیں، دلائل پر ان کی نظر ہے۔ اپنے مسلک کی حمایت میں ان کا مدار جذبات پر نہیں ہوتا، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ مسئلہ حیات انبیاء علیہم السلام میں حضرت مولانا حسین احمد، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور بعض دوسرے اکابر دیوبند کی بھی تقریباً وہی رائے تھی جو مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تھی۔

پھر مزید تعجب ہوا کہ بعض حضرات نے حیات انبیاء کی اس صورت کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ تحقیق اور انصاف دونوں کے منافی ہے، بلکہ راقم الحروف کا خیال ہے کہ اجلہ دیوبند بھی اس مسئلے میں ان حضرات سے متفق نہیں۔ میری گزارشات شائع ہونے

1 فتاویٰ رضویہ (1/ 76)

کے بعد ان گزارشات کی تائید بعض دیوبندی جرائد نے بھی فرمائی۔¹

جن احباب نے اختلاف فرمایا، وہ بھی دلائل اور تحقیق کی بنا پر نہیں، بلکہ اساتذہ کی جلالتِ قدر پر اعتماد اور جمود کی بنا پر فرمایا۔ اس کے باوجود انہی بزرگوں کے ذوقِ علم و تحقیق کی بنا پر پہلے بھی چند پریشان خیالات مقتدر مجلہ ”رہیق“ کی نذر ہوئے اور آج کی صحبت میں جو عرض ہو رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔

ائمہ سنت اور اہل تحقیق اکابر کی روش کے پیش نظر ان مسائل پر غور فرمایا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع و اخلاص کے ساتھ محبت اور ان کے تحقیقی مسائل سے استفادہ میں اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں۔

”ما من أحد إلا ویؤخذ من قولہ ویورد علیہ“ (امام مالک) کے کلیہ سے انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی مستثنیٰ نہیں، تاہم شاہ صاحب اور ان کے اتباع کرام کی علمی تحقیقات کے سامنے پیشانیاں جھکتی ہیں۔ رحمہم اللہ وجعل الجنة مثواہم۔

دیوبند کے علمی اقدار اور حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی رفعتِ مقام کی بنا پر جب کوئی مسئلہ ان حضرات کی طرف سے آئے تو اس سے صرف نظر ممکن نہیں۔ جو احادیث اس باب میں آئی ہیں ان کے متون و اسانید، ائمہ حدیث کے آراء و افکار اور محققین کے ارشادات کی روشنی میں جو مواد میسر آسکا، اس کا تذکرہ ”رہیق“ کے صفحات میں آچکا ہے۔

”آب حیات“:

حال ہی میں برادر محترم حضرت مولانا محمد چراغ صاحب کی عنایت سے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”آب حیات“ دیکھنے کا موقع ملا۔ مولانا نانوتوی کے علم اور جلالتِ قدر کا پہلے بھی یقین تھا، ”آب حیات“ دیکھنے سے ان کا احترام اور بھی زیادہ ہوا۔ ان کی جلالتِ قدر کے باوجود بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ”آب حیات“ کا انداز تحقیق سے زیادہ تاویل پر مبنی ہے۔

1 یعنی ماہنامہ ”جلی“ دیوبند، جس کا وہ مقالہ آئندہ صفحات میں شائع کیا جا رہا ہے۔

مولانا مغفور نے یہ کتاب وراثت نبوی کے متعلق شیعہ نقطہ نظر کے جواب میں لکھی ہے اور شیعہ شہادت سے مخلصی کے لیے یہ مناظرانہ راہ اختیار فرمائی کہ آنحضرت ﷺ جسٹائی طور پر زندہ ہیں اور ان کی یہ دنیوی زندگی ہے، اس لیے تقسیم وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولانا کے ساتھ انتہائی عقیدت کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مناظرانہ راہ ہے، اس سے وہ نصوص حل نہیں ہوتے جن میں آنحضرت ﷺ کی وفات، دفن اور اس دنیا سے انتقال کا صریح تذکرہ موجود ہے۔

قرآن کی صراحت ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ﴾ اور احادیث میں آنحضرت ﷺ کے انتقال کی تفصیلات، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا خطبہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا سکوت، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا رجوع، امہات المؤمنین کا سوگ؛ ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہیں مولانا نانوتوی رضی اللہ عنہ کی علمی جلالت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جائے۔

خود اکابر دیوبند یا ان کی اکثریت ان بزرگوں سے اس عقیدے میں متفق نہیں۔ اس کی حقیقت ایک صوتیہ تخیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ نصوص حدیث کی ظاہری تعبیرات اس کے خلاف ہیں۔ تقلیدی جمود کی ذمے داری تو یقیناً نہیں لی جاسکتی، لیکن بصیرت دینی ان تاویلات کے قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، اس لیے ابنائے دیوبند سے ادباً گزارش ہے کہ اکابر دیوبند بے شک قابل احترام ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو یوسف نہیں ہیں کہ ان کی ہر بات تقلیداً مان لی جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جمود سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ کتاب و سنت موجود ہے اور ائمہ سلف کی تصریحات بھی۔ ولا قول لأحد مع اللہ ورسولہ۔

حیات النبی اور اہل حدیث:

بھٹے خوشی ہے کہ اکابر اہل حدیث میں کسی سے اس قسم کی لغزش نہیں ہوئی۔ ہمارے اکابر سے غزنوی خاندان کو تصوف سے جو شغف رہا ہے، وہ بحث و دلیل کا محتاج نہیں، لیکن حضرت عبداللہ غزنوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ابنائے کرام اور تلامذہ عقلام سے کوئی بھی اس قسم کے اعتقادی جمود کا شکار نہیں ہوا۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔

حضرت شاہ اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کے علوم سے جن لوگوں نے حضرت شیخ النکل مولانا

سید نذیر حسین صاحب دلائل کے توسط سے استفادہ فرمایا ہے، وہ اس قسم کی خوش اعتقادی سے محفوظ رہے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے علمائے یمن سے علوم سنت کا استفادہ فرمایا ہے، وہ بھی ان کمزور اور دور از کار تاویلات سے محفوظ رہے ہیں، اور یہ ساری برکت اس بنا پر ہے کہ یہ دونوں طریق تقلیدی جمود سے پاک ہیں۔ ان میں اساتذہ کا ادب تو یقیناً ہے، لیکن جمود اور تقلید نہیں۔ یہی محدثین کی اصل راہ ہے۔ جب سے محققانہ تنقید کو بے ادبی کہا جانے لگا، اس وقت سے جمود نے عقل و فکر کی راہوں کو مسدود کرنا شروع کر دیا اور دماغوں نے سوچنا ترک کر دیا۔

میری گزارشات:

میری گزارشات میں ان اساطین علم کے ارشادات پر حدود ادب کے اندر رہتے ہوئے تنقید تھی۔ اگر یہ مسئلہ صرف بریلی کی راہ سے آتا تو میں اس پر ایک حرف بھی لکھنے کی ضرورت نہ سمجھتا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ حضرات نہ سوچنے کے عادی ہیں نہ ان کا علمی حلقوں میں کوئی اثر ہے۔ حضرات اکابر دیوبند کے علمی احترام کے وسیع اثر نے مجبور کیا کہ ان کے ارشادات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، تاکہ طلب علم تنقید اور بحث و نظر کی عادت سیکھیں۔

ان گزارشات کا مختلف حلقوں میں عجیب اثر ہوا۔ بعض حلقوں نے اسے بے حد پسند کیا، گویا وقت کی یہ ایک ضرورت تھی۔ اس وقت تک پاک و ہند کے کئی جرائد میں وہ مضمون شائع ہو رہا ہے۔ بعض حلقوں نے اسے سخت ناپسند فرمایا اور اسے حضرات اکابر دیوبند کی بے ادبی پر محمول فرمایا۔ أعاذنی اللہ من ذلك۔

بعض نے اس پر جزوی اور معقول تنقید فرمائی اور توجہ دلائی کہ معتدل ربط کے باوجود اس میں تشکیک ہے، بعض گوشے مجمل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی مزید وضاحت کی جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ مسئلہ اساسی طور پر نظر ثانی کا محتاج ہے۔ ضرورت ہے کہ نصوص کی روشنی میں پورے موضوع پر نظر ثانی کی جائے۔ جو خطوط بذریعہ ڈاک موصول ہوئے، ان میں بھی یہی کیفیت موجود تھی۔

منشی محمد شفیع صاحب کا نظریہ:

چنانچہ ہمارے محترم دوست منشی محمد شفیع صاحب لاہوری (جو شریا دیوبندی، طبعا حق

پسند اور بحث و نظر، تحقیق و تنقید کے عادی ہیں) نے توجہ دلائی کہ مسئلے کے بعض پہلو عمل نظر ہیں، ان پر مزید غور ہونا چاہیے۔

میں نے اپنی گزارشات میں عرض کیا تھا کہ حیات انبیاء علیہم السلام پر اجماع امت ہے، گو احادیث کی صحت محل نظر ہے، تاہم ان کا مفاد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک کو مٹی نہیں کھاتی۔
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»

(ابن ماجہ، ص: ۷۷، ۱۱۹، مرغیب مندری: ۱۱/۲)

منشی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلیہ صحیح نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام خاک پر حرام ہیں۔ بعض انبیاء علیہم السلام کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے اجسام میں مٹی نے تصرف کیا۔ چنانچہ حافظ نور الدین بیہقی (۸۰۷ھ) نے مجمع الزوائد (۱۰/۱۷۰، ۱۷۱) میں ابو یعلیٰ اور طبرانی سے بروایت حضرت ابوسوی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے:

«فقال علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه ... إلى أن قال: فلما احتفروا أخرجوا عظام يوسف عليه السلام»^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ کی ترتیب اس طرح ہے:

«قال له: إنك عند قبر يوسف عليه السلام فاحتمل عظامه معك، وقد استوى القبر بالأرض ... إلى أن قال: فأخرج العظام و جاوز البحر»^② (مجمع الزوائد: ۱۰/۱۷۱)

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ہمراہ رات مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے۔ جب تشویش ہوئی تو علمائے بنی اسرائیل نے فرمایا: یوسف علیہ السلام نے ہم سے پختہ وعدہ

① مسد أبي يعلى (۱۳/ ۱۸۹) المستدرک (۲/ ۶۲۴) صحيح ابن حبان (۲/ ۵۰۰)

② المعجم الأوسط (۷/ ۳۷۴)

لیا تھا کہ جب وہ مصر سے جائیں تو میری ہڈیاں اپنے ہمراہ لیتے جائیں، چنانچہ انھوں نے ہڈیاں نکال لیں اور اپنے ہمراہ لے گئے۔“ (ملخصاً)

منشی صاحب کا خیال ہے کہ جسم اطہر کی حفاظت میں جو احادیث آئی ہیں، وہ درست نہیں، لیکن ابویعلیٰ کی روایت صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں موسیٰ علیہ السلام ہمراہ لے گئے تھے۔ منشی صاحب کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس وقت صرف ہڈیاں تھیں، گوشت اور پوست نہیں تھا۔

حافظ بیہقی نے ابویعلیٰ کی روایت کے متعلق فرمایا ہے:

”رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وهذا الذي حملني على سياقها“
(مجمع الزوائد: ۱۷۱/۱۰)

”ابویعلیٰ کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اسی لیے میں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔“

طبرانی کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں:

”رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفهم“ (ص: ۱۷۱)

”طبرانی کی روایت کے راوی غیر معروف ہیں۔“

منشی صاحب نے اس مفہوم کا ایک حوالہ ”البدایة والنہایة لابن کثیر“ (۱/ ۲۷۵) سے بھی نقل فرمایا ہے:

”ولما خرجوا من مصر، أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام“

یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔

منشی صاحب کی تائید میں ایک حوالہ ابن خلدون (۱/ ۱۳۱) میں بھی ملتا ہے:

”لما فتح يوشع مدينة أريحاء، ساد إلى نابلس فملكها، ودفن هنالك شلو يوسف عليه السلام، وكانوا حملوه معهم عند خروجهم

من مصر، وقد ذكرنا أنه كان أوصى بذلك عند موته“ اھ

”حضرت یوشع نے اریحا کے بعد جب نابلس پر قبضہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں ان کی وصیت کے مطابق وہاں دفن کر دیں۔ یہ ہڈیاں مصر سے نکلنے وقت وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔“

ان حوالوں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ کلیہ درست نہیں، بلکہ بعض انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ معلوم ہوتے ہیں۔

اہل علم کا فرض ہے کہ ان نصوص میں غور فرمائیں اور اس بظاہر تعارض میں ترجیح یا تطبیق کی کوشش فرمائیں۔ متوسلین دیوبند سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے اکابر کے مسلک کو ان تصریحات کی روشنی میں ثابت فرمائیں۔ مسائل عصمت یا ناراضی سے حل نہیں ہوتے اور نہ عنایت مفرد دلائل اور براہین کا بدل ہی ہو سکتی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ ان متعارض دلائل کا اثر حیات برزخی پر نہیں پڑتا، وہ بہر حال ثابت ہے۔ عذاب و ثواب قبر کی احادیث کے ہوتے ہوئے قبر میں زندگی کی کوئی صورت تو یقیناً ہوگی۔ مشکلات حیات نوعی میں ہیں، خصوصاً جب اسے جسمانی دنیوی سمجھا جائے۔ بریلوی حضرات کے نقطہ نظر سے یہ مسئلہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قبر میں بظاہر بعض تکلیفات شرعیہ کا بھی صلحائے امت کو مکلف سمجھتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کی کہانیاں بھی ان کے ہاں مروج اور متعارف ہیں۔^①

صاحب روح العانی نے حیات شہدا کے سلسلے میں انواع حیات کے متعلق کافی تفصیل فرمائی ہے۔^② محترم منشی محمد شفیع صاحب کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے برزخی زندگی تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس زندگی کے لیے نہ تو جسم کو ضروری سمجھتے ہیں نہ اس کے لیے دنیوی زندگی کے لوازم کی ضرورت ہی محسوس فرماتے ہیں۔

① دیکھیں: ملفوظات احمد رضا خان بریلوی (۳/۳۶)

② دیکھیں: تفسیر روح المعانی (۲/۲۱)

مثنیٰ صاحب کے دلائل کا تجزیہ:

اس میں شک نہیں کہ دلائل میں ایسا باور کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر حیات جسمانی اور دنیوی تصور قبول کیا جاسکتا ہے تو مثنیٰ صاحب کے تصور کی راہ میں کون سا مانع حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن میری رائے میں مثنیٰ صاحب کے دلائل کئی وجوہ سے کمزور اور مرجوح معلوم ہوتے ہیں۔

❖ حدیث: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»

”اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے اجسام حرام فرمادیے ہیں۔“

گو بلحاظ سند صحیح نہیں، تاہم اصولاً اسے جو فوقیت طبرانی اور ابویعلیٰ پر ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اصولاً اسے کو بحیثیت مجموعی طبرانی وغیرہ پر برتری حاصل ہے۔ چوتھے درجے کی کتابوں سے استدلال قبول ائمہ حدیث تنقید اور تحقیق کے بعد کرتے ہیں یا پھر اہل بدعت جن کے ہاں اصل چیز اپنی بدعت کی تائید ہے۔ دلائل کی پختگی سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ (حجة اللہ)

❖ حافظ مثنیٰ نے مجمع الزوائد میں صرف زوائد جمع کرنے کا ذمہ لیا ہے، تاکہ مواد اہل علم کے سامنے آجائے، وہ ان زیادات پر بالاستیعاب کلام نہیں فرماتے اور نہ جرح و قدح کی تفصیلات ہی میں جاتے ہیں۔

❖ ابویعلیٰ کی روایت کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے: ”رجالہ رجال الصحیح“ اس سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند کے رجال پر اصحاب اصحیح نے اعتماد فرمایا ہے، لیکن حدیث کی صحت کے لیے یہ کافی نہیں۔ امام مسلم نے شواہد میں ایسے رجال سے روایت کی ہے جن میں ائمہ حدیث کو کلام ہے، اس کا تذکرہ انہوں نے مقدمہ مسلم میں بھی فرمایا ہے۔

❶ دیکھیں: حجة اللہ البالغة (۱/۱۳۵)

۱۶ پھر ثقافتِ رجال کے علاوہ صحیح حدیث کے لیے اور بھی شروط ہیں۔ مراہیل اور مقطوعات میں ثقافتِ رجال کے باوجود حدیث کی صحت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ راوی اور روایت کی شرائط کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۱۷ طبرانی کی روایت کے متعلق حافظ بیہمی فرماتے ہیں: ”رواہ الطبرانی فی الأوسط وفیہ من لم أعرفہم“ غیر معروف رجال سے جو روایت مروی ہے اس کی صحت کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس قسم کی ضعیف روایات کے بالمقابل تو ابن ماجہ کی روایت ”إن اللہ حرم علی الأرض أن تأکل أجساد الأنبیاء“ کو ضعف کے باوجود جمہور امت نے قبول فرمایا ہے، اس لیے اسے طبرانی اور ابویعلیٰ کی ضعیف روایت پر ترجیح ہوگی۔ لتلقی الأمة مفہومها بالقبول. قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ ابن ماجہ کی روایت کو ترجیح دی جائے اور برزخی زندگی کے ساتھ جسم کی سلامتی کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔

۱۸ پھر ابن ماجہ کی روایت کو علیٰ علائہا تسلیم کر لینے سے تعارض بھی اٹھ سکتا ہے۔ ابویعلیٰ اور طبرانی کی روایت میں عظام سے مقصد حضرت یوسف۔ علی نبینا وعلیہ السلام۔ کی نعش مبارک مراد ہو، جیسے کہ ”البدایة والنهاية“ (۱/ ۲۷۵) میں ”آخر جوا معہم تابوتہ“ مرقوم ہے۔ عظام کی تابوت اور تابوت کی عظام سے تعبیر میں کوئی استبعاد نہیں۔ ایسے مقام پر عظام سے جسم مراد لینا متعارف ہے۔^۱

قرآن حکیم نے منکرین حشر کا عقیدہ ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [نہ: ۲۷۸] (بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندگی عطا کرے گا) معلوم ہے کہ کفار

۱ جیسے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جب نبی مکرم ﷺ کا جسم مبارک ہماری ہو گیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ﴿ألا أنخذ لك منبراً يا رسول الله، يجمعل أو يحمّل عظامك؟ قال: بلى﴾ (سنن أبی داؤد، رقم الحدیث: ۱۰۸۱) اس حدیث میں پورے جسم پر ”عظام“ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حشر اجساد کے منکر تھے۔ حشر عظام پر استعجاب اسی حقیقت کی تعبیر ہے، مقصود یہی ہے: ”من يحيي الاجسام البالية“۔ حدیث میں « فاحتمل عظامه » سے مراد «احتمل جسمه» ہی ہونا چاہیے۔ اس مفہوم کے بعد احادیث میں تعارض اٹھ جاتا ہے۔ میری دانست میں وہی مسلک صحیح ہے جسے ائمہ سنت و حدیث نے قبول فرمایا ہے۔

﴿ ابن خلدون کا حوالہ اور بھی محل نظر ہے، کیونکہ مصر سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے۔ بنی اسرائیل چالیس سال تک بادیہ تہ میں اقامت پذیر رہے۔ کوشش اور انتہائی آرزو کے باوجود بنی اسرائیل کسی ہمسایہ ملک پر حملہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال اسی اثنا میں ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے سپرد ہوئی۔ حضرت یوشع نے اریحا اور نابلس کے علاقے فتح کیے۔ خیال ہے کہ اس اثنا میں برسوں گزر گئے ہوں گے۔

ابن خلدون نے بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام“ (۱/ ۱۲۳)

”تابوت“ اور ”شلتو“ ابن خلدون نے دونوں استعمال کیے ہیں۔ مسعودی نے ایک روایت میں تابوت کی شکل بھی بتائی ہے:

”قبض الله يوسف بمصر، وله مائة وعشرون سنة، وجعل في تابوت الرخام، وسد بالرصاص، وطلی بالأطية الدافعة للهواء والماء“ (۱/ ۴۷)

”حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سفید پتھر کا تابوت بنایا گیا، اور ہوا اور پانی کی بندش کا پورا انتظام کیا گیا۔“

معلوم نہیں اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظام یا تابوت کو وادی ”تہ“ میں دفن کیا گیا اور نکال کر حسب وصیت نابلس میں دفن کیا گیا۔ تفصیلات کے متعلق تاریخ خاموش ہے اور جو مواد ملتا ہے وہ قریباً اسرائیلی روایات ہیں، جن کی بنا پر ترجیح دینا مشکل ہے۔ جمہور امت نے جو رائے قبول کی ہے، روایات میں ضعف کے باوجود وہی راجح

معلوم ہوتی ہے۔ یہ سارے واقعات اخباری انداز میں ہیں، ان کا انداز حدیث اور محدثین کی ہمسری نہیں کر سکتا۔

﴿ ابو القاسم سہلی بعض شہدائے احد اور صلحا کے اجسام کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کئی سال کے بعد اپنی قبروں سے صبح سالم برآمد ہوئے اور دوسری جگہ دفن کیے گئے، اس کے بعد فرماتے ہیں:

”والأخبار بذلك صحيحة“ (روض الأنف: ۱/۳۲)

پھر فرماتے ہیں:

”قال عليه السلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه سليمان بن أشعث، وذكر أبو جعفر الداودي في كتاب التأمي، هذا الحديث بزيادة، وذكر الشهداء والعلماء والسؤذنين، وهي زيادة غريبة لم تقع (لي) في مسند، غير أن الداودي من أهل الثقة والعلم“ اھ الخ

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے اجسام زمین پر حرام فرمادیے ہیں۔ سلیمان بن اشعث نے اسے تخریج فرمایا ہے۔ ابو جعفر داودی نے اس حدیث میں شہداء، علماء اور مؤذنین کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس زیادت میں بے شک غرابت ہے، لیکن داودی عالم اور ثقہ ہیں۔“

سہلی اور شوکانی نے ان احادیث کے متعلق صحت یا ثقاہت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے باوجود مجھے اعتراف ہے کہ یہ ذخیرہ ضعف سے خالی نہیں۔ بخاری رحمہ اللہ، منذری رحمہ اللہ اور ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ فن نے ان پر تنقید فرمائی ہے اور یہ حضرات سہلی وغیرہ سے اپنے فن میں زیادہ مستند ہیں۔ اس لیے اگر منشی صاحب اپنی رائے پر اصرار فرمائیں تو انہیں اس کا حق ہے۔ مکرر گزارش ہے کہ اپنائے دیوبند اس موضوع پر تحقیقی طور پر لکھیں، محض اکابر

اساتذہ کی تہدید پر کفایت نہ فرمائیں اور نہ ہماری گزارشات کو کسی بے ادبی پر محمول فرما کر ناراض ہونے کی کوشش ہی کریں۔

فإن العلم أمانة، والجهل عن الحقائق خيانة، والتمسك بالنصوص
ديانة، والإعراض عن التحريف والتأويل صيانة، ومن حرم عن ذلك فقد
حرم بعض الخير، والله ولي التوفيق، عليه توكلت وهو حسبي، ونعم
الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه أعتد وإليه أنيب.

www.KitaboSunnat.com

مسئلہ حیات النبی ﷺ پر ایک سوال

اور

مدیر ”تجلی“ دیوبند کا تحقیقی جواب

سوال:

لاہور سے ”رحیق“ نامی ایک ماہنامہ نکلتا ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات کا آرگن ہے۔ اس کی چند اشاعتوں میں ”حیات النبی“ کے مسئلے پر ایک خاص غلو پسندانہ انداز میں کلام کیا گیا ہے۔ خصوصاً آخری قسط مئی (۵۸ء) میں علمائے دیوبند حتیٰ کہ قاسم العلوم والخیرات حجۃ اللہ مولانا محمد قاسم بریلوی تک کی تقلیل و تخطیہ میں کسر اٹھا کے نہیں رکھی گئی ہے۔ کاش آپ اس مضمون کو ملاحظہ فرمائیں اور جو قلم مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی تائید میں دفتر کے دفتر گھسیٹ دیتا ہے، وہ اپنے لائق صد احترام اکابر و اسلاف کی حمایت میں بھی جولانی دکھائے اور تمام ائمہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو صاحب علم اور عقلی و فہیم سمجھنے والے اہلحدیث کی جساتوں کا جواب لائے۔

امید ہے کوشش کر کے ”رحیق“ حاصل کریں گے اور اپنے اکابر کی حمایت سے نہیں چوکیں گے۔ ویسے بھی ”حیات النبی“ کے مسئلے میں رحیق کے مضمون نگار کی رائے لطیف طریقے پر تو بین رسول ﷺ پر منہجر ہوتی ہے، جس کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔

جواب

رحیق بہترین علمی مجلہ ہے:

ماہنامہ ”رحیق“ لاہور ”جلی“ کے تبادلے میں دفتر ”جلی“ میں آتا ہے اور ان پرچوں میں شامل ہے جنہیں ہم کم و بیش پورا دیکھے بغیر نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اسے ہم ناقدانہ نہیں، بلکہ طالب علمانہ اور شاگردانہ حیثیت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے مضامین عموماً قیمتی علمی مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، جن سے ہماری حقیر سی متاع علم میں مفید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے خط کو پڑھ کر نہایت رنج ہوا۔ انداز بیان سے لے کر لفظی مطلب تک تمام خط تعصب، غلط فکری اور جاہلی تصورات سے آلودہ ہے۔

کاش آپ ”جلی“ کے قائل اٹھا کر دیکھتے کہ ہم دینی معاملات میں کس نقطہ نظر کے حامل ہیں اور ہمارے نزدیک دین میں گروہ بندیاں اور اجارہ داریاں کس قدر افسوس ناک امور ہیں۔ ہزار ہزار صدمہ اور ملال ہے کہ ہمارے موجودہ دور سے عموماً وہی فاسد و مجہول اور غالی و متعصب ذہن تیار کر رہے ہیں، جس کی خاصی جھلک آپ کے خط میں دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط قسم کی اکابر پرستی، مقامیت و وطنیت پر مبنی گروہ بندی، غلو فی الحقیقت اور ”ہم چو ما دیگرے نیست“ کے جذب سے محفوظ رکھے!

ہم مولانا محمد اسماعیل سے متفق ہیں!

جہاں تک نفس موضوع یعنی اس سوال کا تعلق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو وصال و رحلت کے بعد کس طرح کی ”زندگی“ حاصل ہے، اتفاق سے ہم پہلے ہی بعض علمائے دیوبند کے

مسلك سے متفق نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مسلك بعینہ وہی ہے جس کا اثبات ”رحیق“ کے فاضل مضمون نگار مولانا محمد اسماعیل صاحب خطیب نے کیا ہے۔ تجلی میں کئی بار اس مسئلے پر ہم اجمالاً کچھ نہ کچھ لکھ چکے ہیں، تمام حوالے تو مستحضر نہیں ہیں، صرف ایک حوالہ پیش نظر ہے، یہی ہمارے خیال و عقیدے کے اظہار کے لیے کافی ہے۔

”تجلی“ مئی ۵۶ء میں ”تجلی کی ڈاک“ کے تحت ”حیات النبی“ ہی کے زیر عنوان ہم نے ایک صفحے کا جواب دیا تھا، مناسب ہو آپ اسے پڑھ لیں۔ اس کی آخری سطور یہ تھیں:

”ہمارا کہنا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھنا ہی پسند فرمایا، ان کے بارے میں تفصیلات کی طلب اور چھان بین مناسب نہیں ہے، مجمل عقیدہ ہی کافی ہے۔ عقل و ادراک کے پاس یہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ مرنے کے بعد کے احوال و واقعات کو مادی احوال و واقعات کی طرح سمجھ سکے۔ وصال کے بعد حضور ﷺ کے جسم و روح میں کیا اور کیا تعلق ہے؟ آپ کن معنوں میں زندہ ہیں؟ آپ کے سامنے کیا چیزیں پیش ہوتی ہیں؟ کیا نہیں؟

اس طرح کے سوالات میں پڑنے کے عوض احکامات دین کی تعمیل و نفاذ ہی مسلمانوں کے لیے بالکل کافی ہے۔ جن لوگوں پر عبادات و نیکوکاری کے نتیجے میں اللہ کے بعض چہرے ہوئے اسرار کھول دیے گئے ہوں اور ”حیات النبی“ کے باب میں ان پر کچھ سکشف ہوا ہو، وہ ان کے اپنے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، عوام اسے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ مغالطوں اور وسوسوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ حضور ﷺ کے وصال کو ”موت“ سے جدا کوئی چیز ثابت کرتے ہوئے آپ کی حیات مستقلہ کا کوئی متعین و مشخص اور معلوم و مشرح تصور عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ مفید کام نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں قرآن کے بار بار بیان کیے

ہوئے تصور بشریت کو مافوق البشر تصورات و اوہام سے آلودہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔“ (جلی۔ مئی، ۵۶، ص: ۳۳)

مولانا قاسم رضاؒ محصوم نہیں تھے!

مولانا محمد قاسم رضاؒ سے عقیدت و محبت کا جہاں تک سوال ہے، تو سچ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے وقت کا بہترین عالم، ذہین و فہیم مفکر اور صاحب زہد و ورع، دانشور سمجھتے تھے، لیکن یہ عقیدت اس لغویت تک کبھی نہیں پہنچی کہ ہم ان کو محصوم مان کر ان کی ہر فکر و رائے کی اندھا دھند تائید کرتے چلے جائیں، چنانچہ ان کی مختلف تحریروں میں اس طرح کی باتیں دیکھنے کے بعد بھی کہ رسول اللہ ﷺ کی رحلت ”موت“ کے معلوم عام مفہوم و مصداق سے جداگانہ شے ہے اور اس کی مثال اس ہانڈی کی سی ہے جو کسی چراغ پر ڈھک دی جائے، ہم کسی طرح اپنے آپ کو اس باریک خیال کی تائید و تصدیق پر مائل نہ کر سکے۔

بلکہ ہمارا عقیدہ وہی رہا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی رحلت بھی من حیث البشر ویسی ہی رحلت ہے، جیسی کسی دوسرے انسان کی ہوتی ہے اور ”موت“ کا لفظ اس پر ٹھیک اسی طرح صادق آتا ہے، جس طرح کسی اور انسان کی رحلت پر، اس کے لیے قرآن، حدیث اور خلیفہ اول کی تقریر میں واضح شہادت موجود ہے۔ رہا بعد مرگ ان کا زندہ رہنا اور زمین پر ان کے جسم کی حرمت تو اگرچہ اس کا انکار ایک مسلمان کی حیثیت میں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس زندگی بعد مرگ کو ٹھیک دنیاوی زندگی جیسا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مرگ رسول ﷺ کو ایک اٹل حقیقت ماننے سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گویا یہ ”موت“ محض ایک فریب نظر یا مذاق تھا، وہ اچھا نہیں کرتے اور ان کا ذہن و قلب اس غلط ترین خیال سے مسموم ہے کہ ”موت“ ایک اتنے عظیم پیغمبر کے لیے توہین و تحقیر کا باعث معلوم ہوتی ہے۔

فیہر مولانا قاسم رضاؒ کا اندازِ تحریر تو کچھ ایسا اداق اور غامض تھا کہ ہم کو ناہنہوں کے

لیے اس حسنِ ظن کی بھی گنجائش باقی رہ جاتی تھی کہ جو کچھ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، شاید اس کا مطلب وہ نہ ہو جو ہم نے سمجھا ہے اور وہ حیات النبی کے باب میں فی الحقیقت وہی مسلک رکھتے ہوں جسے ہم درست سمجھ رہے ہیں۔

کل کا دیوبند اور آج کا دیوبند:

پھر وہ بھی زمانہ تھا، شرکت و بدعت کے خلاف خود مولانا قاسم اور دیگر ہم عصر علمائے دیوبند آئے دن سرگرمیوں کا مظاہرہ فرماتے رہتے تھے اور ”حیات النبی“ کے متعلق ایک خاص مسلک رکھنے سے قبوری حضرات کو جو شے ملنی ممکن تھی، ان کا سد باب اور ازالہ ان کی دیگر واضح و مصرح اور مؤکد و مدلل تحریروں اور تقریروں سے پوری طرح ہو رہا تھا، لیکن آج جو احوال ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں۔ آج وہ زبانیں گنگ، وہ انگلیاں مفلوج اور وہ جذبات سرد ہو چکے ہیں جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اکرامِ مسلم کے ساتھ اہانتِ بدعتی اور تردیدِ شرک و بدعت کو بھی سمجھ کر ارضِ قرار دیتے تھے۔ وہ اخلافِ حکمت و رواداری کی ”مسلین پالیسی“ اختیار فرما چکے ہیں، جن کے اسلافِ شرک و بدعت کے باب میں رواداری، تلخین، درگزر اور صرف نظر کو بزدلی، بے حسی، بے عقلی اور دوغلا پن گمان فرماتے تھے۔

اسی لیے آج کہیں اور نہیں دیوبند میں، اس دیوبند میں جہاں طلبہ و ہارمونیم والی تواری، صلوة علی القبر، جمعراتی جشنِ قبوری، چادر بازی اور دیگر قبوری بدعات کا سایہ تک نہیں پایا جاتا تھا، یہ سب کچھ موجود ہے، نہ صرف موجود بلکہ روز افزوں ترتی پر ہے۔ کیسے نہ ہو؟ ہمارے داعضانِ شیریں بیان کا یہ حال ہے کہ جب وہ کسی ایسے مجمع میں وعظ فرماتے ہیں، جہاں اکثریت مہندین و مجہولین کی ہو تو ذومعنی اور آرنٹک گل افشانتوں کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہیں کہ توحید پرست بھی واہ واہ کر اٹھیں اور مقبروں کی خاک چاٹنے والوں کا دل بھی گز بھر کا ہو جائے۔ دیوبندی کہیں کہ کوئل ”خفا تو“ بولی۔ بدعتی کہیں کہ نہیں وہ تو ”عبدالقادر“ بولی۔ حد ہوگئی، اسی عید الفطر کے وعظ میں دیوبند کی عید گاہ کے لاؤڈ سپیکر سے قبل نمازِ عید

قبروں پر جانے کی مسنونیت نشر ہوئی اور ایک خاص حالت، خاص فضا اور خاص معاشرے سے متعلق حدیث کو ٹھیک اس داعضانہ بے قیدی و بے پناہی کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس کے نقصان و اضرار پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم اور مجدد الف ثانی جیسے حضرات سر پینتے گئے ہیں، اور جس کی سطحیت پر سید اسماعیل شہید جیسے اعظم رجال پناہ مانگ چکے ہیں۔

قبوری ذہن کو ہتھیار:

ہندو پاک میں قبر پرستی اور پرستشِ اولیاء جس قدر زوروں پر ہے، آنکھ والوں سے مخفی نہیں۔ ایسے حالات اور ماحول میں جو اہل علم ”حیات النبی“ کا مسئلے کر بیٹھتے ہیں اور حیات پیغمبر کو بالکل حیاتِ دنیاوی بنا کر اپنی فدائیتِ رسول اور حبِ پیغمبر اور تخرِ علمی کا مظاہرہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ صرف وقت کا ضیاع ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک نہایت افسوسناک نتائج پیدا کرنے والے کام میں صرف کرتے ہیں اور قبوری ذہن کو توحید کے خلاف ہتھیار فراہم فرماتے ہیں، اسی لیے آج اس مسئلے کی حیثیت محض علمی نہیں رہی کہ اس میں ہر نقطہ نظر کو باعتبار اجتہاد حق و ثواب مان لیا جائے، بلکہ اس کی نوعیت ایک مستقل فتنے کی ہو گئی ہے، جس سے دامن پھانا ہر دانشمند کا فرض ہے، اسی وجہ سے ”رحیق“ کے فاضل مضمون نگار نے زحمتِ تنقید فرمائی ہے اور اس وجہ کا مختصر اظہار بھی آخر میں کر دیا ہے۔

نفسِ مسئلہ سے ہٹ کر جہاں تک طرزِ تحریر اور معیارِ تنقید کا تعلق ہے تو اگر نفسِ مسئلہ پر ہم فاضل مضمون نگار سے متفق نہ ہوتے تب بھی برملا یہی کہتے کہ سنجیدہ و متین اور شہوں علمی اختلاف کا جو بہتر سے بہتر معیار ہو سکتا ہے، انھوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ لہجے سے لے کر الفاظ تک اور دلائل سے لے کر آداب تک انھوں نے پوری سائنسی، مردباری اور نجابت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یا کوئی اور ان کے دلائل سے متفق نہ ہو یا دلائل کو سمجھے جو جیسے بغیر صرف عقیدتا اسی خیال پر جمار ہے، جو اس کے محبوب بزرگوں کا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اجماعت ہونا آپ کی آنکھوں پر تعصب کی

پٹی باندھ دے اور اپنے بزرگوں کے ایک مسلک کی علمی تنقید آپ کو جاسے سے باہر کر دے۔ یہ کیمن باید الذمہی ہے کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی کی تائید کا ذکر نہایت تحقیر سے کرتے ہیں، دوسرے طرف بعض اکابر و اسلاف کے ساتھ ”لائق صد احترام“ کا دم چھلا لگا کر ہمیں ان کی حمایت پر اس لیے ابھارتے ہیں کہ وہ ”ہمارے“ ہیں۔ اس طرح کی لغویتیں قوم و وطن کے محور پر گھومنے والی سیاست میں تو چلتی ہیں، لیکن دینی و علمی مسائل میں اپنا اور پرایا، لائق صد احترام اور لائق صد اہانت کوئی چیز نہیں ہوتی۔

مولانا قاسم بڑھنڈی یا کسی اور دیوبندی بزرگ سے اگر ہمارے نسلی اور وطنی کچھ رشتے ہیں تو دینی و علمی مسائل میں ان رشتوں کی دہائی دینا پر لے درجے کی تنگ نظری ہے، اور مولانا مودودی سے ہمارا نسلی و وطنی کوئی بھی رشتہ اگر نہیں ہے تو اس عدم تعلق کو دینی و علمی مسائل میں ٹوٹا رکھنے کا سبق دینے والا ہمارے نزدیک انتہائی پستی نگر و نظر کا شکار ہے۔ پھر اسی سانس میں آپ اہل حدیث پر بھی علی الاطلاق ایک بھونڈا فقرہ کس جاتے ہیں۔ یہ کیا گراوٹ ہے؟ ہم بے شک حنفی ہیں اور یہاں تک غالی کہ اگر کسی فقہی مسلک کے بارے میں ہمیں تحقیق ہو جائے کہ وہ واقعی امام ابوحنیفہ کا ہے اور بعد کے کسی حنفی نے اس میں اپنے اجتہاد و قیاس کو داخل نہیں کیا ہے تو چاہے یہ ہمارے علم و عقل کے بظاہر خلاف ہی ہو، مگر ہم اس سے اختلاف کی ہمت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کافی علم نہیں ہے جو اتنے بڑے عالم و دانا سے اختلاف کرنے کا حق عطا کرتا ہے۔

الجمہدیت پر توہینِ رسول کا الزام:

”توہینِ رسول“ کی ایک ہی رہی، الجمہدیت اور توہینِ رسول؟ دن اور تاریکی؟ آسمان اور پستی؟ ہمیں پہلے ہی اندیشہ تھا کہ دیوبندی علمائے خلف کی اہل بدعت سے نیم برہنہ ساتھ گانڈھ اور منہاہمت آفر کار دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی مبتدعانہ علوانی العقائد اور متوہمانہ نکتہ نچی کا زہر پھیلا کے رہے گی۔ وہی ہوا، اہل بدعت تو دیوبندیوں پر توہینِ رسول اور تحقیرِ اولیاء

کے الزامات عائد کرتے تھے، اب دیوبندی مسلک کے لوگ اجماعیت اور مولانا مودودی وغیرہ پر یہی ہوائی تیر چلا رہے ہیں۔

بندۂ رب! ریحق والے مضمون میں تو توہینِ رسول کا شائبہ تک نہیں۔ جو خود نبیِ جبرئیل کو ہاتھی بنا کر دکھاتی ہو، وہ بھی اس مضمون میں توہینِ رسول کا کوئی حصہ نہیں دکھا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح قبوری حضرات نے اہل قبور کے لیے رنگ برنگے عقائد گھڑ لیے ہیں، طرح طرح کی دور از کار اور بے اصل صفاتِ اولیاءِ مرحومین کے لیے تصنیف فرمائی ہیں اور ان خود ساختہ عقائد و صفات کی تردید کو وہ توہینِ اولیاء قرار دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی رسول اللہ ﷺ کے باب میں کچھ طبع زاد تصورات کو حقائق مان لیا ہو اور ان سے بدلائل اختلاف کرنے والوں کو مرتکبِ توہین قرار دینے لگیں!!

مولانا محمد اسماعیل کا درست تجزیہ:

سچ لکھا ہے ریحق کے مضمون نگار جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب نے ”بعض دیوبندی علماء بھی بریلوی علم کلام کے (۱/۳) حصے سے موقع بہ موقع کام لیتے رہے ہیں۔“ بلکہ ہم تو یہاں تک شہادت دیں گے کہ یہ علم کلام گاہے گاہے عملی جامہ بھی پہن لیتا ہے، مثلاً یہاں ایسے بھی ”علمائے کرام“ موجود ہیں، جو ”شاہِ ولایت“ صاحب کے مزار پر جاتے ہیں اور واپس آ کر دوست احباب سے یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج مجھے شاہِ ولایت صاحب نے ڈانٹا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، اور آج سینے سے لگایا، اور آج فلاں مشورہ دیا۔

یہاں ایسے بھی ”عاشقانِ اولیاء“ علماء ہی کے دائرے میں موجود ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ مولانا! یہ جو آپ نے درمیان کی دیوار ڈھا کر دو گھنٹوں کا ایک کمرہ بنا دیا تو بہت ہی اچھا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں! حضرت مولانا رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ جو کام بھی کرتا ہوں، ماشاء اللہ ان کی توجہ سے پسندیدہ و مرغوب ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی اور وقت میں جب موڈ ذرا بدلا ہوا ہو تو آپ انھیں کی زبانی یہ بھی سنیں گے کہ مولانا

صاحب! بڑی ہی پریشانی ہے، تحفواہ میں گزارا نہیں ہوتا، فلاں کام یوں کیا تھا، یوں بگڑ گیا، فلاں ترکیب یوں سوچھی تھی اور اوندھی ہوگئی۔ اب اگر آپ یاد دلائیں کہ مولانا وہ برکت و توجہ کہاں گئی جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا تو وہ سوختہ و بریاں جواب ملے گا کہ قادیانی علم کلام بھی پانی بھرتا رہ جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بدعت کا کوئی وطن نہیں، نہ وہ کوئی لیڈنڈ یا رجسٹرڈ کاروبار ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک دیوبندی عالم جو کچھ کہے اور کرے، اس کا بدعت ہونا ناممکن قرار دیا جائے، اور الجندیت حضرات اگر علمائے دیوبند سے کسی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہوں تو لازماً علمائے دیوبند ہی حق پر ہوں۔ آخرت کا اگر خیال ہے تو گروہی و وطنی عصبیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اسلام اور بندگان اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے وسعت نظر اور علم و برداشت کی راہ پر آئیے، ورنہ قبر اقبال سے وہی آواز آئے گی۔

تمھاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں

(جلی دیوبند، ص: ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

9

زیارتِ قبور

زیارتِ قبور

قبر کے متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات:

”قبور“ گہری زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ دنِ میت کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے، اس لیے اسے بھی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لیے آیا ہے:

﴿ثُمَّ أَمْاتَهُ فَاتَّقَبَرَ﴾ [عبس: ۲۱]

”انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی۔“

یہاں تحدیث بالعمۃ مقصود ہے۔ انسان کی لاشِ ذلت سے بچ گئی۔ کہیں دوسرے واقعہ میں ضمناً ذکر آ گیا:

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [النوبة: ۱۸۴]

”سناٹن کی قبر پر بھی آپ مت جائیں۔“

﴿حَسْبُ ذُرَّتُهُمُ الْمَقَابِرُ﴾ [التكاثیر: ۲]

﴿يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ۷]

﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِفِرَتْ﴾ [الانفطار: ۴]

ان مقامات میں قبر کا ذکر تذکرہ کرنے کے طور پر آیا ہے، اس میں نہ اعزاز ہے نہ اتخفاف۔

ابتدائے آفرینش میں سب سے پہلا ناحق قتل ہائیل کا ہوا۔^۱ قاتل حیران تھا کہ لاش کس

طرح ٹھکانے لگائے؟ ایک کتوے کی راہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنبھالی جاتی

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۵۷) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۶۷۷)

ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی عجلت پسندی اور کم علمی کا پتا چلتا ہے۔ ہائیل ایک نیک آدمی تھا، نہ اس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا، نہ کسی دوسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا۔
اصحابِ کہف:

اس کے قریب قریب اصحابِ کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے۔ ظالم حکومت سے بچ بچا کر ایک غار میں پناہ لی، ان پر غنودگی طاری ہوگئی۔

﴿تَعَسَّبَهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الکہف: ۱۸]

وہ سو گئے۔ غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لیے وہاں مسجد بنا دی۔ اہل بدعت نے اسے کھینچ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لیے جواز کی دلیل قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال قطعاً بے عمل ہے۔ جب نصِ قرآن کے مطابق اصحابِ کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدمی سو رہے ہیں، قبر ہے نہ موت، اس لیے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے۔

سابق انبیاء علیہم السلام:

قرآن حکیم میں انبیاء کے قصص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں سے اکثر کا انتقال زمین پر ہوا اور یہیں دفن ہوئے:

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَدًّا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا تَكَانُوا خَالِدِينَ﴾ *

[الانبیاء: ۸]

وہ کھانا بھی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے، دنیا کا قانون یہی بنایا گیا۔

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ *

[طہ: ۱۰۰]

”اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ انبیاء ﷺ اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں، اس کے باوجود کسی کی صحیح قبر کا علم نہیں۔ کبھی ان پر میلہ نہیں لگا۔ کسی نبی سے منقول نہیں کہ دوسرے نبی کی قبر پر زیارت کے لیے گیا ہو یا اپنے امتوں کو حکم دیا ہو کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے نبی کی قبر پر اس قسم کی نذر و نیاز کی جائے۔ انبیاء ﷺ کی تعلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء ﷺ سے یہ رسم منقول نہیں۔

قبل اسلام کی رسوم:

صحیح دین میں تو قبر کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا، مگر عوام اور مخالفین انبیاء نے اس معاملے میں جو غلطیاں کیں، اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان چور دروازوں کا پتا چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء نے ایجاد کیے۔ شرکین کی یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء ﷺ اور اہل حق کی مخالفت کرتے رہے۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بت بنانے شروع کر دیے، ان کی تصویریں بنا لیں اور ان کی قبروں کو کرب معاش کا ذریعہ بنا لیا۔

احادیث و قیمر سے قہور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں، اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا:

① قبروں کا پختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا۔

② ان پر سجدہ کرنا اور ان سے حاجات طلب کرنا۔

③ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، مجاورت کے طریق سے دنیا کمانا۔

④ قبروں پر میلے لگانا، عرس کرنا اور ان پر اجتماعات منعقد کرنا اور اسے عید اور سرت

تصویر کرنا۔

احادیث سے جہاں ان بیماریوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے کراہت اور نفرت کا

بھی پتا چلتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پرانی خرابیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا، اپنی امت کو اس سے پہنانا چاہتے ہیں، جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح وابستگی شرکازہ عقائد کا موجب ہے۔

آنحضرت ﷺ کے ارشادات کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ آپ ﷺ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا۔ جن وجوہ کی بنا پر آپ ﷺ نے ان پر لعنت فرمائی، ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا مروجہ طریقہ بھی ہے۔

آنحضرت ﷺ کے ارشادات:

① "عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه". وروى: "أن يكتب عليها" (أحمد، مسلم)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "آنحضرت ﷺ نے قبر پر چونہ لگانے، اس پر پتھر کرنے، قبر پر بیٹھنے اور اس پر لکھنے سے منع فرمایا۔"

② "عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له ما رأته فيها من الصور، فقال رسول الله ﷺ: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار المخلوق عند الله" (متفق عليه)

"ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت کے پاس حبشہ کے ایک معبد کا ذکر فرمایا، جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔"

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۷۰) مسند أحمد (۲/ ۲۹۵) سنن الترمذی، برقم (۱۵۰۲)

② صحیح البخاری (۱/ ۶۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۰۱)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرت ﷺ کی آخری علالت میں ہوا۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانی چاہیے، قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لیے نہیں بنانی چاہیے۔

آنحضرت ﷺ کی نظر میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ «شرار الخلق» (تمام مخلوق سے بدتر) ہیں۔

③ عن عطاء بن یسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد»^①

(رواه مالك مرسلًا، ورواه النيزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً)

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میری قبر کو وطن نہ بنانا۔ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ از بس ناراض ہے، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔“ (مالک برلشہ نے اسے مرسل روایت فرمایا اور ہزار نے ابوسعید خدری سے مرفوعاً ذکر کیا ہے)

تواتر:

④ اس مضمون کی احادیث آنحضرت ﷺ سے بہ تواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرت ﷺ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے:

”فقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك، والتشديد فيه“ (انتفاء الصراط المستقيم، ص: ۵۶۹، مطبوعہ انصاری دہلی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابو حاتم، ترمذی، نسائی، مشقی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، جناب بن عبداللہ الجلی اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔^⑤

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کو قبلہ کی طرح

① مؤطا الإمام مالك (۱/ ۱۷۲) نیز دیکھیں: الاستذکار (۶/ ۳۳۹)

② دیکھیں: صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۲۵) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۳۱)

سامنے رکھنا شرعاً حرام ہے۔

❊ جناب بن عبدالقدیرؒ کی روایت میں ہے:

«الواوین من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالحیہم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنہاکم عن ذلك» (مسلم)

”تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدے کرتے تھے۔ تم قبروں کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔“

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صلحاء کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ ایسی قبور جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنحضرت ﷺ کی نظر میں ”وثن“ کے حکم میں ہیں۔

❊ عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (مسلم)

”قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔“

اگر قبر کا نشان مٹ جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد خیف، حرم مکہ اور مسجد نبوی ﷺ کے متعلق مروی ہے کہ ان میں سے بعض میں شرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء ﷺ کی، لیکن اب وہ سب ناپید ہیں، اس لیے شرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جائز ہے۔

شریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ مسجد میں قبر ہو نہ قبروں پر مسجد۔ قبر اور مسجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے، ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔

❶ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۳۲)

❷ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۷۲)

❸ دیکھیں: صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۱۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۲۴)

قبروں کے پاس مسجد:

عام طور پر مشہور حزاروں اور استہانوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں، ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی۔ خدا کے گھر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہو سکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل مسجد اپنے مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے، اس لیے آنحضرت ﷺ نے قبروں کے پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی:

«إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَيَّ قَبْرَهُ مَسْجِدًا»^①

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

«نَهَى أَنْ يَجْصَصَ الْقَبْرَ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»^②

قبر پر مسجد بنانا، قبر پر چٹا کرنا، یہ فعل ممنوع ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اس میں نماز دوسری مساجد سے افضل ہے تو اس میں نماز نادرست ہوگی۔

قبروں پر غرس اور میلے:

قبر سے شارع کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ویرانی ہو۔ اس کے دیکھنے سے موت کا تصور آنکھوں میں پھر جائے۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں۔ خواہ صورتی اور شان و شوکت نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گلکاریار

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۲۴) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۲۸)

② صحیح مسلم (۹۷۰)

نہ ہوں۔ تاج محل جیسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی ثروت اور اسراف ہی کا خیال ذہن پر غالب ہوگا۔

قبروں پر شور و شغب، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے منافی ہیں۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

عن أبي هريره قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (ابوداؤد)

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (نوافل گھر میں پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ تمہارا درود، تم کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے۔“

بُت پرستوں کی زیارت:

اہل کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، اور توحید کا مسئلہ تمام شرائع میں مشترک ہے۔ قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے، مگر سابقہ احادیث سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسمانی تعلیم سے انحراف کر چکے تھے اور اوہام پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشاہد پرستی، استہانوں پر عرس اور اجتماعات ان میں رواج پانچکے تھے۔

بُت پرست قوموں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ نہیں معلوم ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے، اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر قناعت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اہم دینیں رکھتے تھے۔ جو لوگ کھڑے بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں، وہ لیٹے ہوئے بزرگوں کی پرستش کیوں کریں؟ جب کھلے کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں غائب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے؟

① سنن أبي داود، رقم الحديث (۲۰۴۲)

اصل مرض:

بُت پرستی اور قبر پرستی میں اصل مرض یہ ہے کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرئی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی ضرورتیں پوری کر سکے گا۔ وہ بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا انتظام نظروں سے غائب اور اکیلا خدا کیسے چلائے گا؟

﴿أَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ۵]

محمد (ﷺ) نے تمام الہ کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا الْاِغْتِلَاقُ﴾ [ص: ۷]

ہم نے تو یہ تو حید کسی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے۔

اسی لیے زندوں کا تو سل، مردوں کا تو سل، قبروں کی سیڑھیاں اور بتوں کے واسطے کھڑے گئے تاکہ نظر کے سامنے کوئی تو سہارا ہو، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ سہی غیر مستقل ہی سہی۔ اس قسم کے عطائی الہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے !! خدا کی حکومت سیکرٹریٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

ساری یہ مصیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، ارباب تو سل کی تسکین ظاہری شفا اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے یہ تشنگی کبھی قبروں سے پوری کی جاتی ہے، کبھی بتوں سے۔

بُت پرستوں نے ان کھڑے کھلے مرئی بتوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لیے ان کو قبروں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی، مگر شرک کی ذہنیت میں ایک مساوات پائی جاتی ہے، اس لیے قبر پرستی کے تھوڑے بہت آثار ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔

سورت مجم کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد اور ابو

صالح "لات" کی "تا" کو مشدد پڑھتے تھے اور فرماتے:

﴿كَلِمَاتٍ يَلْتَمِسُ السُّوَيْقُ لِلْحَاجِّ، فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ فَعَبَدُوهُ﴾
(ابن جریر: ب، ۲۷، ص: ۳۵)

”یہ بزرگ حاجیوں کو ستو بھگو کر پلایا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر لوگوں نے اعکاف کیا اور اس کی پرستش کی۔“

حافظ ابن کثیر نے یہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ (ابن کثیر: ۳/۵۳۳) علامہ بدر الاسلام یعنی نے شرح صحیح بخاری (۹/۱۷۸) میں، تفسیر مظہری (۹/۱۱۶) اور صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر ابن جریر سے نقل فرمایا ہے:

”إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفِ يَلْتَمِسُ السُّوَيْقَ بِالزَّيْتِ، فَلَمَّا تَوَفَّى، جَعَلُوا قَبْرَهُ وَثَنًا“ (روح المعانی، ص: ۵۵ الأضواء کلیں)

”اور جب یہ پیر ستو شاہ فوت ہو گئے تو عمرو بن یحییٰ نے کہا کہ یہ ولی پتھر میں سما گئے ہیں، مرے نہیں۔ لوگوں نے پتھر کی عبادت شروع کر دی اور اس پر ایک مکان بنا دیا۔“

ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بت پرست تھوڑا بہت قبر پرستی کا شوق فرمایا کرتے تھے۔ اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع تار فرما دیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی۔ وہ اپنے اعمال یا اپنی بے بضاعتی کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

[البقرة: ۱۸۶]

”جب میرے بندے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو: میں قریب ہوں، جب کوئی مجھے بلائے میں سنتا ہوں۔“

﴿أَدْعُونِي أَجْتَبْ لَكُمْ﴾ [المؤمن: ۵۰] ”مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔“

مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناوٹی وسیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بت پرست اور قبر پرست جلتا ہو چکے تھے۔

پختہ قبر:

آج کی طرح قدیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکامداری کو بھی دخل تھا۔ نیک اور صالح حضرات کی جگہ استخوانِ فروشوں نے لے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خانقاہ نے اچھی خاصی دکان کی صورت اختیار کر لی اور بیوپاریوں نے از بس فائدہ بخش بزنس شروع کر لیا۔

شارع حکیم نے پختہ قبروں کو ممنوع قرار دے دیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تعمیر ہو چکی ہو تو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔

● صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا:

«أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»^۱

”تمام بت منادو اور تمام اونچی قبریں برابر کر دو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم رکھا اور ابوالبہانج اسدی کو اس پر مقرر فرمایا۔

قبر کے متعلق اس بے اعتمادی کا یہ اثر ہے کہ بعض مقامات پر بدکردار عورتوں تک کی قبریں معبد بنی ہوئی ہیں، ان پر چراغ جلائے جاتے ہیں۔ مجاور وہیں سے روٹی کما لیتے ہیں۔ أعاذنا اللہ من ذلك.

● امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وأحب أن لا يبنى ولا يعصص، فإن ذلك للزينة والخيلاء،

وليس الموت موضع واحد منهما، ولم أر قبور المهاجرين

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۶۹)

والانصار مجصصة (قال الراوي) عن طاؤس أن رسول الله ﷺ نهى أن تبنى القبور أو تجصص. (قال الشافعي) وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما تبنى فيها؛ فلم أر الفقهاء يعيرون (الأم للشافعي: ١/٣٤٦)

”مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بنا کی جائے، نہ چوٹا لگایا جائے۔ عمارت، زینت، یہ تکبر کا نشان ہے اور موت کے لیے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں۔ انصار اور مہاجرین کی قبروں کو میں نے ہتھی نہیں دیکھا۔ طاؤس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے قبر پر بنا اور تھکھیں سے منع کیا۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امراء کو دیکھا وہ قبروں پر بنا کو گراتے تھے اور اہل علم اسے معیوب نہیں سمجھتے تھے۔“

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبني عليها“¹

”میں قبر کو گچ کرنا ناپسند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی۔“
چند آثار مزید اس معنی میں ذکر فرمائے:

”قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها؟“²

”سحنون فرماتے ہیں: ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اس کے برابر ہونی چاہیے، جو اس پر عمارت بنانا چاہے اس کا کیا حال ہوگا؟“
علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

1 المدونة الكبرى (ص: ١٨٩)

2 مصدر سابق

”وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَمْ أَرِ مِنْ اخْتَارِ جَوَازِهِ“ (الشامی: ۱/ ۹۳۷)
 ”میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہو۔“

اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں:

”وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَكْرَهُ أَنْ يَبْنَى عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَّةٍ وَنَحْوِ

ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضی اللہ عنہ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم“ (الشامی: ۱/ ۹۳۷)

”امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے، جیسے صحیح مسلم میں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔“

علامہ کاسانی ”البدائع والسنائع“ میں فرماتے ہیں:

”وَكْرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ الْبِنَاءَ عَلَى الْقُبُورِ، وَأَنْ يَعْلَمَ بِعَلَامَةٍ، وَكَرَهُ أَبُو

يُوسُفُ الْكِتَابَةَ“ (۱/ ۳۲۰)

”امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی بنا کو منع فرمایا اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتابت کو۔“

مسنون زیارت:

جانبی زیارت اور اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ ملاحظہ فرمائیے،

اب مسنون زیارت اور اس کے مقاصد پر غور فرمائیے:

عَنْ ابْنِ مَعْبُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتَذَكُرُ

الْآخِرَةَ» (ابن ماجہ، مسلم، أبو داود، ابن حبان، حاکم، ترمذی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب

ان کی زیارت کرو، اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔“

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۷۸) اس میں مذکورہ بالا حدیث کا پہلا جملہ ”کنت نہیتکم عن

زیارة القبور فزوروها“ مروی ہے۔ بقیہ الفاظ دوسری کتب احادیث سے ماخوذ ہیں، لیکن اس کی

سند ضعیف ہے۔ دیکھیں: ضعیف الترغیب والترہیب (۲/ ۲۶۵)

علامہ کاسانی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
 ”لأن ذلك من باب الزينة، ولا حاجة بالميت إليها، ولأنه
 تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها“ (البدائع والسنائع: ۱/۳۲۰)
 ”قبر پر عمارت اور چوڑے وغیرہ لگانا زینت ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں،
 اس سے بے فائدہ مال برباد ہوتا ہے، اس لیے یہ مکروہ ہے۔“

شامی کی عبارت میں یہ صراحتاً موجود ہے۔ اس لیے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا
 جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو، باتفاق ائمہ ناجائز ہے۔ قبرستان ویران ہونا
 چاہیے۔ جن قبور پر عمارت بنائی گئی ہیں، فقہاء کے نزدیک ان سے زیارت کا مقصد
 حاصل نہیں ہوتا۔ مسنون زیارت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے زہد نمایاں ہو اور
 آخرت یاد آئے۔ علماء اور اہل اللہ کی قبروں پر جو تہ اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت
 کی رُو سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ باتفاق ائمہ نادرست ہے۔

مسنون دعا:

جب قبر کی زیارت کرے تو قبر پر سلام کہے اور جنازے کی طرح میت کے لیے
 دعا کرے:

”السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وانا
 ان شاء الله للاحقون“^①

اس کے سوا اور ادعیہ کے جملے آنحضرت ﷺ سے مروی ہیں، جو اہل سنت سے نکلے نہیں۔

قبر پرستی کب شروع ہوئی؟

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود اور نصاریٰ میں تھا۔
 مشرکین میں بھی شرک کی یہ قسم موجود تھی لیکن کم، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۷۵)

”آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی:

«لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو النعل بالنعل» (الحديث)

تم پہلے لوگوں کے قدم بہ قدم چلو گے، جس طرح جوتے کے تلے ہاتھ برابر ہوتے ہیں۔“

کے مطابق قبر پرستی کا رجحان تیسری صدی میں شروع ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور مہاجرین کی قبروں کو دیکھا، ان پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ۲۰۴ھ میں ہوا۔ اس وقت جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے مشاہد سادہ تھے، اہل علم کی کثرت تھی اور اس جہالت کا رواج ممکن ہی نہ تھا۔

اسلام کی فتوحات جب دور تک پہنچیں۔ فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تعلیمات نے مختلف علاقوں کو متاثر کیا۔ مختلف اقوام کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تصوف، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل اس کے قانون اسباب کی پابندی کا نام تھا۔ مسلمان پوری کوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے، وہاں نہ خانقاہی نظام تھا اور نہ عقیدت مندی کا غلو۔

یہود، نصاریٰ، مصری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو خانقاہی نظام کی صورت پیدا ہو گئی۔ کم کھانا، دم کشی، چلے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک معیار؛ اس نئے تصوف کے اجزائے ترکیبی قرار پائے۔ شیخ کا تصور، وظائف کے مخصوص شرائط، بھوکے رہنا، لیس کشی، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض کو ضائع کر دینا؛ یہ سب اسی خانقاہی تصوف کے کرشمے تھے، جو یہودی فقراء اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کیے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انھیں اسلام کا ہرنگ بنا دیا گیا۔ ان مشقوں میں کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نفسیاتی اثرات بھی، جس نے ایک فن کی شکل اختیار کی۔ قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی خانقاہی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔

شیخ اور پیر کے ساتھ بے پناہ عقیدت نے شیخ کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا، اس پر

تقدید ناجائز قرار دی گئی۔

بہ سے سجادہ رتھیں سکن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا^۱

خانقاہی نظام میں یہ خوبی تھی کہ اس میں اطاعت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔

حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدار ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ غلوتھا کہ شیخ اور پیر کے کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لب کشائی کی اجازت نہ تھی۔

بس! سنو، دیکھو اور اطاعت کرو۔

یہ عیب آج بھی خانقاہی نظام کا لازمی جزو ہے۔ قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف

آپ کتنے ہی دلائل دیں، کتاب و سنت سے شواہد و براہین لائیں، مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے مشائخ اور اصحاب سلسلہ کے اقوال و اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں۔

وقت کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرض بتدریج آیا ہے، لیکن چھٹی ساتویں صدی

ہجری میں یہ بیماری زوروں پر تھی۔ نام نہاد صوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکانیں سجائے ہوئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ رفاعی فریق کے ایک فقیر سے ہوا، جس نے

حکومت اور اس کے عمال کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس نے شیخ الاسلام سے کہا کہ آپ بھی آگ

میں کود جائیں، میں بھی کودتا ہوں، جس کو آگ نہ جلانے، وہ سچا ہوگا۔ شیخ نے فرمایا کہ آگ

میں کودنے سے پہلے میں اور تم دونوں نمک اور سرکہ سے غسل کریں گے، اس شرط پر وہ فقیر

صاحب رہ گئے اور شیخ الاسلام کامیاب رہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا حکالہ اپنے رسالے

”الصوفیة والفقراء“ میں لکھا ہے۔^۲

۱ اگر پیر جائے نماز کو شراب سے رتھنے کا کہے تو اس کی تعمیل کرو۔ کیونکہ سالک منزل کی راہ سے ناواقف نہیں ہوتا۔

۲ مجموع الفتاویٰ (۱۱/ ۲۵۲)

چراغ جلانا:

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دوائی سے ہے، اسی طرح چراغ جلانا بھی ممنوع اور شرک کے دوائی سے ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

«لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»¹

اس سے ظاہر ہے کہ عرب قبروں پر چراغ جلاتے تھے، اس سے آنحضرت ﷺ کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسے ناپسند فرمایا، اور جس فعل پر حضور ﷺ لعنت فرمائیں، اس کی دینی مضرت اور آخری خسراں کی بھلا کوئی انتہا ہے؟

قبر پر پھول چڑھانا:

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی ذاتی کیفیت عجیب ہے۔ جو چیز یورپ سے آئے اسے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، اور اسلام کے مسائل سامنے آجائیں تو ازسرتاپا بحث بن جاتے ہیں۔

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی تقلید بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ، قبروں پر پھول چڑھ رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے چراغ کی روشنی سے میت کو روشنی نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن چونکہ یہ رسم یورپ سے آئی ہے، اس لیے بابو لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر ہو کر دانشمندی سے ان پر غور کیا جائے۔ اب بڑھتے بڑھتے یہ رسم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور وزراء کے دوروں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانا خیر سگالی کا ایک جزو قرار دیا گیا۔ اب یہ رسم ان حلقوں میں

¹ سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۳۲۳۶) اس کی سند میں 'ابوصالح' راوی ضعیف ہے، جس کا بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر یہ لعنت صحیح حدیث میں موجود ہے۔

خالص دنیا داری بن چکی ہے، لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے۔ عوام جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کربلا، نجف اور بغداد وغیرہ شہروں میں مزارات پر قبے دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے یقیناً شرعی احکام کے ماتحت بنے ہوں گے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ انہی مزارات کو دیکھ کر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ صاحب مستدرک نے فرمایا:

”هذه الأمانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف“ (مستدرک حاکم: ۱/۳۷۰)

”قبر پر لکھنے کے خلاف تمام اسانید صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک ائمہ کی قبروں پر لکھا گیا ہے اور یہ خلف نے سلف سے لیا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے، بلکہ بعد کے لوگوں نے ایسا کیا، جن کا قول و فعل حجت نہیں۔ حدیث کا تاریخ ہونا تو بڑی بات ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ مستدرک میں فرماتے ہیں:

”قلت: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي“ (۱/۳۷۰)

”امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کام کی بات نہیں فرمائی۔ یہ فعل کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا۔ یہ بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی ایجاد ہے، جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی کا علم نہیں ہوا۔“

روضۂ نبویہ۔ علی صاحبہا ألف صلاة وتحية

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جسم اطہر کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرے میں ایک دیوار بنا کر قبور کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کرائی، اس وقت قبریں اپنی حالت پر کچی تھیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں غربی دیوار گر گئی۔ خلیفہ نے ابن حزام کو حکم دیا، حجرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنا دی گئی۔ اس وقت حجرہ شریف مرلح تھا، خلیفہ عبدالملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کیا جائے۔ مدینہ منورہ کے علماء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبور مسجد میں نہ آئیں، بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے شمال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر حجرہ کی مرلح عمارت کو خمس کر دیا، قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ زاویہ شمال کی طرف ہونے سے قبر شریف کو سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ ابن قیم رضی اللہ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان¹

”آنحضرت ﷺ کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ حجرہ مقدسہ میں تین دیواریں بنا دی گئیں اور اس کے اطراف اہل شرک کے سجدوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صرف کو نہ ہے، جسے سجدہ کرنا ممکن نہیں۔“

اس کے بعد حجرہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی۔ آنحضرت ﷺ کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبے کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبداللہ سمودی نے ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى“ میں اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔²

حجرہ مسجد میں شامل ہونے کے بعد حجرہ پر اینٹوں کی جالی لگا دی گئی۔ حجرہ کی چھت مسجد کی چھت سے مل گئی، اس کے بعد منصور بن قداون صالحی (۶۷۸ھ) نے جالی کی جگہ

1 القصيدة النونية (ص: ۲۵۲)

2 دیکھیں: وفاء الوفاء للسمودي (۲/ ۶۵۸)

لکڑی لگا دی۔ لکڑی کا جنگہ نیچے سے مرلج تھا، اوپر سے مٹھن (آٹھ کونہ) کروا گیا۔ اسے ”قبر زرقاء“ کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبدالقوی کے مشورے سے کیا گیا، مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا، چنانچہ جب کمال الدین کو معزوں نے کیا گیا تو عوام نے اسے قبر سازی کی پاداش سمجھا۔

جب یہ خستہ ہو گیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلاوون نے اس کی مرمت کی، پھر ۷۶۵ھ میں ملک اشرف بن حسین شعبان نے کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے۔^①

یہ تعمیرات ملکی اور تعمیری مصالح کی بنا پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضور ﷺ کے کسی ارشاد یا وصیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد خضراء کی عمارت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبوں کے لیے دلیل بنا کر پیش کرنا عقل و نقل؛ کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قبر مبارک کے یہ تعمیرات کوئی شرعی سند نہیں ہیں۔

محققین علمائے احناف نے قبروں کے ساتھ اس معاملے کو صراحتاً ناجائز فرمایا ہے، چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”قہور اولیاء بلند کردن و گنبد بر آں ساختن و عرس و استمال آں و چراغان کردن ہمہ بدعت است، بعضے ازاں مکروہ، بعضے بر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر شمع افزودن نزد قبر و سجدہ کنندگان را لعنت گفت و فرمود قبر مرا عید و مسجد نہ کنید، و درون مسجد سجدہ بکنید و روز عید برائے مجمع در سال مقرر کرده شدہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ را فرستاد کہ قہور مشرفہ را برابر کنید، ہر جا کہ تصویر چینیہ جو کند“

(ارشاد الطالین، ص: ۲۰)

”اولیاء کی قبروں کو اونچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلانا بدعت ہے۔ ان میں بعض بدعات مکروہ (تحریمی) ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے قبر پر چراغ جلانے والے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا: نہ میری قبر پر میلہ لگے نہ اس پر مسجد بنائی جائے، نہ ایسی مساجد میں نماز ادا کی جائے، نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماع کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اونچی قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویر دیکھیں، اسے مٹادیں۔“

زیارت کے آداب:

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ قبر پر جائے تو دعائے مسنون پڑھے۔ الفاظ آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں۔ اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، ان میں صاحب قبر کے لیے دعا کی گئی ہے، صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا عبادت ہے۔ جب یہ دعا کسی دوسرے سے کی جائے تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«الدعاء مُنَح العبادۃ»^① ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

ایک حدیث میں آیا ہے:

«الدعاء هو العبادۃ»^② ”دعا ہی عبادت ہے۔“

اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے، اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی ولی شریک ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی۔ جس نے کسی نبی سے یا ولی سے دعا کی، اس نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۳۷۱) اس کی سند میں ابن ابی عمیر راوی ضعیف ہے۔

② سنن أبی داؤد، رقم الحدیث (۱۴۷۹) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۹۶۹) وقال الترمذی:

”هذا حدیث حسن صحیح“

نہہرایا۔ اس لیے قبر کی زیارت کے وقت صاحبِ قبر کے لیے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی۔ ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر اس نے خود صاحبِ قبر سے دعا کی، اس سے کچھ طلب کیا تو یہ شرک ہوگا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔

بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قبر کو مقامِ تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا جلد قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اثر مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو قبولیت کا مقام سمجھتے تھے، یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچتی^①۔

زیارت کا ایک بھی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبور کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، جس طرح جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اصحابِ قبور نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، ان سے کچھ مانگنا عہث بھی ہے اور گناہ بھی۔

غلط بیابیاں:

❁ قبر پرستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:

”إذا تحیرتم فی الأمور فاستعینوا بأهل القبور“

”جب تمہیں کسی کام میں حیرانی ہو تو اللہ کی قبور سے مدد مانگو۔“

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں۔ محدثین نے

صراحتاً فرمایا ہے یہ جھوٹی بات ہے:

”هو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء.“ (اتضاء الصراط: ۵۸۵)

”اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں:

”اس حدیث قول مجاوران است برائے اخذ نذر و نیاز بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

① تفصیل کے دیکھیں: توحید خالص از علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ (ص: ۶۵۸)

وسلم افترا کردند“ (بلاغ العین، ص: ۵۳)

”یہ حدیث نذرو نیاز جمع کرنے کے لیے مجاہدوں نے آنحضرت ﷺ پر افترا کی ہے“

احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ محدثین اور محققین صوفیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اعتقاد کے مسائل میں بناوٹی روایات سے استدلال کرنا لاعلمی کی دلیل ہے۔

❶ اسی طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے:

« فَأَغِيثُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ » (اللہ کے بندو! میری مدد کرو!)

یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے۔ ابو یعلیٰ وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں:

« إِذَا انْفَلَت دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَانَةَ فَلْيَنَادِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا

عَلِيَّ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا يَحْبِسُهُ »

”جب تمہارے جانور جنگل میں گم ہو جائیں تو آواز دو کہ اللہ کے بندو! اسے

روک لیتا۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہوگا جو انہیں روک لے گا۔“

اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں۔

❷ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے:

”أصابني ضيق فدعوت عند قبر أبي حنيفة فأجبت“ (انتضا، ص: ۵۹۶)

یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر افترا ہے:

اولاً: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد آئے تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر چنداں مشہور ہی نہ تھی۔

❶ المعجم الكبير (۲/ ۱۰۹) اس کی سند بعض رواۃ کے ضعف اور انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دیکھیں: السلسلة الضعيفة (۶۵۶)

❷ مسند أبي يعلى (۹/ ۱۷۷) المعجم الكبير (۱۰/ ۲۱۷) حافظ بیہمی فرماتے ہیں: ”وفيه معروف بن

حسان وهو ضعيف“ نیز دیکھیں: السلسلة الضعيفة (۶۵۵)

❸ دیکھیں: توحيد خالص (ص: ۶۵۸)

دوم: شافعی رحمہ اللہ حجاز سے آئے تھے، وہاں ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں، جو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بدرجہا افضل تھے۔ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود تھیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے سکتہ سستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا؟!

سوم: یہ نسخہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام زفر وغیرہم رحمہم کو کیوں نہ ملا؟ ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر کیوں دعائیں نہ کیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا اور قریب ترین تلامذہ شب و روز کے خادم اس سے محروم رہے!!

اصحاب بدر کا عرس:

عام قبر پرست حضرات اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ روایت نہ صحاح میں ملی ہے، نہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرات اصحاب القبور نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے۔

بدر کی جنگ میں قریباً ستر آدمی صنادید قریش سے تلوار کے گھاٹ اترے، جنہیں امیہ کے سوا ہر ایک کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ چودہ کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم اس معرکہ میں کام آئے، لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا؟ اس کی حقیقت صحیح طور پر معلوم نہیں۔

اگر آنحضرت ﷺ سال کے سال پابندی کے ساتھ شہدائے بدر کی قبور پر تشریف لے جاتے تو احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی، اور سب سے بڑی بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور حرز جان بناتے تھے۔ بدر یوں بھی مدینہ سے کافی دور ہے، ایسے سفر نہ حضور کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں۔

شہدائے اُحد:

شہدائے اُحد کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ اُحد تشریف لے گئے اور یہ درست بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اُحد مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اس کی راہ جنت البقیع کی طرح ہوگی۔ یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی، بلکہ صرف ۸ ہجری میں آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:

”عن عقبہ بن عامر قال: صلی رسول اللہ ﷺ علی قتلی اُحد بعد ثمان سنین كالمودع للأحیاء والأموات“^① (۵۷۸/۲)

”عقبہ بن عامر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے شہدائے اُحد پر ۸ ہجری میں نماز پڑھی۔ ایسا سماں تھا جیسے حضرت زندوں اور مردوں کو وداع فرما رہے ہوں۔“

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المغازی میں دو دفعہ الفاظ میں بھی معمولی سا اختلاف ہے، اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:

① حضور ﷺ یہ زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہ واقعہ صرف ۸ ہجری میں ہوا۔

② اس کی حیثیت وداعی حادثے کی سی تھی، یعنی اس کے بعد آنحضرت ﷺ زیارت شہدائے اُحد کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔

③ آنحضرت ﷺ نے وہاں خطبہ دیا، ایسے خطبے حضور غیر معقداً مسور پر ہی دیا کرتے تھے۔ یہاں صلوة کے معنی صرف دعا سمجھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ پانچ سال کے طویل عرصے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا احناف ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اس عرصے میں میت کا تقسّم یعنی ہے۔ شہید معرکہ پر شوافع نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قرین قیاس بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ۸ ہجری میں وداعی دعا فرمائی۔

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۲۷۹، ۳۴۰۱، ۳۸۵۷، ۶۰۶۲، ۶۲۱۸) صحیح مسلم، رقم

قبوری حضرات نے ممکن ہے اسی واقعہ کو عرس سمجھ لیا ہو، مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گنجائش نہیں، اور خیال ہے کہ اسی واقعہ کو بدر پر چسپاں کر دیا ہو۔ ہمارے قبوری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے ع

چہ وہ گز بہ بالا چہ وہ گز بہ زیر^۱

خواب اور کہانیاں:

قبوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قصوں اور خوابوں پر کیا جاتا ہے۔ یہی تاریخکوت ہے، جس پر ان حضرات کو ہمیشہ اعتماد رہا۔ معلوم رہے نہ خواب شرعی حجت ہے نہ قصے اور کہانیاں۔

ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ احادیث کے ذخیرے میں سند کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے، پھر احادیث میں عقائد کے لیے متواتر اور یقینی ذخائر سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی ضعاف، شواذ اور منکرات پر توجہ نہیں دیتے، اور ان حضرات کا یہ حال ہے کہ عقائد کے معاملے میں جموٹے قصوں اور محرف خوابوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے صراحت فرمائی ہے کہ امت کے خواب شرعاً حجت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے۔

پھر اس قسم کے قصے اور کہانیاں اور خواب میہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ بکثرت موجود ہے۔ اگر استدلال کی یہ راہ کھول دی گئی تو بت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چنداں مشکل نہ ہوگا۔ قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خوابوں پر ہے۔

دانیال کی نعش:

امام بیہقی نے ”سنن کبریٰ“ میں اور شیخ الاسلام نے ”اقتضاء الصراط“ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب تتر فتح ہوا تو ہرمز کے خزانے میں ایک

① کیا دس گز اوپر، کیا دس گز نیچے!

نعرش تھی، جسے قحط کے ایام میں باہر نکالا جاتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انھیں دفن کر کے سب قبریں برابر کر دیں، تاکہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور پرستش شروع ہو جائے۔^۱

جہاں تک المرحوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، وہ زمروں پر بھی ہوتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیال پر بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت ﷺ پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اس کی رحمت سے مستفیض ہوتے ہیں، بلکہ ہم جیسے گناہگار بھی اسی کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لیے استدلال کا تعلق ہے، دانیال سے نہ اس وقت کس نے استغاثہ کیا نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قبر کو اس قدر مخفی فرما دیا کہ نہ اس وقت کوئی اسے معلوم کر سکا نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے۔ اسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قبر کے ساتھ استغاثت و استغاثہ کے تعلق کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مشرکانہ افعال کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کھلے طور پر کہہ دیتے تھے۔

ایک آیت سے استدلال کی حقیقت:

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا

مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا بَدَأَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ [المستحقة: ۱۷۳]

”اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دوستی کرو جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا،

وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں، جس طرح قبروں والے کافر

(موت کے بعد) اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں۔“

① انتضاء الصراط المستقیم (ص: ۲۹۹)

آیت کا مطلب صاف ہے۔ ”من“ بیانہ ہے۔ ”أصحاب القبور“ یہ ”الکفار“ کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو ایمان کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں، جن سے امید ہو سکتی ہے۔ موت کے بعد الہی کفر کے لیے کوئی امید گاہ نہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلا کر کفار سے وابستہ رہیں، انھیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جانا چاہیے۔ اس میں قبر پرستی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تمام مفسرین نے آیت کا مفہوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن عزیز تو ان امراض کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ شرک کی کیوں اجازت دے گا؟

آیت ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ۱۶۲ کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿أَنْدَادًا﴾ کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں، ان میں چوتھی قسم میں قبر پرست حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں:

”چہارم: پیر پرستان کو بھیجہ چوں مرد بزرگے کہ بہ سبب کمال ریاضت و مجاہدہ مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت عند اللہ شدہ بود ازیں جہاں می گزرد و روح اُور اُور قوت عظیم و وسعت بس لثیم می رسد ہر کہ صلوة اور امر زخ سازد یا در مکان نشست و برخواست او وجود و تدلل تام نماید روح او بہ سبب وسعت و اطلاق بر آں مطلع شود و در دنیا و آخرت در حق او شفاعت نماید“ (تفسیر عزیزی: ۱/۱۵۱)

”پیر پرست کہتے ہیں کہ بزرگ آدمی کثرت ریاضت اور مجاہدہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حد قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے، یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر بحر و انقیاد سے سجدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعت علم کی بنا پر اطلاع ہو جاتی ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے۔“

اس قسم کی استمداد اور اعانت کو شاہ صاحب "نِذ" سمجھتے ہیں اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔

اللہ اور مخلوق کے درمیان اس قسم کے وسائل اور سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مرادف ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں:

"ومن ظن أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذن أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وإنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، ويتوسلون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم، ويرجونهم؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه" (الهدى: ۱۷۴/۲)

"جو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے، یا اس کے پاس کوئی بلا اجازت شفاعت کر سکتا ہے، یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اولیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق میں واسطہ بنتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کا یہ خیال ہو اس نے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی۔"

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی:

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مسلکاً حنفی ہیں، مشرباً صوفی ہیں۔ حدیث پر ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام طبقتوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے انھیں گہری عقیدت ہے۔ علم و فضل، زہد و تقویٰ، انابت الی اللہ کے لحاظ سے ان کا مقام اپنے اقران میں بہت اونچا ہے۔ رحمہ اللہ و رضی عنہ و رفع درجہ۔

ارشادِ طالبین میں فرماتے ہیں:

”اگر کوئی کہے کہ خدا اور رسول ﷺ اس عمل پر گواہ ہیں۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ اولیاءِ معدوم کو موجود نہیں کر سکتے، موجود کو معدوم نہیں کر سکتے۔ ان کی طرف ایجاد یا اعدام، رزق دینے والا، اولاد دینے، مصیبت اور بیماری دور کرنے کی نسبت کرنا کفر ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ”اے محمد ﷺ! کہہ دو، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے۔“ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ اس کے سوا کسی سے مدد طلب کرے۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اے اللہ! ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿إِيَّاكَ﴾ میں دھر ہے۔ اولیاءِ اللہ کے لیے کوئی نذر درست نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے۔ اگر کوئی نذر ایسی مانے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت سے جہاں تک ممکن ہو، بچنا چاہیے۔ اور قبروں کا طواف درست نہیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور یہ بیت اللہ کا حق ہے۔ زندہ اور مردہ دلیوں اور نیبوں سے دعا کرنا درست نہیں۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: دعائی عبادت ہے۔ پھر ارشادِ خداوندی ہے: ”مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔“ اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں: ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخاً اللہ“ یا ”خولجہ شمس الدین پانی پتی شیخاً اللہ!“ یہ کہنا جائز نہیں، شرک اور کفر ہے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَ أَعْمَالِكُمْ﴾ [الأعراف: ۱۹۶]

”جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔“

”یہ آیت صرف بت پرستوں کے لیے نہیں، کیونکہ ﴿مِن ذُنُوبِ اللّٰهِ﴾ میں

عموم ہے، احکام میں الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر

لگائی جائے گی، اسی طرح ذکر اور وظیفہ کے طور پر یا محمد، یا محمد کہنا ناجائز ہے۔“

(ارشاد الطالبین، ص: ۱۹)

نوٹ: ارشاد الطالبین فارسی میں ہے، اختصار کے لیے اردو میں ترجمہ کر دیا اور تلخیص بھی۔

قرآن مجید سے شرک اور دعوت لغیر اللہ کے لیے استدلال عجیب ہے، لیکن جب

قوموں کے ذہن بگڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ عجائبات کا ظہور ان سے ممکن ہوتا ہے۔

یہی حال ہمارے قبوری حضرات کا ہے، وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لیے دلائل

سماش کرتے ہیں!!

کتاب و سنت کا کام تو کفر و شرک اور بدعات کو مٹانا ہے نہ کہ ان کو قائم کرنا۔

رسول اللہ ﷺ کی پوری زندگی شرک کے خلاف اعلانِ جہاد تھی۔ حضور ﷺ کی محبت اور

اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قبروں کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے،

اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، ان سے باز رہیں۔

جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسولی ﷺ کی اطاعت کے سبب اولیاء اللہ

بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی

محبت کے متافی ہے۔ جس دینی فعل و عمل پر کتاب و سنت کی چھاپ نہ لگی ہو، وہ مستہر نہیں،

اور اس قسم کے تمام افعال عشق و محبت کے تمام زبانی وعدوں کے باوجود آخرت کے خسران

اور رسوائی کا باعث ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

10

مسلكِ اہلحدیث کے بارے میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات

مسلكِ اہلحدیث کے بارے میں جناب عبدالمتقی صاحب بی۔ اے۔ ایل۔
ایل۔ بی نے چند اہم استفسارات شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب
سنٹری ایمر مرکزی جمعیت اہلحدیث کی خدمت میں ارسال کیے تھے۔ آپ
نے ان کے نہایت تسلی بخش جوابات دیے ہیں، جنہیں ہم افادۃ قارئین کی
خاطر شائع کر رہے ہیں۔

ادوارہ

ہفت روزہ "الاقتصاد" لاہور

(۳ جون ۱۹۶۶ء)

سوالات

- ① مسلک اہلحدیث کی (بحیثیت فقہی مذہب) تعریف کیا ہے؟ مختصر اور جامع الفاظ میں تحریر فرمائیے۔
- ② مسلک اہلحدیث کی ”اصول فقہ“ کی کتاب کونسی ہے؟ کتاب کا نام اور مصنف کا نام تحریر فرمائیے۔
- ③ اہل حدیث کے اصول فقہ کونسے ہیں؟
- ④ مذہب اہلحدیث کے مجتہدین کون سے ہیں، جن کی فقہ اہلحدیث میں جامع تصانیف موجود ہوں؟
- ⑤ مذہب اہلحدیث میں مجتہدین کے کتنے اقسام ہیں اور ہر قسم کے لیے کون سے اوصاف ضروری و لازمی ہیں؟
- ⑥ مذہب اہلحدیث میں مفتی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا مجتہد ہونا ضروری ہے؟
- ⑦ ہندو پاکستان میں ایسے کتنے علماء موجود ہیں، جن کو مسلک اہلحدیث کا مجتہد مانا جاتا ہو؟ نام اور پتا تحریر فرمائیں۔
- ⑧ کیا مسلک اہلحدیث کی فقہ مدون اور مرتب صورت میں موجود ہے؟ اگر ہے تو اس فقہ کی تدوین کن حضرات نے کی اور کب ہوئی؟ فقہ اہل حدیث کی کوئی جامع کتاب موجود ہو تو اس کا نام اور مصنف کا نام تحریر فرمائیں۔
- ⑨ کیا ایسی مرتب اور مدون فقہ اہلحدیث پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا عامی کے لیے حنفی شافعی بنے رہنے کے تو مترادف نہیں ہے؟ ایسے مقلد اور حنفی شافعی میں کیا فرق ہے؟

⑩ مسلک اہلحدیث کی فقہ اگر مرتب و مدون نہیں ہے تو علمائے اہلحدیث اجتہادی مسائل میں، جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے، کیسے فتویٰ دیتے ہیں؟ یا کسی امام فقہ کے قول و اجتہاد پر فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر دوسری صورت ہے تو کیا یہ اس امام فقہ کی تقلید کردانی نہیں ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو کیا ایسا کرنے سے امت میں ود نظم اور یکجہتی قائم رہ سکتی ہے جو ایک مسلک معین کی اتباع میں نصیب ہوتی ہے؟ کیونکہ مختلف علمائے اہلحدیث کا ذاتی اجتہاد باہم دگر مختلف ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا کرنے سے اختلاف اور تفرقہ بڑھ تو نہیں جائے گا؟

⑪ ایک اہلحدیث عالم دین کے ذاتی اجتہاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کی مدون اور مرتب فقہ میں سے کوئی چیز عمل کرنے کے لیے افضل ہے؟ اگر عامی اجتہادی مسائل میں ان ائمہ میں سے کسی ایک امام فقہ کی اتباع کرتا ہے تو کیا ایسا آدمی عامل بالحدیث نہیں ہے؟ خصوصاً جبکہ وہ اپنے امام کے خلاف قرآن و حدیث مسائل کو چھوڑ دینے کے لیے بھی تیار ہو؟

نوٹ: کتاب معیار الحق مصنفہ سید نذیر حسین محدث دہلوی میں مندرجہ تقلید کے چار اقسام نظر میں رکھیں۔

⑫ کیا علمائے اہلحدیث ہر فقہی مسئلے کے لیے قرآن مجید یا حدیث شریف سے نص صریح پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ابن حزم ظاہری کا معمول بتایا جاتا ہے؟ نیز اہل حدیث اور ظاہریوں کے مسلک میں کیا فرق ہے؟

⑬ اگر مذکورہ بالا سوال کا جواب اثبات میں ہے تو براہ کرم ہر فقہی مسئلے کے لیے صریح آیات و احادیث پیش کرنے کا اعلان فرمائیں، تاکہ مخالفین کو اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔

⑭ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر آپ کو فقہی مسائل کے بارے میں ایسا اجتہادی فتویٰ مخالفین کو پیش کرنا ہوگا، جو ائمہ اربعہ میں سے کسی سے منقول نہ ہو۔ نیز قرآن و حدیث

کے خلاف نہ ہو اور علمائے اہلحدیث کا مفتی بہ قول بھی ہو۔ اگر آپ ائمہ مجتہدین کے کسی قول کو موافق قرآن و احادیث پا کر اس پر فتویٰ دیں گے تو پھر آپ کو اس قول کا ماخذ قرآن و حدیث سے ضرور پیش کرنا ہوگا، ورنہ اس مسئلے میں اسی امام کی اندھی تقلید ہوگی۔ (مخلاف اتباع کے) جو آپ کے نزدیک خود ان ائمہ مجتہدین کے قول کہ ”دلیل کے بغیر ہمارے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے وغیرہ“ کے مطابق جائز نہیں۔

والسلام
عبدالخالق
کنڈہ کوٹ

جوابات

محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکتوب گرامی سے مسرت ہوئی کہ آپ قانون کے ساتھ شغف کے باوجود مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ سوالات سے ظاہر ہے کہ ان فقہی اختلافات میں بھی آپ کے مطالعہ کا انداز مناظرانہ ہے۔ آپ نے سوالات کی ترتیب میں قانون اور مناظرہ دونوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ نیز سوالات اس ذہن کی غمازی کرتے ہیں کہ اہلحدیث کو آپ ایک ایسا فرقہ سمجھتے ہیں جو ائمہ اجتہاد کی ضد ہے اور شاید ہر مسئلے میں ان سے الگ ہے۔

آج کل دیوبند اور بریلی سے جس طرح جمود کی دعوت دی جا رہی ہے اور متاخرین شوافع بھی قریباً اسی انداز سے دعوت دیتے ہیں اس سے تو اہلحدیث کو کلی اختلاف ہے، ہم اس جمود کو واقعی قطعاً پسند نہیں کرتے، بلکہ اس جمود کو اسلام کی دعوت عام کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک انصاف پسند طالب علم ان حضرات کی اس تعصب آمیز دعوت سے یہی نتیجہ اخذ کرے گا جو جناب نے اخذ کیا ہے۔

لیکن فی الحقیقت اہلحدیث کی دعوت عام اور جامع ہے، اس میں مذاہب اربعہ اور دیگر ائمہ اجتہاد کی فقہی مساعی بھی شامل ہیں، اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ان مقدس مساعی کا تحقیقی جائزہ لیا جائے اور انھیں کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ان اختلافات کی تطبیق اور ترجیح کے وقت ائمہ ملاف رحمہم کی روش کو سامنے رکھا جائے۔ مروجہ فقہوں سے اہلحدیث کو جزوی طور پر یقیناً اختلاف ہے، لیکن ائمہ اجتہاد کے علوم و آثار سے تحقیقی استفادہ تحریک کا اساسی مقصد ہے، یعنی فقہی

جزئیات یا اختیار علم و بصیرت کی بنا پر عمل میں آئے، اس کے باوجود ان مختلف نظریات کو گوارا کرنا اور ائمہ کے علوم کا احترام اور ان سے استفادہ اس تحریک کی روح ہے۔

اس بنیادی اور اجمالی گزارش کے بعد استفسارات کے جواب ملاحظہ فرمائیں:

① مسلک اہلحدیث ایک ایسی دعوت ہے جس کی بنیاد اصول اور فروع یعنی عقائد اور

اعمال میں ظاہر کتاب و سنت اور ائمہ سلف یعنی صحابہ کرام کی روش پر ہے، جس میں آنحضرت ﷺ کے بعد کسی شخصیت کے نام پر دعوت کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔

② اصول فقہ میں ”الرسالہ للإمام الشافعی“، ”روضۃ الناظر لابن قدامة“،

”إرشاد الفحول للشوکانی“، ”حصول المأمول لصدیق حسن“،

”الإحکام لابن حزم“، ”الإحکام للآملی“، ”التوضیح والتلویح للفتاوی“،

”کشف الأسمار“، ”شرح أصول البزدوی“، ”قواعد الأحکام لعز

بن عبد السلام“، ”القواعد لابن رجب“، ”القواعد والفوائد الأصولیة

لعلی بن عباس البعلی“ (۸۰۳ھ) ”القواعد النورانیة لابن تیمیة“،

”موافقات شاطبی“ وغیرہ قدمائے احناف کی کتابوں میں اصول کی حیثیت

سے بیان ہوئے ہیں، جیسے مسلم الثبوت وغیرہ، متاخرین حنفیہ ملا جیوں، شاشی

وغیرہ کی تصانیف محققانہ نہیں۔ کاتب حکمی حنفی نے کشف الظنون میں فرمایا:

”سب سے پہلے اصول فقہ پر معتزلہ اور اہلحدیث نے لکھا، لیکن ان کی

کتابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معتزلہ عقائد میں ہمارے

مخالف ہیں اور اہلحدیث فروع میں۔“

اصول فقہ میں اختلاف خاص نوعیت کا ہے۔ فن کے ماہر اس سے غلطی نہیں کھا سکتے۔

اس کے علاوہ بھی اہلحدیث نے اصول فقہ میں کافی ذخیرہ جمع فرمایا۔ ہر حق پسند آدمی کو اس

میں وقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کے علاوہ

عام طور پر اعتزال کا شکار ہو گئے۔ قاضی عیسیٰ بن ابان، بشر مرسی، سرحسی، کرنی، کم و بیش معتزلہ سے متاثر ہیں۔ جو لوگ اعتزال سے متاثر نہیں، ان کی روش اصول میں چنداں غلط نہیں، اس موضوع میں تفصیلاً لکھنا وقت چاہتا ہے، نیز یہ مسئلہ مدرسی ہے، اخباری نہیں۔

③ نمبر (۲) سے اس کا جواب کافی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، اس کا مقصد پہلے جواب میں آچکا ہے۔

④ مجتہدین میں کوئی بڑا وارہ نہیں۔ مذاہب اربعہ کے مجتہدین الہدیت کے بھی امام اور مجتہد ہیں۔ ائمہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن جریر طبری، ابو عبد الرحمن اوزاعی، ابو یوسف، محمد، یہ سب الہدیت کے مجتہد ہیں، البتہ حق کسی میں محصور نہیں، نہ کسی کو مقام نبوت ملا ہے نہ مقام عصمت حاصل ہے۔ غزارت علم کے باوجود غلطی ممکن بھی ہے اور واقع بھی، اس لیے کسی کے اجتہادات واجب القبول نہیں ہو سکتے اور نہ واجب الاتباع۔

⑤ مجتہدین کی تقسیم کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ ﴿وَقَوْلِي كُنْ لِي ذِي عِلْمٍ عَلِيمًا﴾ [یوسف: ۱۷۶] کے مطابق اصطلاحی الفاظ وضع کر لیے گئے ہیں۔ تقلید کی حفاظت کے لیے یہ اغلال و سلاسل بنائے گئے ہیں، تاکہ ان کے محققانہ اختلافات کو ترک تقلید کا نام نہ دیا جاسکے، ورنہ یہ سب اساتذہ اور تلامذہ دلائل کی بنا پر باہم اختلاف فرماتے تھے اور ایک دوسرے کی تقلید سے بے نیاز تھے۔ رحمة اللہ علیہم۔

⑥ مفتی کے لیے ضروری ہے وہ کم از کم آیات احکام اور احادیث احکام کو جانتا ہو، مذاہبِ علما پر اس کی نظر ہو، عربیت سے آشنا ہو، اصول فقہ، اصول حدیث پر اس کی فی الجملہ نظر اور اس کے ساتھ باعمل اور متقی ہو۔ اجتہاد ضروری نہیں۔

⑦ مجتہدین کی مردم شماری نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب اس کی ضرورت۔ علمی فیوض، تدریس و تذکیر سے خود بخود مقام متعین ہو جاتا ہے۔ مسلمہ مجتہدین کو ان کی زندگی میں ان کے اقران اتنے بڑے نہیں سمجھتے تھے جس قدر مقام اب ان کو حاصل

ہے، اہلحدیث علماء کا بھی یہی حال ہے۔ مولانا سید نذیر حسین، مولانا طمس الحق، مولانا شرف الحق ڈیالوی، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا حافظ محمد لکھوی، مولانا حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی، مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی کو شاید آنے والے لوگ امام سمجھیں اور مجتہد ماننے لگیں۔ میں اس معاملے میں قطعاً مردم شماری یا مجتہد شماری کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

آپ قانون کے طالب علم ہیں، مجتہد شماری سے پہلے اس اصطلاح کے مفہوم پر غور فرمائیں۔ مجتہد کو اصطلاحاً جن علوم کا مکلف قرار دیا گیا ہے، اس لحاظ سے تو صحابہ میں کوئی مجتہد معلوم نہیں ہوتا، بلکہ تابعین میں بھی کسی کو مجتہد کہنا مشکل ہے، حتیٰ کہ مسلمہ ائمہ اجتہاد ان مصطلح راہوں سے مقام اجتہاد پر فائز نہیں ہوئے۔ عجیب یہ ہے کہ یہ اصطلاحی پابندیاں ائمہ اجتہاد پر وہ حضرات عائد فرما رہے ہیں جو خود مجتہد نہیں! آنحضرت ﷺ نے سچ فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةَ رَبْتَهَا“^①

ارباب تقلید ائمہ اجتہاد کے لیے اجتہاد کی راہیں تجویز فرماتے ہیں، پھر کیم محرم ۴۰۱ ہجری سے اجتہاد کو کلیتاً بند فرماتے ہیں، حالانکہ علوم اجتہاد اب بھی موجود ہیں!!

”ولكن من عصر أربع مائة من الهجرة النبوية - على صاحبها أزكى الصلاة والسلام - قال العلماء الأعلام، كما ينقل عن علماء الحنفية: إن باب الاجتهاد قد انسد من ذلك التاريخ.“

(رسالہ حمینیہ، ص: ۳۲۸)

علمائے حنفیہ نے فرمایا کہ چوتھی صدی کے ختم ہوتے ہی اجتہاد کا دروازہ مقفل ہو گیا۔ ہم جب مجتہد کی تقلید ہی پسند نہیں کرتے، ہم مجتہد شماری کی سروردی کیوں کریں؟ ہمیں قرونِ خیر کا ایک غریب مسلمان تصور فرمائیے جو اپنے وقت کے علما سے

① دیکھیں: صحیح البخاری (۵۰) صحیح مسلم (۹) مسند الشامیین (۳/ ۳۴۵) یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوٹری اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔

بلا تعین شخص مسائل دریافت کرتا ہے اور اپنے فہم اور بساط کے مطابق ان پر عمل کرتا ہے، نہ وہ تقلید کو واجب سمجھے نہ مجتہد کی تلاش میں نکلے۔

⑧ مروجہ مذاہب کی فقہیں ہماری ہیں۔ ہم بلا تخصیص وقت کے تقاضوں اور اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت کی رہنمائی میں ان پر عمل کرتے ہیں، ان سے مسائل انتخاب کرتے ہیں۔ ایک فقہ کا تعین اصل مرض ہے، جس نے تقلید کی بندشوں کو مضبوط کیا اور فکر و نظر، فہم و شعور کے دروازوں کو متقفیل کیا۔ ”زاد المعاد“، ”نیل الأوطار“، ”فتح الباری“، ”بدور الأہلۃ“، ”دلیل الطالب الی أرجح المطالب“، ”فتاویٰ“ وغیرہ کافی کتابیں اس فقہی سوچ پر لکھی گئیں، لیکن تقلید نہ ہونے کی وجہ سے وہ مروجہ فقہوں کا مقام حاصل نہیں کر سکیں، نہ حاصل ہی ہونا چاہیے۔ علما کو اپنے علم کے مطابق تحقیق کرنی چاہیے، عوام کو بلا تخصیص علما کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس طرح قرون خیر میں لوگ کرتے رہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

”وبعد القرنین حدث فیہم شیء من التخریج غیر أن أهل المائة الرابعة لم یكونوا مجتمعیین علی التقلید الخالص علی مذهب واحد و التفقه له، و الحکایة لقلوله، كما یظهر من التبع، بل كان فیہم العلماء و العامة، و كان من خیر العامة أنهم كانوا فی المسائل الإجماعیة التي لا اختلاف فیها بین المسلمین، أو جمهور المجتہدین لا یقلدون إلا صاحب الشرع، و كانوا یتعلمون صفة الوضوء، و الغسل و الصلاة، و الزکاة، من آباتهم و معلمی بلدانهم یمشون حسب ذلك، و إذا وقعت لهم واقعة، استفتوا فیها أي مفت و جدوا من غیر تعیین مذهب، و كان من خیر الخاصة أنه كان من أهل الحدیث منهم

يشغلون بالحديث فيخلص إليهم من أحاديث النبي ﷺ
و آثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخر... الخ“

(حجة الله البالغة: ۱/۱۲۲)

یعنی دوسری صدی کے بعد تخریج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن چوتھی صدی تک لوگ تقلید پر جمع نہیں ہوئے تھے، نہ ایک مذہب کی تقلید اور اس پر تفقہ کا خیال اور چرچا ہوا تھا، اس وقت علما بھی تھے اور عوام بھی۔ عوام کا یہ حال تھا کہ اتفاقی مسائل اپنے بزرگوں اور اپنے شہر کے علما سے دریافت کرتے اور صرف آنحضرت ﷺ کا اتباع فرماتے، جیسے وضو، نماز، زکات کے متفقہ مسائل، اور جب کوئی خاص حادثہ ہو جاتا تو بلا تعین مذہب کسی مفتی سے دریافت فرما لیتے۔ خواص کا یہ حال تھا، وہ یعنی اہل حدیث کو حدیث میں غور و فکر کے بعد ایسی احادیث و آثار ان کو مل جاتے جس کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی انہیں ضرورت ہی نہ رہتی۔

یہ صحیح اسلام کی صورت ہے، اس کے ہوتے کسی جدید فقہ کی تدوین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ موجودہ فقہوں پر بلا تعین عمل کیا جائے۔ لوگوں کو ایک مذہب کی پابندی پر نواہ مخواہ لگ نہ کیا جائے تو مسلک اہل حدیث کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی نکتہ پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ (۷۵۱ھ) کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں:

”فإننا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد،
اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئاً،
وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئاً، ونعلم بالضرورة أن هذا
لم يكن في عصر التابعين، ولا تابعي التابعين، فليكنذبنا
المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون
الفضيلة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما
حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه ﷺ“

(إعلام الموقعين: ۱/۲۲۲)

”ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اس وقت اس طرح کا مقلد نہیں تھا، جو ایک ہی شخص کے تمام مسائل کو قبول کرے اور باقی علما کے فتوؤں کو رد کر دے، اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کا بھی یہی حال تھا۔ ایک ایسے آدمی کا پتا دے کر حضرات مقلدین ہماری تکذیب کریں جو اس ناہموار راہ پر چل رہا ہو۔ یہ بدعت چوتھی صدی کی پیداوار ہے، جس کی آنحضرت ﷺ نے مذمت فرمائی ہے۔“

ان گزارشات سے آپ پوری طرح سوچ لیں کہ مجتہدین کی تقسیم، اصول فقہ کی تقسیم کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ صرف تاریک جگہوں کا ایک حصار ہے جو تقلید شخصی کی کمزور عمارت کو بچانے کے لیے بنایا گیا، جس سے آپ جیسا قانون کا طالب بھی متاثر ہونے سے نہیں بچ سکا۔ مجھے تعجب ہے آپ کا ذہن اس سوال کی طرف منتقل کیونکر ہوا؟

⑨ اس کا جواب قریباً نمبر (۸) میں ہو چکا ہے۔ واقعی اگر ان مخصوص فقہوں کی طرح فقہ اہلحدیث کی پابندی واجب قرار دی جاتی تو یہ بھی تقلید ہی ہوتی۔

⑩ میں نے عرض کیا ہے سابقہ ساری فقہیں قابل عمل ہیں، ظروف و احوال کے لحاظ سے اہل علم ان سب پر بلا تخصیص عمل کریں گے۔ فردی اختلافات کو گوارا کرنے کی عادت ڈالیں گے، اس سے فردن خیر کی وحدت قائم ہوگی۔ یہ نزاع تقلید کی پیداوار ہے جس کی وجہ سے تنگ نظری اذہان پر محیط ہو چکی ہے۔ بیماری کا نام صحت سمجھ لیا گیا ہے، آپ اس جامد اختلاف کا نام بیکجہتی فرماتے ہیں۔ عجیب ہے؟!

جب چاروں مذاہب ”حق پر ہیں“ اور دنیا میں موجود ہیں تو بیکجہتی جناب نے کہاں سے سمجھی؟ بلکہ چار جہتی کو تو حق سمجھ کر گوارا کیا گیا ہے۔ اگر اس میں مسلک اہلحدیث کو بھی اسی طرح گوارا کر لیا جائے تو یہ مصطلح بیکجہتی پھر بھی قائم رہے گی، ذرا اس میں وسعت ہو جائے گی۔ کاش حضرات علمائے کرام اسے گوارا کریں! پہلی بیماری

- مروج تقلید ہے، دوسری بیماری گوارا نہ کرنے کی عادت۔ غرض اس وجوب اور پابندی کو آپ ختم کر دیں، ساری دقتیں دور ہو جائیں گی۔ بعض نظریاتی دقتیں عمل سے خود بہ خود دور ہو جائیں گی، بلکہ اس صدی کے سفر میں بہت کچھ درست ہو چکا ہے۔ اختلاف رائے کو گوارا فرمائیے، تفرقہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اختلاف اور تفرقہ میں الف تفسیری نہیں، بلکہ فقہی اختلاف رہنا چاہیے اور تفرقہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔
- ⑩ اجتہاد کسی عالم کا ہو، اسے کتاب و سنت پر پیش ہونا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت میں صراحت موجود نہ ہو تو عوام کو کسی کے اجتہاد کا پابند نہ کیجیے۔ جس پر حسب مصالح عمل کرے، اس پر کوئی ملامت اور ضیق نہ ہونی چاہیے، عوام بہر حال علما کی طرف رجوع کریں گے۔ انھیں عادت ڈالنی چاہیے کہ مشہور مجتہدین یا متعارف فقہوں کی بجائے شریعت یا کتاب و سنت کے نام سے مسائل دریافت کریں اور علما انھیں اپنی صوابدید کے مطابق جواب دیں۔ اگر مقلد قرآن و حدیث کے خلاف مسائل چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو یہ تقلید کی قابل برداشت اور مناسب ترین صورت ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گوارا فرمایا ہے۔ تجربے کی بنا پر یہ ضروری استخفا مخصوص فقہوں کی بجائے شریعت کی بنا پر ہونا چاہیے۔ میاں صاحب نے ”معیار“ کے اس مقام میں اصلاح فرمادی تھی۔^①
- ⑪ ابن حزم قیاس کے بالکل منکر ہیں، ائمہ حدیث قیاس کو مانتے ہیں۔ نظائر کے حکم میں مساوات کو مانتے ہیں، لیکن اگر قیاس کہیں قرآن اور سنت سے متصادم ہو جائے تو ائمہ حدیث نصوص کو مقدم سمجھتے ہیں۔ مدت رضاع احتناف کے نزدیک ڈھائی سال اور خمر کا سرکہ بنانا نصوص کے خلاف ہے۔^② اس میں نصوص مقدم ہوں گی۔
- ⑫ اس کا جواب نمبر (۱۲) میں آچکا ہے، قیاس نصوص کے تابع ہو تو قابل قبول ہے،

① تفصیل کے لیے دیکھیں: فتاویٰ نذیریہ (۱/ ۱۷۲)

② دیکھیں: البقرة: ۲۳۳ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۸۳)

اس لیے ہر پیش آمدہ مسئلے کے متعلق کسی نئے اعلان کی ضرورت نہیں۔
 ⑭ سابقہ گزارشات کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فرضی شقیں جناب کی
 قانون دانی کی مرہون ہیں۔

کوشش تو یہی ہے کہ ائمہ کرام کے جو اقوال اختیار کیے جائیں، حضرات ائمہ
 کے ارشاد کے مطابق ان کے ماخذ پر نظر ہو، اس کے باوجود قصور نظر کا اعتراف ہے۔
 فہم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ماخذ نہ ملے تو کوئی اور راہ اختیار کرنا پڑے۔

قلت فرصت کے باوجود انتہائی اختصار سے جوابی گزارشات آپ کے حسب الحکم
 ”الاعتصام“ میں بھیج رہا ہوں۔ امید ہے بعد ملاحظہ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں گے۔

یہ ملحوظ رہے کہ مناظرانہ انداز سے ان مباحث کو طول نہیں دینا چاہتا نہ اتنی
 فرصت ہی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ان مباحث میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں سمجھی
 جاسکتی اور مزید درمزید بسط اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اعلام الموقعین مترجم مل جائے تو ملاحظہ
 فرمائیں۔ اگر عربی زبان پر عبور ہو تو اعلام، ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ،
 احکام ابن حزم وغیرہ کتب ملاحظہ فرمائیں۔^①

والسلام

محمد اسماعیل گوجرانوالہ

① بہت روزہ ”الاعتصام“ (شمارہ: ۱۷، جلد: ۳۳، ۳۴، جون ۱۹۶۶)

11

اہلِ وہاب کا مذہب

اور

نماز میں آنحضرت ﷺ کا تصور

اہل وہاب کا مذہب اور نماز میں آنحضرت ﷺ کا تصور^(۱)

گوجرانوالہ، محلہ اسلام آباد کی مسجد کی بنیاد مرحوم حاجی خدا بخش صاحب نے محلے کے بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی، لیکن اس کے لطم و نسق میں زیادہ دخل بریلوی حضرات کا رہا۔ عام طور پر یہاں کی امامت و خطابت ایسے حضرات کے قبضے میں رہی جو بریلویت کے ترجمان تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ اپنے مسلک کے پابند بھی تھے اور سلیخ بھی، شہر اور محلے میں باہم مسلمانوں میں منافرت نہ تھی۔ مختلف مکاتب فکر باہم ملتے جلتے تھے۔ ایک دوسرے کی اقتدا میں نماز بھی ادا کر لیتے تھے۔ کوئی بھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ تمام مکاتب فکر کے یکجا جمعہ پڑھنے کا فیصلہ بھی اسی مسجد میں ہوا تھا۔ یہ تحریک مرحوم ابو عطاء محمد صاحب کی مساعی اور کارکنوں کی کوششوں کی مرہون منت تھی۔ صاحبزادہ فیض الحسن بھی ان مجالس میں شریک ہوئے۔ اس وقت صاحبزادہ احراری تھے، بریلویت کا پتہ نہیں لیا تھا۔ یہ اجتماعی جمعے کافی عرصہ تک جاری رہے۔

اب اس مسجد میں کچھ عرصے سے ایک بزرگ ابوداؤد، محمد صادق صاحب امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان حضرات کا خمیر کوٹلی لوہاراں کی مٹی سے اٹھایا گیا اور لاکل پور کی بریلوی مہر لگا کر انھیں گوجرانوالہ محلہ اسلام آباد میں متعین کیا گیا۔ ہمیں ان حضرات کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کے اعمال

(۱) ہفت روزہ "اعتماد" لاہور (۳ نومبر ۱۹۶۷ء)

سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بے چارے علم و اخلاق کے لحاظ سے بے حد مفلس اور مفلوک الحال ہیں، بلکہ یتیم! حسد، کبر اور مسلمانوں میں تفریق اندازی اور شقاق ان کے محاسن کا خاص حصہ ہیں۔ یہ اپنی ان عادات کی وجہ سے اپنے حلقے میں بھی بدنام ہیں۔ خود ان کے ہم خیال بھی ان کی عادت سے نالاں ہیں۔ چند آبرو باختہ لڑکے ان کے ارد گرد جمع ہیں، ان کی وجہ سے بریلوی شرفا کی آبرو بھی ان سے محفوظ نہیں۔ ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے عقیدت مند ان کے سوا کسی کی بات سنیں نہ ان تہمتوں کی تحقیق کی جائے، جو وہ اپنے حلقہ اثر میں اپنے خلاف مکاتب فکر کے متعلق تراشتے رہتے ہیں۔

اپنی اس تہمت تراشی اور زبان درازی کی وجہ سے وہ قانونی طور پر سزا بھی پانچکے ہیں۔ یہ سزا سپریم کورٹ تک بھی معاف نہ ہو سکی، غالباً کچھ تخفیف ہوئی۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں فتویٰ بازی کی پاداش میں گرفتار ہوئے، غالباً سفارشی معافی کے بعد رہا ہوئے۔ مولانا غلام اللہ صاحب پر اتہام لگایا، کیس ہوا، معافی مانگی۔

خدا کا شکر ہے کہ ان کے حلقہ اثر کے ایک بزرگ نے ایک تہمت کے متعلق تحقیق کی کوشش کی ہے۔ ان کا سوال بعینہ اور اس کا جواب ذیل میں درج کیے جاتے ہیں، امید ہے مولوی صادق صاحب انھیں معاف فرمادیں گے۔

ہماری طرف سے بریلوی حضرات کے لیے صدائے عام ہے، ان کے ہاں جو تہمتیں ہمارے متعلق تراشی جائیں، ہم سے تحقیق کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔ ہم مرزا عمر بیگ صاحب کے مکرر شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ہمیں حق کے اظہار کا موقع دیا۔ [احسان الہی ظہیر]

سوال مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب (صدر جماعت اہل حدیث مغربی پاکستان) چوک

نیا میں گوجرانوالہ

اسلام ناپاکم۔ کیا آپ یہ مطلع فرما کر ممنون احسان فرمائیں گے کہ کیا آپ (تمام اہل دہاب) کا عقیدہ ہے کہ اگر رسول مقبول ﷺ کا خیال نماز میں آجائے تو یہ خیال (نعوذ باللہ) گدھے اور بتل سے بدتر ہے، حالانکہ سورت فاتحہ میں ان نیک لوگوں کا ذکر ہے، جن کو نیک اعمال کے بدلے انعامات ملے اور برے لوگوں کو بد اعمال کے بدلے ان پر عذاب نازل ہوئے؟ اسی طرح التحیات اللہ میں رسول کریم ﷺ پر سلام پڑھا جاتا ہے، اپنے اور نیک لوگوں پر بھی، اور دعا ”رَبِّ اجْعَلْنِي“ میں اپنا، اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام مومنوں کا ذکر آتا ہے۔ درود پاک میں رسول کریم ﷺ اور ان کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر درود پڑھا جاتا ہے؟

دعا گو: مرزا عمر بیگ نظامی (۱۹/اسلام آباد، گوجرانوالہ)

جواب محترم مرزا عمر بیگ صاحب، زاد عمر کم، السلام علیکم!

آپ کا مکتوب بدست سعید صاحب ملا۔ مسرت ہوئی کہ آپ حضرات نے ان مسائل کی تحقیق کرنے کی کوشش فرمائی، جو عموماً ہمارے بریلوی علما اور ان کے حاشیہ نشین عوام سے کہتے رہتے ہیں، حالانکہ دوسرے فریق کو ان کا علم بھی نہیں ہوتا اور یہ حضرات جلسوں اور منبروں پر ان کا اعلان فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریق بہت اچھا ہے، اس سے آپ کو بھی بصیرت حاصل ہوگی اور یہ حضرات بھی منبر و مجلس کی ذمے داریوں کو محسوس کریں گے اور بلا تحقیق دوسروں کو تہمت باندھنے سے پرہیز کریں گے۔

اب جو با ترتیب وار ہماری گزارشات سنئے:

① اہل دہاب کوئی مذہب نہیں، نہ ہم لوگ اہل دہاب یا وہابی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ نجد کے ایک مشہور عالم کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا، اس نے نجد اور قرب و جوار کے علاقوں میں وعظ و نصیحت کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی۔ لوگوں کو شرک، قبر پرستی، بدعات اور غلط رسوم سے روکا۔ لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی، حتیٰ کہ

ان کے والد عبد الوہاب عالم ہونے کے باوجود ان کی مخالفت کرتے رہے۔ کئی سال کی محنت اور ہجرت کے بعد آل سعود نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا اور ان کے والد بزرگوار کو بھی محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا صحیح کہتا ہے۔

ان کو طعن کے طور پر لوگ وہابی کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ حنبلی ہیں۔ فقہ میں وہ امام احمد رضاؒ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں عام لوگ حنفی ہیں، نجد میں اکثر لوگ حنبلی کہلاتے ہیں۔ وہابی نہ کوئی مذہب ہے اور نہ فرقہ؛ محض ایک تحریک تھی، جس کا زور بے دینی کی وجہ سے اب ان علاقوں میں ٹوٹ رہا ہے، جس طرح ساری دنیا میں دین داری کم ہو رہی ہے۔ ہمارے بریلوی مولوی جس کے مخالف ہو جائیں، اسے ”وہابی“ کہہ کر بدنام کرتے ہیں۔ یہ دراصل سنتِ انگریز ہے!!

ہم لوگ نہ اہل وہاب ہیں نہ وہابی۔ ہم آنحضرت ﷺ کو آخری نبی مانتے ہیں اور صرف ان کی اطاعت کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چاروں اماموں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ چاروں فقہی مسالک کو یکساں اور برابر سمجھتے ہیں، ان میں جو مسئلہ قرآن و سنت کے موافق ہو، اسے قبول کرتے ہیں اور ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں۔ قبر پرستی، بت پرستی، پیر پرستی سے پرہیز کرتے ہیں اور اسے اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قبروں اور خانقاہوں پر میلوں اور عرسوں کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور بزرگوں کو اس طرح فروخت کرنا اور اپنا پیٹ پالنا گناہ خیال کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا تصور:

آنحضرت ﷺ کا نماز میں تصور کرنا یا نہ کرنا؛ یہ عقائد کا مسئلہ نہیں۔ عقائد کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ عقائد کی مشہور کتابیں شرح عقائد نسفی، عقیدہ طحاوی، شرح عقیدہ اصفہانی، عقیدہ صابونی، خیالی، عبد الحکیم اور شرح مطالع ہیں۔ یہ عقائد کی

کتابیں عام کتب خانوں میں ملتی ہیں۔ کسی میں یہ عقیدہ موجود نہیں۔ معلوم نہیں بریلوی مولوی صاحبان نے یہ عقیدہ کہاں سے بنایا؟ صحیح بات یہ ہے کہ نماز خشوع اور عاجزی سے پڑھی جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے مفہوم و مطلب کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ باقی پریشان خیالات سے ہر نمازی بچنے کی کوشش کرے۔ اگر خیالات دل میں آئیں تو دل میں ”اعوذ..“ یا ”لا حول..“ پڑھے اور خیالات کی آمد کو روکے۔^(۱)

غلطی کی وجہ:

قریباً ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، ایک بزرگ سید احمد بریلوی ہوئے۔ یہ حنفی المذہب تھے۔ نہایت پرہیزگار ولی اللہ تھے۔ انھوں نے سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ جہاد کا فیصلہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بڑے بڑے عالم بھی ان کے مرید تھے۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل بن شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ اور مولانا عبداللہ بڈھانوی حنفی ان کے عقیدت مند تھے۔

مولانا اسماعیل صاحب اہل حدیث تھے۔ سید احمد صاحب حنفی بریلوی صوفی بزرگ تھے، انھوں نے تصوف میں ایک کتاب لکھوائی، جس کا نام ”صراط مستقیم“ ہے۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، اس کے چار باب ہیں۔ اس کے دو باب کا ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب بڈھانوی حنفی نے کیا ہے، اس کے دوسرے باب میں، جس کا ترجمہ مولانا عبداللہ صاحب نے کیا ہے، ایک ایسی عبارت موجود ہے، جس میں بریلوی حضرات کو مغالطہ ہوا اور وہ عبارت کو صحیح نہیں سمجھ سکے۔ اصل عبارت اور اس کا مفہوم آگے آئے گا، لیکن مہربانی فرما کر آپ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، سید احمد بریلوی ڈھنڈھے بھی حنفی ہیں اور مولانا عبداللہ صاحب بڈھانوی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ اس

(۱) دیکھیں: صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۴۳) ولفظہ: ﴿فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَمَعُودٌ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتَّقِ﴾

علیٰ یسارک ثلاثاً ﴿

کتاب کے مصنف ہیں نہ اس باب کے مترجم۔ یہ تو تاجر کتب حضرات کی ہوشیاری ہے کہ انھوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر شاہ اسماعیل صاحب کا نام لکھ دیا اور بریلوی حضرات کی لائسنسی کا نشانہ بن گئے، حالانکہ وہ بے چارے بالکل بے قصور ہیں اور شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بھی بدنام ہوگئی، حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ مسئلہ مرقوم نہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم ان بزرگوں کو اختلاف مسلک کے باوجود نیک اور بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو پیغمبر یا اپنا امام نہیں مانتے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اور بھی تصنیفات ہیں، جن میں ہر قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں، ان میں غلط بھی ہیں اور صحیح بھی۔ ہم ان حضرات میں سے کسی کے مقلد نہیں، ان کو اچھے عالم اور بزرگ سمجھتے ہیں۔ بریلوی حضرات معلوم نہیں، یہ غلط بیانی کیوں کرتے ہیں کہ یہ حضرات ہمارے امام ہیں؟ آپ یقین فرمائیں، ان کی کتابیں ہمارے لیے حجت ہیں نہ یہ بزرگ ہمارے امام۔ اب ہمارا فرض نہیں کہ میں اصل عبارت کی تشریح کروں یا مغالطے کا اظہار، لیکن آپ کی تسکین کے لیے اصل عبارت اور اس کا مطلب عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

سید احمد رضاؒ کا مقصد یہ ہے کہ نماز پوری توجہ سے ادا ہونی چاہیے، اس میں خیالات اور وسوسوں کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، خصوصاً ایسے خیالات جن سے خدا تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت میں فرق آئے، کیونکہ عبادت میں پہلی چیز خدا تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور برتری ہے اور دوسری چیز عبادت میں انسان کا بجز و انکسار اور حاجت مندی کا اظہار ہے، ان دو چیزوں میں جن خیالات سے نقص پیدا ہو، اللہ کی عزت و برتری میں فرق آئے یا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اس کے دل میں تکبر آجائے، وہ خیالات درست نہیں۔

عبادت میں آنحضرت ﷺ کا ذکر بطور ”عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ آئے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی عظمت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ اس میں ان کی عبدیت اور رسالت کا اقرار ہے، اسی طرح مغضوب اور منعم علیہ گروہوں کے خیال سے بھی اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ انعام بھی احتیاج ہے اور غضب میں ان نافرمانیوں کی تحقیر ہے، اس لحاظ سے یہ خیال اللہ کی عظمت سے نہیں ٹکراتا، لیکن اگر کسی ولی، بزرگ یا نبی کا خیال آجائے تو ان کی عظمت، ان کی بزرگی کا خیال اور تصور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سے ٹکرائے گا، آپ اس کے لیے ”اعوذ“ پڑھ سکتے ہیں نہ ”الاحول“۔ اس کے خلاف اگر بتل گدھے یا کسی ذلیل اور حقیر چیز کا خیال آجائے، آپ فوراً ”الاحول“ یا ”اعوذ“ پڑھ کر اسے دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عزت اس سے متاثر نہیں ہوگی۔

سید صاحب رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے دوسرے کوئی بھی نماز میں نہ آنا چاہیے نہ ہی لانا چاہیے، لیکن بعض دوسرے نماز میں زیادہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض کم۔ صوفیانہ لحاظ سے سید صاحب نے واقعی عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، لیکن کند ذہن آدمی جو اتنی گہرائی تک نہ جاسکے، وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے گا۔ مقابلہ حضرت ﷺ کی ذات گرامی اور گادوخر میں نہیں، مقابلہ دوسرے کے نقصان اور مضرت میں ہے۔

ایک شخص کہتا ہے کہ گرم لوہا جلانے کے لحاظ سے گرم پانی سے زیادہ معتر ہے۔ مقابلہ لوہے اور پانی کی قیمت میں نہیں ہوگا، بلکہ لوہے اور پانی میں گرمی کی تاثیر کا ہوگا۔ سید صاحب رحمہ اللہ نے اس عیث اور لطیف بات کو سمجھانے کے لیے متعدد صنفے لکھے ہیں، لیکن بریلوی علما کا بغیض ذہن کچی بات سمجھنے میں حائل ہو گیا۔ سید صاحب رحمہ اللہ کی پوری بات سمجھنے کے لیے اگر آپ پسند فرمائیں تو اصل کتاب بھیج دوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن کھول دے۔ سید صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طبائع کے لحاظ سے دوسرے کا اثر ہر طبیعت پر مختلف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایسے بزرگ نماز میں لشکر

مرتب فرمالتے تھے؛^① ان کی نماز میں ان کے خشوع پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے بزرگوں اور اہل اللہ کی ریس کر کے اپنی نماز نہیں خراب کرنی چاہیے۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دوسرے لا علاج ہے، اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا کسی کامل پیر کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارے۔ دوسرا قابل علاج ہے، اس کا علاج ذکر فرمایا ہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں:

”اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نماز میں سامان لشکر کی تدبیر کیا کرتے تھے، سو اس قصے سے مغرور ہو کر اپنی نماز کو تباہ نہ کرنا چاہیے۔“

کارِ پاکاں را قیاس از خود مگر

گرچہ ماند در نوشن شیر و شیر^②

”حضرت خضر رضی اللہ عنہ کے لیے کشتی توڑنے اور بے گناہ بچے کو مار ڈالنے میں

بڑا ثواب تھا اور دوسروں کے لیے نہایت درجے کا گناہ ہے۔ جناب

فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ درجہ تھا کہ لشکر کی تیاری آپ کی نماز میں خلل نہیں ڈالتی

تھی،^③ اس لیے کہ وہ تدبیر اللہ جل شانہ کے الہامات سے آپ رضی اللہ عنہ کے دل

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۰۸ / ۱) تعلیقاً. مصنف ابن ابی شیبہ (۲ / ۱۸۶) تغلیق
التغلیق (۲ / ۴۴۸)

② نیک لوگوں کے عمل کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، اگرچہ شیر (درغہ) اور شیر (دودھ) ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔

③ مگر یہ علی الاطلاق صحیح نہیں، بلکہ بعض اوقات اس قسم کے خیالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں بھی خلل ڈال دیتے تھے، چنانچہ امام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور قراءت چھوڑ گئے۔ فارغ ہونے کے بعد نمازیوں نے کہا: آپ قراءت چھوڑ گئے ہیں۔ فرمایا: میں ایک تجارتی قافلے کے متعلق سوچ رہا تھا، جسے میں نے مدینے سے رخصت کیا اور شام تک پہنچایا۔ پھر دوبارہ قراءت کے ساتھ نماز پڑھائی اور فرمایا: جس نماز میں قراءت نہیں، وہ نماز نہیں۔ فاروق اعظم سے ثقہ راویوں نے یہ واقعہ مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے، جسے حافظ ابن حجر نے مختلف حالات پر محمول کیا ہے۔ (فتح الباری طبع دہلی: ۵ / ۶۳۳) محمد اسحاق، عقی عنہ.

میں ڈالی جاتی تھی اور جو شخص خود کسی امر کی تدبیر کی طرف متوجہ ہو، خواہ وہ امر دینی ہو یا دنیاوی، تو یہ صورت بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اور جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے، وہ جانتا ہے، ہاں بمقتضائے ﴿ظَلَمْتُ﴾ بعضہا فوق بعض ﴿﴾ زنا کے دوسے سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف، خواہ جناب رسالت مآب ﷺ ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چٹ جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال میں نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ حاصل کلام یہاں وسوسوں کے تضاد کا بیان کرنا مقصود ہے۔“

اصل کتاب فارسی میں ہے، میں نے بقدر ضرورت ترجمہ نقل کر دیا ہے۔

سید صاحب یہاں آنحضرت ﷺ اور بزرگوں کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتے ہیں، بریلوی مولوی صاحبان نے اسے توہین بنا ڈالا۔ سمجھ اُلٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ومن بضلل فلا ہادی لہ!

اس امر پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ نماز خشوع اور انابت سے ادا کرنی چاہیے۔ وسوسے اور خیالات نماز میں نقصان پیدا کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ سید صاحب رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا۔ سید صاحب رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ رذی اور حقیر چیزوں کا خیال اس لیے زیادہ مضر نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ معزز اور محبوب چیزیں زیادہ مضر ہیں کہ ان کی عزت اور محبت دل پر غالب ہوتی ہے۔ آپ ان بریلوی علمائے کرام سے فرمائیں کہ ان کے ہاں کیا صورت ہوگی، کیا گاؤ و خر کے تصور سے نماز میں صرف نقص پیدا ہوگا اور بزرگوں کے تصور سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا بریلوی حضرات خشوع کی نماز میں

ضرورت ہی نہیں سمجھتے؟ آپ کے ہاں کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، مجوسی کے تصور میں فرق نہیں، سب یکساں ہیں۔ آپ کے سوال کے آخری حصے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی چارہ ہی نہیں۔ بہر حال سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں خشوع ضروری سمجھتے ہیں اور خیالات اور دوسوسوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ دوسوسوں میں بھی فرق کرتے ہیں، بعض زیادہ مضر اور بعض کم، اور اس میں مقابلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات اور (معاذ اللہ) گاؤں و خر میں نہیں، بلکہ اچھے اور برے، مضر دوسوسوں میں مقابلہ ہے۔

ایک فقہی نظیر:

ذہن کو صاف کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ فقہائے حنفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی ایک دو تصریحات پر غور فرمائیں:

”لَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى الْمُصْحَفِ، وَقَرَأَ، فَسَدَّتْ صَلَاتُهُ لَا إِلَى فَرَجِ امْرَأَةٍ لَشَهْوَةٍ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْلِيمٌ وَتَعَلَّمَ فِيهَا، لَا الثَّانِي“

(الاشباه والنظائر، ص: ۷۷۰)

”اگر نماز پڑھنے والا قرآن میں دیکھ کر پڑھے تو اس کی نماز (احناف کے نزدیک) فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ اس میں تعلیم و تعلم ہے، لیکن اگر عورت کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔“

مولوی احمد رضا صاحب لکھتے ہیں:

”اگر عورت کو طلاق رجعی دی تھی، ہنوز عدت نہ گزری۔ یہ نماز میں تھا کہ عورت کی فرج داخل پر نظر پڑ گئی اور شہوت پیدا ہوئی، پھر رجعت ہو گئی اور نماز میں فساد نہ آیا۔“ (لادقی رضویہ: ۱/۶۷)

مولوی صادق صاحب اور دوسرے بریلوی مولوی صاحبان سے دریافت فرمائیں:

کیا شرم گاہ قرآن سے افضل ہے؟ قرآن سے نماز فاسد ہے، شرم گاہ کے ملاحظے سے نماز پر کوئی اثر نہ پڑے۔ شامی اور مراقی الفلاح میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔^(۱) جو توجیہ آپ کے بزرگ اس کے لیے کریں گے، اسی قسم کا عذر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہوگا۔

دوسرا مسئلہ:

قَالَ إِمَامٌ بَعْدَ شَهْرٍ: كُنْتُ مَجْرُومًا، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: صَلَّيْتُ بِغَيْرِ وُضوءٍ أَوْ فِي نُوبٍ نَجِسٍ، أَعَادُوا، إِنْ كَانَ مُتَبَيِّنًا،
(الأشباه، ص: ۷۲۰)

”اگر امام ایک ماہ امامت کے بعد کہتا ہے کہ میں مجوسی تھا، مقتدی کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر امام کہے کہ میں نے بے وضو یا پلید کپڑے میں نماز پڑھائی ہے تو بصورت یقین بے وضو نماز لوٹانی پڑے گی۔“

اب اگر آپ پر یہ الزام لگایا جائے کہ آپ مجوسی آتش پرست کو بے وضو مسلمان سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ اسے پسند کریں گے؟ اگر یہاں فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کی توجیہات صحیح سمجھی جا سکتی ہیں تو سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے علماء سے دریافت فرمائیں۔ مجھے خطرہ ہے، اگر آپ نے مسائل میں تحقیق شروع کی تو محلے میں آپ کا مقاطعہ کرایا جائے گا اور مسجد میں آپ کا داخلہ بند ہو جائے گا۔

ہم جس طرح ائمہ اربعہ اور فقہائے مذاہب کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی باوجود حنفی ہونے کے اپنا بزرگ اور عالم سمجھتے ہیں، ان کی جو باتیں قرآن و حدیث اور مصالح کے مطابق ہوں، انھیں قبول کرتے ہیں۔ جو سمجھ میں نہ آئیں، انھیں نظر انداز کر دیتے

(۱) رد المحتار (۱/ ۶۶۹) مراقی الفلاح (ص: ۱۵۲)

ہیں، لیکن ان کو برا بھلا نہیں کہتے، نہ ان کو انبیاء کی طرح واجب الطاعتہ جانتے ہیں۔

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي

قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العنكبوت: ۱۰۹]

میں آخر میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے تحقیق کرنے کی جرات فرمائی۔

اللہ تعالیٰ آپ کو سچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

(ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور، ۳ نومبر ۱۹۶۷ء)

www.KitaboSunnat.com



جامعہ اسلامیہ تعلیم و تربیت گوجرانوالہ

جامعہ اسلامیہ تلیقیہ

جامعہ مہنجد مکرّم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن
گوجرانوالہ

شعبہ جات

• علوم اسلامیہ (ورس نظامی)

• تجوید القرآن • حفظ القرآن

• ترجمہ القرآن • ناظرۃ القرآن

• تعلیم بالغاں • تعلیم نسواں

• نشر و اشاعت • دارالافتاء

خصوصیات

پندرہ سالہ سابقہ تعلیم یافتہ اور محقق اساتذہ کی گروہی تدریس
تربیت کا اعلیٰ ترین اہتمام طلبہ کی آسودہ سازی اور جدید علمی و عملی
ماحول مہیا کرنا اور عملی لائبریری لگائی تاکہ وہ اپنے مجال طلبہ کے
لیے ہمہ جہتی توجہ سے خدمات

نوٹ

جامعہ ہذا کے تمام شعبہ جات کا
آغاز 10 شوال سے ہوتا ہے



پہلے کالو

0321-7202700
055-3846592

جامعہ مہنجد مکرّم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

055-3846592

0321-7202700

10